

# المهدي

مُصَنَّفٌ

آيَةُ اللَّهِ الْعَظِيمِ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رضوان الله عليه)



## مجمع العلماء الإسلامی

ی-۸، صدف ٹیلس-ڈی / ۱۱۵- پی ای، سی ایچ، انیس- بلاک ۳- کراچی- پاکستان

## فہرست

- ۱۳ \_\_\_\_\_ ○ کچھ اپنے بارے میں
- ۱۷ \_\_\_\_\_ ○ سپاس گزاری
- ۱۹ \_\_\_\_\_ ○ عرضِ ناشر
- ۲۵ \_\_\_\_\_ ○ پیش گفتار
- ۲۹ \_\_\_\_\_ ○ اجمالی خاکہ
- ۳۵ \_\_\_\_\_ ○ فصل اول : آیاتِ شریفہ
- ۳۶ \_\_\_\_\_ ○ آیاتِ مبارکہ
- ۴۲ \_\_\_\_\_ ○ احادیثِ نبویؐ
- ۴۷ \_\_\_\_\_ ○ حضرت علیؑ علیہ السلام کے خطبات
- ۵۱ \_\_\_\_\_ ○ علمائے کرام کی تصریحات
- ۵۲ \_\_\_\_\_ ○ اشعار و نظمیں آپؐ کا ذکر
- ۷۱ \_\_\_\_\_ ○ فصل دوم : مہدیؑ عرب سے ہیں
- ۷۲ \_\_\_\_\_ ○ مہدیؑ عرب سے ہیں

- ۷۵ \_\_\_\_\_ مہدیؑ اسی امت (امتِ مروجہ) سے ہیں
- ۸۶ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ گنجانہ میں سے ہیں
- ۸۷ \_\_\_\_\_ مہدیؑ قریش سے ہیں
- ۹۱ \_\_\_\_\_ مہدیؑ بنی ہاشم میں سے ہیں
- ۹۳ \_\_\_\_\_ مہدیؑ اولادِ عبدالملک سے ہیں
- ۹۵ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ اولادِ ابوطالب سے ہیں
- ۱۰۱ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ آلِ محمدؐ سے ہیں
- ۱۰۶ \_\_\_\_\_ مہدیؑ حضرت رسولؐ سے ہیں
- ۱۱۱ \_\_\_\_\_ مہدیؑ اہل بیتؑ سے ہیں
- ۱۱۵ \_\_\_\_\_ مہدیؑ ذوی القربیٰ سے ہیں
- ۱۱۸ \_\_\_\_\_ مہدیؑ ذریت سے ہیں
- ۱۲۳ \_\_\_\_\_ مہدیؑ اولادِ علیؑ سے ہیں
- ۱۲۵ \_\_\_\_\_ مہدیؑ اولادِ فاطمہؑ سے ہیں
- ۱۲۸ \_\_\_\_\_ مہدیؑ اولادِ سبطینؑ میں سے ہیں
- ۱۳۱ \_\_\_\_\_ مہدیؑ اولادِ امام حسینؑ سے ہیں
- ۱۳۳ \_\_\_\_\_ مہدیؑ امام حسینؑ کی نویں پشت سے ہیں
- ۱۳۶ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ اولادِ امام صادقؑ سے ہیں
- ۱۳۸ \_\_\_\_\_ مہدیؑ اولادِ امام رضاؑ سے ہیں
- ۱۳۳ \_\_\_\_\_ مہدیؑ امام حسنؑ عسکریؑ کے فرزند ہیں
- ۱۵۱ \_\_\_\_\_ فصل سوم : حضرت مہدیؑ کی صفات و محاسن

- ۱۵۲ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کی صفات
- ۱۵۳ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کا اخلاق
- ۱۵۶ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ شبیہ رسولِ اکرمؐ ہیں
- ۱۵۸ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کی سیرت
- ۱۵۹ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کا علم
- ۱۶۱ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کی قضاوت
- ۱۶۳ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کا کرم و بخشش
- ۱۶۳ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کی سلطنت
- ۱۶۵ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کی اصلاحات
- ۱۶۶ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کی بیعت
- ۱۶۷ \_\_\_\_\_ مہدیؑ منتظر فقط ایک ہی ہیں
- ۱۷۳ \_\_\_\_\_ اعتراض کا جواب
- ۱۷۶ \_\_\_\_\_ جواب
- ۱۸۳ \_\_\_\_\_ فصل چہارم : حضرت مہدیؑ کا مقام و منزلت
- ۱۸۳ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کا مقام و منزلت
- ۱۸۵ \_\_\_\_\_ رفعتِ حضرت مہدیؑ
- ۱۸۷ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ و حضرت عیسیٰؑ
- ۱۸۹ \_\_\_\_\_ جواب
- ۱۹۲ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ اور امتِ محمدیہؐ
- ۱۹۹ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ اور ہمیشہ

- ۲۰۱ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ اور اطاعت
- ۲۰۲ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ اور حق
- ۲۰۳ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ اور امرِ خلافت
- ۲۰۴ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ اور امرِ بیعت
- ۲۰۵ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ اور فرشتے
- ۲۰۶ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ اور اصحابِ کف
- ۲۰۷ \_\_\_\_\_ مصنف کتابِ ہذا
- ۲۰۸ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ نجاتِ خدا ہیں
- ۲۰۹ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ اور اختتامِ دین
- ۲۱۰ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ بارہویں خلیفہ ہیں
- ۲۱۱ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ بارہویں وصی ہیں
- ۲۱۲ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ بارہویں امام ہیں
- ۲۱۳ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ امامِ عصر ہیں
- ۲۱۴ \_\_\_\_\_ کم سن بچے کا نبی یا امام ہونا
- ۲۱۵ \_\_\_\_\_ فصلِ بیہم : حضرت مہدیؑ کی ولادت کے بارے میں
- ۲۱۶ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کی ولادت
- ۲۱۷ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کا نام، لقب اور کنیت
- ۲۱۸ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کے والدین اور ان کے اسماء
- ۲۱۹ \_\_\_\_\_ کتابِ مطالب السؤل میں تحریرِ اعتراض
- ۲۲۰ \_\_\_\_\_ جوابِ اعتراض


- ۲۵۹ \_\_\_\_\_ مطالب السؤل
- ۲۶۰ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کی طویل عمر
- ۲۶۰ \_\_\_\_\_ تذکرۃ الامۃ
- ۲۶۲ \_\_\_\_\_ مطالب السؤل
- ۲۶۲ \_\_\_\_\_ انسان کی طویل عمر کا راز
- ۲۶۹ \_\_\_\_\_ اقتباس از رسالہ الحقیقت
- ۲۷۷ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ زندہ اور مرزوق ہیں
- ۲۸۶ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کا دیدار کرنے والے
- ۲۸۸ \_\_\_\_\_ پہلا واقعہ
- ۲۹۳ \_\_\_\_\_ دوسرا واقعہ
- ۲۹۵ \_\_\_\_\_ فصل ششم : غیبت کے بارے میں نقل شدہ روایات
- ۲۹۶ \_\_\_\_\_ غیبت کے بارے میں نقل شدہ روایات
- ۳۰۰ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کی غیبت کی کیفیت
- ۳۱۰ \_\_\_\_\_ حضرت مہدیؑ کا مقام غیبت
- ۳۱۳ \_\_\_\_\_ مرداب اور آپؑ کی زیارت
- ۳۱۶ \_\_\_\_\_ وجوہات اور فلسفہ غیبت
- ۳۲۱ \_\_\_\_\_ (۱) شیعوں، بلکہ غیر شیعوں کی سرزنش اور تنبیہ
- (۲) آپؑ کا اپنی دعوت کے سلسلے میں بیرونی دباؤ کے تحت نہ رہنا اور تمام امور کو براہ راست ہاتھ میں رکھنا
- ۳۲۳ \_\_\_\_\_
- (۳) نفوسِ انسانی کی تہذیب و تکمیل
- ۳۲۶ \_\_\_\_\_

- ۳۳۱ \_\_\_\_\_ (۴) لوگوں کا امتحان اور آزمائش
- ۳۳۲ \_\_\_\_\_ (۵) قتل کا اندیشہ
- ۳۳۳ \_\_\_\_\_ پندرہ سوالات آپ کے خوف کے بارے میں اور ان کے جوابات
- ۳۳۵ \_\_\_\_\_ نعبتِ صغریٰ و نعبتِ کبریٰ
- ۳۳۸ \_\_\_\_\_ اہم مآتب کے فیوضات، کس طرح
- ۳۵۳ \_\_\_\_\_ نعبت میں آپ کے وکلاء
- ۳۵۸ \_\_\_\_\_ نعبتِ کبریٰ میں آپ کے وکلاء
- ۳۶۱ \_\_\_\_\_ فصلِ ہفتم : ظہور کی پندرہ علامات کے بارے میں
- ۳۶۲ \_\_\_\_\_ تمہید
- ۳۶۳ \_\_\_\_\_ پہلی قسم
- ۳۶۳ \_\_\_\_\_ دوسری قسم
- ۳۶۴ \_\_\_\_\_ متعلقہ روایات کا مختصر خاکہ
- ۳۶۵ \_\_\_\_\_ ندائے آسمانی کا سنائی دینا
- ۳۶۵ \_\_\_\_\_ آسمانی نشانیاں
- ۳۶۶ \_\_\_\_\_ سورج اور چاند گمن
- ۳۶۷ \_\_\_\_\_ لوگوں میں عداوت اور مناقبت
- ۳۶۸ \_\_\_\_\_ ظلم و ستم
- ۳۶۹ \_\_\_\_\_ نفسا نفس کا دور دورہ
- ۳۶۹ \_\_\_\_\_ قتل اور موت
- ۳۷۰ \_\_\_\_\_ آفت اور نعت

- ۳۷۲ \_\_\_\_\_ سید خراسانی
- ۳۷۳ \_\_\_\_\_ نفسِ زکیہ کا قتل
- ۳۷۴ \_\_\_\_\_ دجال کا خروج
- ۳۷۵ \_\_\_\_\_ سفیانی کا خروج
- ۳۸۱ \_\_\_\_\_ النصوص المصححة
- ۳۸۹ \_\_\_\_\_ فصل ہشتم : ظہورِ مدیٰ منتظر کے بارے میں
- ۳۹۰ \_\_\_\_\_ انتظار کی فضیلت
- ۳۹۵ \_\_\_\_\_ توقیت کی ممانعت
- ۳۹۸ \_\_\_\_\_ آپؐ کے ظہور کا آخری زمانے میں واقع ہونا
- ۴۰۱ \_\_\_\_\_ روزِ ظہور آپؐ کے اوصاف
- ۴۰۲ \_\_\_\_\_ آپؐ کے ظہور کا مقام
- ۴۰۵ \_\_\_\_\_ آپؐ کی بیعت کا مقام
- ۴۰۷ \_\_\_\_\_ آپؐ کے اسبابِ نوح کی تیاری
- ۴۱۰ \_\_\_\_\_ ظہور سے قبل رونما ہونے والے بعض امکانی واقعات
- ۴۱۳ \_\_\_\_\_ آپؐ کے انصار و اعداؤں
- ۴۱۷ \_\_\_\_\_ فرشتوں کی نصرت کا شامل حال ہونا
- ۴۱۷ \_\_\_\_\_ نزولِ حضرت عیسیٰ بن مریمؑ
- ۴۲۲ \_\_\_\_\_ ظہور کی برکات
- ۴۲۵ \_\_\_\_\_ آپؐ کی دعوت کس چیز کی جانب ہوگی
- ۴۲۸ \_\_\_\_\_ آپؐ کی میرٹ مبارکہ



- ۳۳۰ \_\_\_\_\_ آپ کا حسنِ اخلاق \_\_\_\_\_
- ۳۳۱ \_\_\_\_\_ دین کا آپ کے ہاتھوں اختتام تک پہنچنا \_\_\_\_\_
- ۳۳۲ \_\_\_\_\_ یہود اور نصاریٰ \_\_\_\_\_
- ۳۳۳ \_\_\_\_\_ دینِ اسلام کا غلبہ \_\_\_\_\_
- ۳۳۴ \_\_\_\_\_ آپ کے اصلاحی کام \_\_\_\_\_
- ۳۳۵ \_\_\_\_\_ آپ کی فتوحات اور مملکت کی وسعت \_\_\_\_\_
- ۳۳۶ \_\_\_\_\_ آپ کی خلافت اور سلطنت \_\_\_\_\_
- ۳۳۷ \_\_\_\_\_ اختتام ○ \_\_\_\_\_



”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“

## کچھ اپنے بارے میں

”الذین یبلغون رسالات اللہ ولا یخشون احدا الا اللہ“

”جو لوگ (علماء) اللہ کے احکامات کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور وہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے۔“

(سورہ احزاب - آیت ۳۹)

جیسا کہ ہم اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ قرار دیا ہے، ایک روح اور دوسرے بدن۔ چنانچہ یہ بدیہی بات ہے کہ ایسے موجود کو اس دنیا میں ایسے اساسی قوانین کی ضرورت ہوگی جنہیں بنیاد بنا کر وہ اپنی زندگی میں توازن برقرار رکھ سکے۔ ایسے ہی قوانین کے مجموعہ کا نام ”اسلام“ ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے۔

”ان الذین عند اللہ الا سلام“

”بے شک خدا کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔“

(سورہ شوریٰ - آیت ۱۹)

اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ کے ذریعہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ انسان اپنی  
 دینی اور دنیوی احتیاجات کو صرف اور صرف اسلام ہی کے سائے میں پورا کر سکتا  
 ہے۔

اس دین کو خدا نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم کے ذریعہ انسانوں تک پہنچایا۔ جیسا کہ قرآنِ کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔  
 ”ہوالانی بعث فی الامیین رسولا منهم  
 یتلووا علیہم آیاتہ ویزکیہم و یعلمہم الکتاب  
 والحکمۃ۔“

”وہ خدا ایسی ذات ہے کہ جس نے (امیہیں) کے درمیان انہی میں  
 سے رسول بھیجا کہ جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انکا  
 تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

آنحضرتؐ کی حیاتِ طیبہ کے بعد خدا نے اس الہی رسالت کو رسولؐ کے  
 نائبین برحق کے حوالے کیا اور انہیں مطاہرینِ علم السلام نے اپنے اپنے دور میں  
 اس ذمہ داری کو بطور احسن اور اتم انجام دیا۔ اور اب جب کہ خدا کی آخری  
 حجت (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) پر وہ غیب میں ہیں ان کے نائبین یعنی ”علماء“  
 پر لازم ہے کہ اس سنگین الہی فریضے کو انجام دیں، کیونکہ رسول اللہؐ کا ارشاد  
 ہے۔

”العلماء ورثة الانبیاء“

”علماء انبیاء کے وارث ہیں۔“

بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں اور اسکے سامنے خاضع و

خاشع ہیں جیسا کہ خود خدائے وحدہ لا شریک کا اپنی کتاب مقدس میں ارشاد ہے۔  
 ”انما یخشى الله من عباده العلماء“  
 ”اللہ سے فقط علماء ہی ڈرتے ہیں۔“

لہذا اس الہی اور مقدس فریضہ و رسالت کو بنی نوع انسان تک پہنچانے کے لئے حوزہ علمیہ قم کے چند علماء اور فضلاء کرام نے خداوند عالم کے اس فرمانِ عظیم ”ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر“ (ضرور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو نیکی کی طرف دعوت دے۔) کے پیش نظر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا، اور اس احساس کی بدولت کوشش کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مختلف ابواب سے متعلق معلومات سریع ترین اور جدید ترین وسائل کے ذریعہ فراہم کریں۔ اس سلسلے میں فقہی احکام، عقائد، تاریخ اسلام، تفسیر و تشریح آیات قرآن کریم اور دیگر اسلامی تعلیمات کے بارے میں سوالات کے جواب دینے کا امکان فراہم کیا گیا ہے۔

ان وظائف و فرائض اسلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہیں منظم طور پر انجام دینے کے لئے ایک ورثی اور تبلیغی ادارہ بنام ”مجمع العلماء الاسلامی“ کی بنیاد رکھی گئی ہے تاکہ حتی المقدور اپنے الہی فریضے کو انجام دینے میں دوسرے تمام علماء اسلام کے ساتھ سہم و شریک ہو سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس طریقہ سے ہم جدید دور میں اسلامی تحریکوں اور مسلمانوں کی بعض فکری مشکلات کو حل کر سکیں گے۔ ”واللہ هو الموفق المعین بحق محمد وآلہ الطاہرین اجمعین“



## سپاس گزاری

الحمد لله رب العلمین ---

اراکین مجمع العلماء الاسلامی (GIS) رب جلیل کے نہایت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطاء فرمائی کہ "الہندی (عج)" جیسی نگرانتقد اور اہم کتاب اردو زبان قارئین کے لئے پیش کر سکیں۔

کتاب ہذا کو عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو مصنف نے ماہ صفر المظفر ۱۳۵۸ ہجری قمری یعنی تقریباً ۱۹۷۱ سال قبل تحریر فرمایا ہے۔ اور او مجمع العلماء الاسلامی :-

- جناب مستطاب عجد الاسلام و المسلمین سید علی اصغر میلانی، وامت برکاتہ
- جناب عجد السلام سید حسین حیدر رضوی، وامت توفیقاتہ
- جناب برادر سید سعید حیدر زیدی

اور


- جناب حسین علی حیوانی (اللہ ان سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے) کا تہہ دل سے مشکور ہے کہ ان احباب اور بزرگواروں نے کتاب ہذا کی اشاعت کے سلسلے میں ہم سے تعاون فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ

ان تمام افراد کو جنہوں سے کسی نہ کسی طریقہ سے اس کتاب ”المہدی (عج)“ میں ہماری معاونت اور مدد فرمائی ہے انہیں ثواب دارین اور زیارت امام عصر عجی اللہ تعالیٰ فریدہ الشریف نصیب فرمائے۔ اور ہم سب کو آنحضرتؐ کے خاص شیعوں اور اصحاب میں قرار دے اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین  
یا رب العالمین۔

اوراہ

مجمع العلماء الاسلامی

قم۔ کراچی



## عرض ناشر

کتاب ہذا مرحوم آیت اللہ سید صدر الدین صدر کی علمی و تحقیقی کاوش ہے جس میں انہوں نے حضرت ممدی علیہ السلام کے وجود ان کی امامت اور نبیت کے متعلق اہل سنت سے مروی احادیث کو ترتیب وار جمع اور ان کے ذریعے استدلال کیا ہے۔

یہ ان لوگوں کے لئے بہترین تحقیق ہے جو حضرت ممدی علیہ السلام کے موضوع کو فقط شیعوں سے مختص قرار دیتے ہیں اور اپنی دانست میں سمجھتے ہیں کہ اس عقیدہ کا اہل سنت سے کوئی سروکار نہیں۔ ایسے لوگ دراصل اپنے منافع اور ماخذ سے نا آشنائی، کج فہمی اور تعصب کی وجہ سے اس موضوع کا انکار کرتے ہیں۔

ہم یہاں بطور نمونہ ان چند کتب کے نام پیش کرتے ہیں جو حضرت ممدی علیہ السلام کے بارے میں علماء اہل سنت نے تحریر کی ہیں۔

(۱) جزء فی الحمہدی

تالیف : ابو حسین بن النادی۔ متوفی ۳۳۶ھ ق

ابن حجر عسقلانی اس کتاب کے بعض مطالب کو اپنی کتاب فتح الباری میں لے کر آئے ہیں۔

(۲) المہدی

تالیف : حافظ ابو نعیم اصفہانی۔ متوفی ۳۳۰ھ ق

یہ کتاب کشف الظنون (جلیبی) میں ذکر ہوئی ہے اور اسماعیل پاشا نے بدایہ العارفین میں اس کا نام لیا ہے۔

(۳) المہدی

تالیف : ابن قیم جوزی۔ متوفی ۷۶۷ھ ق

(۴) العرف الوردی فی اخبار المہدی

تالیف حافظ جلال الدین سیوطی۔ متوفی ۹۱۱ھ ق

(۵) تلخیص البیان فی اخبار مہدی آخر الزمان

تالیف : علی ابن حسام الدین ثقی الہندی۔ متوفی ۹۷۵ھ ق

(۶) مختصر القول فی علامات المہدی المنتظر

تالیف : ابن حجر بیہقی۔ متوفی ۹۷۳ھ ق

(۷) التوضیح فی تواریخ ما جاء فی المہدی المنتظر والد

جالوالمسیح

تالیف : قاضی القضاة اشوکانی۔ متوفی ۱۲۵۰ھ ق

(۸) الرد من حکم و قضی بان المہدی الموعود جاء و

مضی

تالیف : ملا علی القاری۔ متوفی ۱۰۱۳ھ ق



(۹) القطر الشہدی فی اوصاف المہدی

تالیف : شہاب الدین حلوائی الشافعی - متوفی ۱۳۰۸ھ ق

(۱۰) اصح ماورد فی المہدی

تالیف : شیخ محمد حبیب اللہ شنقیطی - متوفی ۱۳۶۳ھ ق 'جامعہ

الازہر کے مشہور علماء میں سے تھے۔

قابل ذکر ہے کہ مندرجہ بالا کتابیں چوتھی صدی سے لیکر چودھویں صدی

تک کے صف اول کے علماء نے تحریر کیں۔

ان کتابوں میں اہل سنت کے جید علماء جن میں ابو نعیم اصفہانی، جلال الدین

سیوطی، صاحب کنز العمال علی ابن حسام الدین متقی المہندی، قاضی شوکانی، شیخ محمد

حبیب اللہ شنقیطی نظر آتے ہیں۔

ظاہر ہے اس موضوع کی اہمیت ہی کی وجہ سے اور اس کو زندہ رکھنے کے لئے

ان علماء حضرات نے قلم اٹھایا اور اس عقیدہ کو بنیادی عقیدہ قرار دیتے ہوئے

منکرین اور متوہمین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔

ہم جوہ الاسلام و المسامین سید علی اصغر میلانی کے بے حد شکر گزار ہیں

جنہوں نے ہر مرحلے پر راہنمائی اور مفید مشوروں سے نوازا اور یہ مبارک کوشش

بھی آپ ہی کے مشوروں کا نتیجہ ہے۔

کچھ کتاب کے مصنف کے بارے میں

خاندان صدر اپنی علمی اور اجتماعی حیثیت کی وجہ سے عالم تشیع میں ایک

خاص مقام رکھتا ہے۔ سید صدر الدین صدر سے لے کر شہید محمد باقر صدر تک

اس خاندان کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جیل عامل، نجف اور قم میں اس خاندان نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ چاہے یہ خدمات علمی آثار کے ذریعے ہوں یا جام شہادت نوش کر کے کتب تشیع کے دفاع کی صورت میں۔ لہذا میں فرانسیسی استعمار، عراق میں برطانوی استعمار اور حزب بعث کے خلاف کلمہ حق باند کیا۔

مرحوم سید صدرالدین صدر ابن سید اسماعیل صدر ابن سید صدر الدین صدر شہر کاشمین میں ۱۲۹۹ھ ق میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید اسماعیل صدر اور دادا سید صدر الدین صدر مشہور فقہاء میں سے تھے۔ آپ نے ابتدائی درس اور سطحیات کی تعلیم اپنے والد اور شیخ حسن کرطائی سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نجف اشرف تشریف لے گئے جہاں آپ نے مرحوم آخوند خراسانی اور مرحوم محمد حسین نائینی (قدحما) کے درس خارج میں شرکت فرمائی۔ ۱۳۳۳ھ ق میں قم تشریف لائے اور موسس حوزہ علمیہ قم کی خواہش پر قم میں قیام فرمایا۔ آپ مرحوم شیخ عبدالکریم حائری کے معتقد اور مشیر خاص تھے اور انہوں نے آپ کو اور آیت اللہ سید محمد حجت کو اپنا وصی بنایا تھا۔

مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آقا حسین قمی طباطبائی نے جن کا زہد و تقویٰ زبان زد عام و خاص تھا اپنی احتیاطات کو آپ کی جانب ارجاع دیا۔ آپ نے متعدد کتابیں تالیف فرمائیں جن میں۔

(۱) کتاب المہدی فی احوال الحجۃ المنتظر (کتاب ہذا)

(۲) خلاصہ الفصول فی علم الاصول

(۳) رسالہ حقوق

- (۳) التاريخ الاسلامی  
 (۵) حاشیہ عروۃ الوثقی  
 (۶) رسالہ فی اصول دین  
 (۷) لواء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۱۲ جلد پر مشتمل احیث  
 کی کتاب۔

(۸) مدینہ العلم ۲ جلد پر مشتمل احیث اہل بیت کی کتاب۔

آپ کے فرزند ان میں سید رضا صدر جنہوں نے متعدد اسلامی موضوعات پر کتابیں تحریر کی ہیں اور چند سال قبل انتقال فرمایا۔ سید موسیٰ صدر جو لبنان میں عظیم انقلاب کے بانی ہیں جس کا مشاہدہ آج سب کے سامنے ہے، اسرائیل جیسی طاقت سے ان کے تربیت کردہ فرزند نہرو آزما ہیں۔

آیت اللہ شہید محمد باقر صدر (قدہ) اور آیت اللہ سید محمد باقر سلطانی آپ کے داماد ہیں۔

آپ نے ۱۹ ربیع الاول ۱۳۷۳ھ کو قم میں انتقال فرمایا اور حواری حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔

قارئین محترم سے استدعا ہے کہ اپنے مشوروں، قیمتی آراء اور تعمیری تنقید کے ذریعے مستقبل میں بہتر سے بہتر کام کرنے کے سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔

ٹیکرٹری برائے تبلیغ و نشر و اشاعت

مجمع العلماء الاسلامی

قم۔ کراچی



”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“

## پیش گفتار

یہ ایک محفل کا ذکر ہے ایک ایسی شاندار محفل کہ جس کے شرکاء محفل کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ اس محفل میں میری ملاقات اپنے چند اہل علم و فضل دوستوں سے ہوئی۔ گفتگو کا سلسلہ چل نکلا اور پھر بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ حضرت مدنی (مجتہد) کا ذکر آیا۔ نیز آپ کے بارے میں ہم فرقہ شیعہ اثناء عشری کا عقیدہ اور اس عقیدہ کے بنیادی عقائد میں شمار کرنے کا بھی ذکر ہوا۔

حاضرین میں سے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں برادران اہل سنت کا نظریہ پوچھا، نیز یہ سوال بھی کیا کہ آیا ان کے یہاں بھی اس سلسلے میں ایسی روایات نقل ہوئی ہیں کہ جو ہماری روایات کے موافق و ہم معنی ہوں؟ اور آیا ان کے علماء نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے یا نہیں؟

میں نے کہا جی ہاں، بالکل۔ مزید براں ان کے راویوں کے ذریعے متعدد احادیث مستفیضہ بلکہ متواترہ بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء (اہل

سنت) سنہ تو اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تاہم ان میں سے چند ایک کو اس مسئلے کی جزئیات اور چند پہلوؤں پر کچھ اعتراضات ہیں۔

یہ لوگ اس موضوع کو بعید از قیاس جاننے کے علاوہ اس پر اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ جو ان کے یہاں نسل در نسل زبان زد ہیں۔ اور جن کو وہ اپنی کتب اور تالیفات میں عبارات کے اختلاف اور معنی کے اتحاد کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

دوستوں نے کہا کہ آیا تم صرف برادران اہل سنت کی مرویہ احادیث پر اکتفاء کرتے ہوئے کوئی ایسی کتاب تالیف کر سکتے ہو کہ جس میں انہی کی احادیث کی روشنی میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہو۔

میرا کہنا یہ تھا کہ اس طرح کے مسائل میں بحث و تحقیق کرنا جذبات کو نہیں پہنچانے کا سبب ہے، جو میں ہرگز نہیں پسند کرتا۔ خصوصاً اس زمانے میں جب کہ ہم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔

یہاں پر مجھے جواب دیا گیا کہ ہمیں مسائل میں مناظرہ اور بحث کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادب و اخلاق کے دائرے میں رہ کر نہ صرف بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس مورد میں کوئی شخص بھی کسی کو سخت دست کہنے کا حق نہیں رکھتا۔

علاوہ ازیں انسان اپنے عقائد اور افکار میں آزاد ہے۔ اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کا دفاع کرے۔ بلکہ ہم تو برادران اہل سنت کے بعض مولفین کی کتب میں جارحانہ اور چھیٹتے ہوئے الفاظ دیکھتے ہیں جس کی ذمہ داری انہی کے سر ہے۔

یہاں پہنچ کر میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا کہ انشاء اللہ میں آداب و اخلاق کا خیال رکھتے ہوئے اس موضوع پر تحقیق کروں گا۔ اور خدا ہی جس کو چاہے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

اب میرے پاس برادرانِ اہل سنت کی گفتی کی چند کتابیں ہی تھیں جو اس سلسلے میں مفید تھیں۔ خلاصہ یہ کہ میں نے یکے بعد دیگرے کتابوں پر تحقیق شروع کر دی۔ یہاں تک کہ بعض کتابوں کو تو شروع سے آخر تک چھان مارا۔ ان میں سے بہت سی کتب تو ایسی تھیں کہ جن میں سرے سے حضرت صدیق کے بارے میں کوئی مخصوص باب ہی نہ تھا کہ جس میں سے احادیث کی مناسب مقدار کو جمع کرتا اور حدیث کو اس کے متعلقہ عنوان کے تحت ذکر کرتا۔

لیکن پھر بھی میں نے جو حدیث بھی پائی، تو اس کو متعلقہ عنوان کے تحت ذکر کیا ہے اور اگر کوئی حدیث متعدد مطالب پر مشتمل پائی تو ان مطالب کو اس حدیث سے جدا کرتے ہوئے اسکے مناسب عنوان کے تحت ذکر کیا ہے نیز جس حدیث سے اقتباس کی ہے، اس حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔

کتاب ہذا میں مذکور احادیث کو میں نے انہی کتب سے نقل کیا ہے کہ جن میں احادیث موجود تھیں۔ لیکن اگر میرے پاس کوئی کتاب موجود نہ تھی تو اس موروث میں، میں نے اہل سنت کے علمائے کرام کے دیئے گئے حوالوں پر اعتماد کیا ہے۔

احادیث کے نقل کرنے میں، صرف اہل سنت کے مطبع خانوں میں طبع شدہ یا معتبر قلمی نسخوں پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ لیکن اہل سنت کی ایران میں طبع شدہ کتب سے اگر اقتباس کیا بھی ہے تو نہایت قلیل۔ مثلاً البیان فی اخبار

صاحب الزمان، الفصول المهمہ فی معرفۃ الائمۃ اور تذکرۃ  
الائمۃ فی احوال الائمۃ۔

اسکے علاوہ میں نے شیعہ علمائے کرام کی کتب میں منقول ان احادیث نبویؐ کو  
بھی کہ جو برادران اہل سنت کے راویوں سے نقل کی گئیں ہیں، چھوڑ دیا ہے۔  
کہ شاید ان میں بھی اعتراض کا کوئی پہلو ہو۔

صرف کتاب الدرر الموسویہ فی شرح العقائد الجعفریہ،  
سلفہ بناب، استاد معظم مرحوم آیہ اللہ ابو محمد حسن صدر کاظمی طاب ثراہ سے  
نقل آیا ہے۔ وہ بھی صرف ان کے احترام اور حق استادی کی بنا پر۔ نیز ان کی  
کتاب سے نقل کرنے کا مقصد استدلال کرنا نہیں بلکہ اپنے دعوے کی تائید لینا  
ہے۔

خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان احادیث اور ذہنی الاحترام علمائے سلف  
کے کلمات پر تحقیق کے دوران انصاف کا دامن تھامے رکھا اور صراط مستقیم  
سے ہرگز دور نہ ہوا۔ اپنے اوپر اس امر کو لازم کیا کہ میرے عقائد و افکار دلیل  
کے مطابق ہوں نہ کہ اپنے عقائد و افکار کے لئے دلیل تراشوں۔ اور انصاف  
کے ساتھ میری کتاب کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص اس امر کی گواہی دے گا۔

علاوہ ازیں یہ بات ہر انسان کے لئے ضروری ہے (خصوصاً دینی مسائل  
میں) کہ وہ اپنے آپ کو اندھی تقلید، 'وہم' خیال پر دازی، تعصب اور جدال سے  
دور رکھتے ہوئے صرف حقیقت اور سچائی کو مد نظر رکھے اور یہ اٹشدہ حقیقت  
جہاں بھی نظر آئے اس کو اپنالے۔



## اجتہالی خاکہ

علمائے کرام کی، خصوصاً بر اور ان اہل سنت کی کتب پر تحقیق کرنے والا (چاہے وہ کتب بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہوں یا ثانوی تعلیمات کی حامل) شاید ہی کسی موضوع کے بارے میں احادیث مستفیدہ جلد متواترہ کو اس لحاظ سے پائے جتنی کثرت سے امام مہدیؑ کے بارے میں پائے۔ جس کے ناقلین متعدد ہوں اور ائمہ حدیث اور بنید حفاظا کے مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہوں۔

امام مہدیؑ کے بارے میں احادیث نبویؐ، بعض صحابہ کرامؓ اور اہمات المؤمنینؓ سے نقل ہوئی ہیں کہ جس میں اختلاف صرف تنسیل اور اختصار کی حد تک ہے۔

بعض ائمہ حدیث جیسے: بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے بھی امام مہدیؑ کے بارے میں احادیث کو اہل سنت اور تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔

بنید حافظین کرام میں سے امام احمد بن حنبل، ابوالقاسم طبرانی، ابو نعیم



اصغمانی، حماد ابن یعقوب، روحنی اور صاحب کتاب مستدرک حاکم نے بھی نقل کیا ہے۔

اور علماء اسلام میں حنفی، سبط ابن جوزی، خوارزمی، ابن حجر، ملا علی قلی صاحب کنز العمال، شبلی نجفی اور قدوسی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ بعض نے تو اس موضوع پر باقاعدہ ایک جداگانہ کتاب تحریر کی ہے۔ جیسے مناقب المہدی، نعت المہدی، ابو نعیم اصغمانی کی اربعین حدیث، ابو عید اللہ حنفی کی البیان فی اخبار صاحب الزمان، صاحب کنز العمال ملا علی قلی کی البرہان فیما جاء فی صاحب الزمان، حماد بن یعقوب روحنی کی اخبار المہدی، جلال الدین سیوطی کی العرف الوردی فی اخبار المہدی، اور علامات المہدی، اور ابن حجر عسقلانی کی القبول المختصر فی علامات المہدی المنتظر (عج) وغیرہ شامل ہیں۔ اسکے علاوہ اور بھی کتب ہیں۔

اور جو احادیث نبوی برادران اہل سنت کے راویوں سے امام مہدی منتظر اور قائم آل محمد کے بارے میں نقل ہوئی ہیں ناقابل شمار اور مستفیضہ بلکہ اہل سنت کے نزدیک بھی متواتر ہیں۔

ابن حجر نے اپنی کتاب صواعق کے صفحہ ۶۹ پر ابوالحسن امیری سے نقل کیا ہے کہ : امام مہدی کا ظہور اور ان کا اہل بیت سے ہونے کے بارے میں رسول اللہ کی احادیث اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ استغناء ہے بلکہ تواتر کی حدود کو چھو رہی ہیں۔

شبلی نجفی، کتاب نور الایصار کے صفحہ ۳۲۸ پر رقمطراز ہیں کہ : ”رسول اللہ سے احادیث متواترہ منقول ہیں کہ جن کے مطابق حضرت

مہدی اہل بیت میں سے ہیں اور مہدی ہی زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے۔“

فتوحات اسلامیہ کی دوسری جلد صفحہ ۳۲۲ پر زینب دحلان لکھتے ہیں کہ :  
 ”وہ احادیث کہ جن میں ظہور مہدی کا ذکر ہے، کثیر اور متواتر ہیں۔ اب ان میں سے بعض صحیح، بعض حسن اور بعض ضعیف ہیں اور ان ہی کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ لیکن ان روایات کی تعداد اتنی زیادہ، راوی متعدد اور نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض روایات، بعض دوسری روایات کے مضمون کو مستحکم کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس موضوع پر اطمینان اور یقین حاصل ہو جاتا ہے۔“

نیز اسی صفحہ پر یہ بھی کہا ہے کہ کتاب الاشارة میں علامہ سید محمد بن رسول برزنجی نے ان متواتر روایات کی نشاندہی کی ہے کہ جن میں حضرت مہدی کا ذکر آیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ امر واقع ہو کر رہے گا۔ آپ جناب فاطمہؑ کی اولاد سے ہیں اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔

یہ تھی ان علمائے کرام کے اعترافات اور تصدیقات کی ایک جھلک کہ جو انہوں نے امام مہدیؑ منتظر کی احادیث کے مستفیضہ بلکہ متواتر ہونے کے بارے میں کیں۔ نیز یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ ان روایات کے مضامین پر یقین ضروری اور اعتقاد رکھنا لازمی ہے۔

کیا ان تمام باتوں کے بعد بھی اس موضوع میں کسی قسم کی بحث و تحقیق کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ چہ جائیکہ سرے سے اس عقیدے کا انکار ہی کیا جائے؟

اب اگر ہم علماء کی ان تمام تصریحات اور شہادتوں سے قطع نظر، صرف احادیث کی سند اور دلالت (مضمون / معنی) کو مد نظر رکھیں تو ہم ان تمام روایات کو تین اقسام میں منقسم کر سکتے ہیں۔

### پہلی قسم

وہ روایات ہیں کہ جو سند کے لحاظ سے صحیح، دلالت کے لحاظ سے آشکار نیز ہر شک و شبہ سے خالی ہیں۔

اسکے علاوہ ائمہ حدیث اور بیید حفاظ نے ان کے صحیح یا حسن ہونے کی تصریح بھی کی ہے۔

حاکم نے مستدرک میں ان میں سے بعض کی صحت کی گواہی اس شرط پر دی ہے کہ بخاری اور مسلم نے بھی ان کو صحیح جانا ہو۔

لہذا ایسی روایات کا بلاشک و شبہ اخذ کرنا واجب، ان پر عمل کرنا ضروری اور اعتقاد رکھنا لازم ہے۔

### دوسری قسم

وہ احادیث جو سند کے لحاظ سے تو صحیح نہیں ہیں، لیکن ان کی دلالت واضح اور آشکار ہے۔

اس صورت میں مقررہ قانون و قواعد کے تحت ان کا اخذ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ ان کی سند کے نقص کو پہلی قسم اور کر دیتی ہے۔

مزید برآں، اکثر علماء نے ان احادیث کو صحیح مانا ہے بلکہ ان روایات کے

مضامین اور معانی پر اجماع بھی قائم ہو چکا ہے۔

## تیسری قسم

وہ روایات کہ جن میں صحیح اور ضعیف دونوں ہیں لیکن یہ احادیث ان کثیر مستفیضہ اور متواترہ احادیث کی مخالف اور متضاد ہیں اس صورت میں اگر ان روایات کی تاویل نہ ہو سکے تو ان کا ترک کرنا لازم ہے۔ مثلاً وہ روایات جو بتلائی ہیں کہ حضرت مہدی کا نام احمد ہے یا آپ کے والد کا نام رسول اللہ کے نام کی طرح ہے یا آپ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں ایسی تمام احادیث نادریں ہیں کہ جن کی طرف علمائے کرام کی اکثریت نے اثناء نہیں کی ہے۔

اس آخری اور تیسری قسم کے بارے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ روایات جن میں یہ نقل ہے کہ آپ (مہدی) رسول اللہ کے ہم نام ہیں تو شاید اس شخص نے گمان کیا کہ رسول اللہ کا نام احمد ہے، باوجود اسکے کہ روایات مستفیضہ اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ آپ کا نام محمد ہے۔

اسی طرح سے کچھ اور روایات کے متعلق یہ لگتا ہے کہ وہ ہم و دنیا کی پینک دک سے متاثر ہو کر گزری گئی ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ محترم قارئین کے سامنے حقیقت حال کو واضح کرنے کے لئے آئندہ فصلوں میں اس اجماع کی تفصیل بیان کریں گے۔

یہاں پر ایک اہم نکتہ جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ روایات کی پہلی اور دوسری اقسام میں بعض روایات (اگرچہ ان بعض کی تعداد ایک یا دو سے زیادہ نہیں) ایسے معنی کی حامل ہیں کہ جن کا بطلان اظہر من

الشمس ہے۔ نیز تاریخ و تحقیق بھی اس بطلان کی گواہی دیتی ہے۔

اسکے علاوہ علم اصول میں ثابت شدہ قواعد یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ایسے متعدد ہملوں پر مشتمل ہو کہ دو یا قاعدہ اپنے جداگاہ معنی و مفہوم رکھتے ہیں اب اگر ان ہملوں میں سے بعض کے خلاف انصاع قائم ہو جائے تو صرف اسی جماع کو ترک کیا جائے گا جس کے معنی و مفہوم کے خلاف اجماع قائم ہوا ہے اور باقی جملے اسی قوت اور استحکام سے اپنے معانی پر باقی رہیں گے۔

اگرچہ جناب محترم فرید وجدی آفندی، مولف کتاب وائزۃ العارف اس قاعدے کو ضمیمہ مانتے اور مذکورہ صورت میں سرسے سے ایسی حدیث کو متروک قرار دیتے ہیں۔

ہم اگرچہ مندرجہ بالا صورت میں جناب فرید وجدی کے نظریے کو تسلیم نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کے نظریے کو صحیح فرض کرتے ہوئے بحث کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کیونکہ اہم احادیث ہمارے دعوے کے اثبات کے لئے کافی ہیں۔



آیاتِ شریفہ

وہ بشارتیں کہ جو امام مہدی (عج) کے ظہور کے بارے میں کتاب و سنت نبویؐ اور جناب امیرالمومنینؑ کے کلمات میں موجود ہیں یا اکابرین اور علمائے کرام نے اپنی نظم و نثر میں جن کا تذکرہ کیا ہے۔

### آیاتِ مبارکہ

”نوح ابلاغہ“ کلماتِ قصار کلمہ ۴۰۹، جناب امیرالمومنینؑ نے فرمایا کہ : یہ دنیا منہ زوری دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی، جس طرح کانٹے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اس سے یہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی :

”وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَنِ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ  
نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ“

”ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیئے گئے ہیں ان پر

احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہی کو (اس زمین کا) مالک  
بنائیں۔" (سورہ قصص - آیت ۵)

اس آیت مبارکہ کے بارے میں نفع البلاغہ کے شارح ابن ابی الحدید  
معتزلی نے کہا ہے کہ :

"ہمارے اصحاب کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایسے امام کا وعدہ دیا گیا ہے کہ جو  
زمین کا مالک اور تمام ممالک پر غالب حاصل کرے گا۔" (شرح نوح  
البلاغہ - ج ۴ - ص ۳۳۶)

عقد الدرر کے باب ہفتم میں ابو عبد اللہ نعیم بن حماد نے امام ابو اسحق عیسیٰ  
سے اور انہوں نے بکیر بن عبد اللہ سے قرآن مجید میں موجود کلمہ  
"جمعہ سق" کی تفسیر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ

"ح سے مراد حرب (جنگ) ہے جو قریش اور ان کے غلاموں کے درمیان  
چھڑے گی اور بیت قریش کی ہوگی۔"

ہ سے مراد بنی امیہ کی مملکت اور بادشاہی۔

ع سے مراد علو (یعنی بلندی) بنی عباس کے لئے۔

س سے مراد حضرت مہدی کی سنی (یعنی رفعت و منزلت اور نورانیت)

ق سے مراد نزول حضرت عیسیٰ بن مریم ہے۔ "تمام ہوا کام

عقد الدرر)

کام مستنف : ہم نے بعض مقامات پر اس طرح سے بھی نقل ہوتے  
دیکھا ہے کہ۔

س سے مراد "سناہ" صدی یعنی ضیاء اور پرتو مراد ہے۔



ق سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم کی قوت مراد ہے۔

ابن حجر نے صواعق کے صفحہ ۹۶ پر آیہ کریمہ ”وانہ لعلم الساعة“ کے بارے میں مناقب بن سلیمان اور ان کے ہم خیال مفسرین کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت مہدیؑ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

کتاب اسعاف المر اغیبین صفحہ ۱۵۴ پر بھی یہی بات مذکور ہے۔

کتاب نور الابصار صفحہ ۳۴۳ پر ابو عبد اللہ سنجی سے اور انہوں نے تفسیر سعید بن جبیر سے آیہ کریمہ ”لینظہرہ علی الدین کلہ“ کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ وہ مہدی ہی ہیں اور حضرت فاطمہؑ کی اولاد سے ہیں۔

کلام مصنف : سنجی سے منقول مذکورہ بالا روایت ان کی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان طبع شدہ ایران میں بھی موجود ہے۔

بیان المودۃ صفحہ ۴۴۳ پر مناقب خوارزمی سے اور وہ جناب جابر بن عبد اللہ انصاری سے ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں جس میں ایک یہودی کے رسول اللہؐ کی خدمت میں آنے، اس کے چند سوالات پوچھنے اور آخر میں اسلام لانے کا ذکر ہے۔ جن چند مسائل کے بارے میں اس نے آپؐ سے سوالات کئے ان میں سے ایک رسول اللہؐ کے خلفاء کے بارے میں بھی تھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟

آنحضرتؐ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کی تعداد ۱۴ (بارہ) ہے اور یکے بعد دیگرے سب کا نام بھی بتلایا۔ یہاں تک کہ آپؐ امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچے اور فرمایا کہ اس (عسکری) کے بعد اس کا فرزند محمد کہ جس کو مہدی قائم اور حجت کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے، امامت کے منصب پر فائز ہوگا۔ پس پھر وہ نائب ہو جائیگا اور پھر خروج کرے گا۔ جب خروج کرے

گا تو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھروسے گا، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ خوش نصیب ان لوگوں کے لئے، جو اس غیبت میں صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی تعریف کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ :

”هللی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب“

”مستقین کے لئے ہدایت ہے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔“ (سورہ

بقرہ - آیت ۱-۳)

اور فرمایا کہ :

”اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون“

بیابیع السودة صفحہ ۳۲۸ پر ہی کتاب قرائد السعیدین سے نقل ہے کہ حسن بن خالد نے حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہما السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس حضرت مہدی کا ذکر ہے۔ نیز یہ بھی مذکور ہے کہ آپ (مہدی) امام علی رضائی جو تھی پشت سے ہونگے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ”جب خروج کریں گے تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔“

پھر آگے چل کر فرمایا کہ وہی ہے کہ جس کے لئے آسمان سے منادی اس طرح ندا دے گا کہ :

آگاہ ہو جاؤ! جنت خدا بیت اللہ کے نزدیک ظاہر ہو چکا ہے پس اس کی اطاعت کرو۔ کیونکہ حق اسی کی ذات میں مضمر اور اسی کے ساتھ ہے۔

اور وہی اس آیت کریمہ کا مصداق ہے کہ :

”ان نشاء نزل علیہم من السماء فظلت اعناقہم لہا“

”خاضیعین“

”اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک نشانی نازل کریں گے جس کے نتیجے میں ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیگی۔“ (سورہ شعراء - آیت ۴)

تفسیر نیشاپوری جلد اول میں آیت کریمہ یومنون بالغیب (سورہ بقرہ - آیت ۳) کے ذیل میں آیا ہے کہ بعض شیعہ آیت میں موجود کلمہ غیب سے مراد حضرت مہدی منتظر لیتے ہیں۔ کہ جس کا وعدہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں دیا ہے۔

”وعدالله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات

لیستخلفنہم فی الارض“

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ضرور ان کو زمین میں اپنا جانشین بنائے گا۔“

رسول اللہ سے مروی ہے کہ، ”اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو خدا اس دن کو طولانی کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک شخص میری امت سے خروج کرے گا، میرا نام ہوگا اور اسکی کنیت میری کنیت سے مشابہ ہوگی۔ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کرے گا، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔“ (تمام ہوا کلام نیشاپوری)

تیز اسی آیت کے ذیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل سنت اس آیت کا مصداق خلفائے راشدین کو قرار دیتے ہیں۔

وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ: ”کیونکہ آیت میں کلمہ ”منکم“ (تم میں سے) کو لوگ) موجود ہے جس کے معنی تبعیض کے ہیں یعنی تم میں سے

بعض۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ ان ”بعض“ کو نزول آیت کے وقت موجود ہونا چاہئے۔ دوسری طرف یہ بات سب کے سامنے عیاں ہے کہ چاروں خلفائے راشدین اہل ایمان اور صاحبان عمل صالح ہونے کے علاوہ نزول آیت کے وقت موجود بھی تھے نیز خلافت اور فتوحات بھی انہی کو حاصل ہوئیں۔ لہذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ”تم میں سے بعض“ سے مراد خلفائے راشدین ہی ہیں۔

پھر صاحب کتاب (تفسیر نیشاپوری) خود ہی مذکورہ بالا استدلال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ مذکورہ آیت میں ”منکم“ بیان کے لئے ہو اور زمین پر استخفاف و خلافت سے مراد قابو اور غلبہ حاصل کرنے کی طاقت اور زمین کو وطن قرار دینا ہو۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لئے مذکور ہے۔ اب اگر اس استدلال کو (خلافت راشدہ مراد ہونے کو) مان بھی لیں تب بھی کیا یہ ممکن نہیں کہ استخفاف سے مراد خلافت علی علیہ السلام ہو اور کلمہ ”منکم“ کہ جو جمع کا صیغہ ہے، احترام کی خاطر استعمال کیا گیا ہو۔ یا اس صیغہ جمع سے حضرت علی علیہ السلام کے بعد کی گیارہ نسلیں مراد ہوں۔ ۲۔ (تمام ہوا کلام نیشاپوری)

- ۱۔ جمعیت : کسی چیز کو مختلف حصوں اور ٹکڑوں میں بانٹ دینا اور پھر اس میں سے کسی ایک یا چند ٹکڑوں اور حصوں کو نظر میں رکھنا یا کوئی خاص حکم لاگو کرنا۔
- ۲۔ عربی زبان میں کلمہ ”من“ کے چند معنی ہیں تبھی اس سے مراد ”بعض“ ہوتی ہے جیسے ”انخذت من الدراہم“ میں نے چند یا بعض درہم اٹھائے، کبھی یہ کلمہ اپنے سے پہلے آنے والے ایک مبہم لفظ کو بیان کرتا ہے اور مبہم لفظ کو واضح کرتا ہے۔ لہذا ”من“ کے معنی کو مذکورہ مقام پر بلا دلیل جمعیت سے متعلق کرنا صحیح نہ ہوگا۔

## احادیث نبویؐ

صحیح ابوداؤد جلد ۳ صفحہ ۷۸ پر عبد اللہ سے اور عبد اللہ 'رسول اللہ' سے نقل کرتے ہیں کہ :

”اگر دنیا کی تباہی میں صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تب بھی خدا اس دن کو اس قدر طولانی کرے گا یہاں تک کہ میری اولاد سے ایک شخص خروج کرے۔“

اور ابوسفیان سے نقل شدہ حدیث میں یہ جملہ موجود ہے کہ آپؐ نے فرمایا :

”دنیا ختم نہ ہوگی یا برباد نہ ہوگی جب تک۔۔۔۔۔ اور پھر مذکورہ بالا حدیث نقل ہے۔“

یہی اسی صفحہ پر حضرت علیؓ سے رسول اللہؐ کی ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا :

”اگر زمانے میں پہلے ایک دن کے کچھ بھی باقی نہ رہ گیا ہو تب بھی خدا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا۔“ (بقیہ حدیث کتاب مذکورہ میں ملاحظہ کریں)

صحیح ترمذی جلد ۲ صفحہ ۷۰ پر عبد اللہ سے اور انہوں نے جناب ختمی مرتبتؐ سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا :

”جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص تمام کے تمام عرب کو تسخیر نہ کرے دنیا ختم نہ ہوگی۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

مذکورہ حدیث کو ترمذی نے صحیح اور حسن قرار دیا ہے۔

اسکے علاوہ مذکورہ باب میں ایسی ہی روایات حضرت علیؓ، حضرت ابو سعیدؓ، ام المؤمنین ام سلمہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی نقل ہوئی ہیں اور اسی صفحہ پر حضرت ابو ہریرہؓ سے رسول اللہؐ کی ایک حدیث مذکور ہے کہ آپؐ نے فرمایا :

”اگر دنیا کی عمر میں سے صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تب بھی اس دن کو خدا اس قدر طولانی کرے گا یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص تمام امور کا انتظام و انصرام سنبھال لے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اس حدیث کے بارے میں مصنف (ترمذی) نے کہا ہے کہ یہ صحیح اور حسن ہے۔

ابن حجر نے صواعق کے صفحہ ۷۹ پر ایک حدیث نقل کی ہے جس کو ابو احمد ابو داؤد، ترمذی اور ابو ماجہ نے بھی نقل کیا ہے آپؐ نے فرمایا کہ :

”اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تب بھی خدا اس دن میری عمرت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا۔“ (حدیث ملاحظہ ہو)

اسعاف الراغبین کے صفحہ ۱۳۷ پر بھی اسی طرح کی حدیث منقول ہے۔

ابن حجر نے صواعق کے صفحہ ۷۹ پر ایک حدیث نقل کی ہے جس کو ابو داؤد اور ترمذی نے آپؐ سے نقل کیا ہے آپؐ نے فرمایا کہ :

”اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا ہے تب بھی خدا اس دن کو طولانی کرے گا۔ یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک

شخص کو ظاہر کرے۔“

کتاب اسعاف الراغبین کے صفحہ ۱۳۸ پر بھی اسی طرح کی حدیث  
سوں ہے۔

ابن حجر نے صواعق کے صفحہ ۷۹ پر رسول اللہ کی ایک حدیث کا ذکر کیا ہے  
جس کو ابو داؤد اور ترمذی نے بھی نقل کیا ہے آپ نے فرمایا کہ :  
”اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تب بھی خدا اس دن  
کو طوائفی کرے گا یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو  
ظاہر کرے۔“ (ملاحظہ کریں حدیث)

کتاب اسعاف الراغبین کے صفحہ ۱۳۸ پر اسی طرح کی حدیث نقل  
ہے۔

نور الابصار کے صفحہ ۳۳۵ پر حضرت علی بن ابی طالب سے اور وہ رسول اللہ  
سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ :  
”اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تب بھی خدا میرے اہل  
بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا۔“

صاحب نور الابصار کا کہنا ہے کہ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب  
سنن میں نقل کیا ہے۔ نیز صاحب نور الابصار نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ  
ابو داؤد نے یہ حدیث اپنی کتاب سنن میں بھی نقل کی ہے۔

نور الابصار صفحہ ۳۳۸ پر جناب ابو ہریرہ سے اور وہ رسول اللہ سے روایت  
کرتے ہیں کہ :

”قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں

سے ایک شخص تمام امور کو اپنے ہاتھ میں نہ لے چکے۔“  
 اسعاف الراغبین صفحہ ۱۳۸ پر مرقوم ہے کہ احمد اور ماوروی نے  
 رسول اللہؐ سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا :  
 ”بشارت ہو تم لوگوں کو ممدیٰ کی“ (حدیث ملاحظہ ہو)  
 نور الابصار کے صفحہ ۱۵۱ پر بھی اسی طرح کی حدیث نقل ہے۔  
 نور الابصار صفحہ ۳۳۷ پر احمد نے ابو سعید خدریؓ سے اور انہوں نے رسول  
 اللہؐ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا :

”میں تم لوگوں کو ممدیٰ کی بشارت دیتا ہوں۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)  
 ینابیع المودۃ کے صفحہ ۳۳۲ پر قتادہ سے نقل ہوا ہے کہ میں نے سعید ابن  
 مسیب سے پوچھا کہ آیا ممدیٰ کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں؟ سعید نے جواب  
 دیا کہ بالکل تیز آپؐ جناب فاطمہؓ کی اولاد میں سے ہیں۔ (حدیث ملاحظہ کریں)  
 ایسا اسی پر جناب علیؓ علیہ السلام سے رسول اللہؐ کی ایک حدیث نقل کی  
 ہے کہ آپؐ نے فرمایا :

”اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن بھی پاتی رہ گیا ہو تب بھی خدا میرے  
 اہل بیت سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو دنیا کو عدل سے اسی طرح بھر  
 دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔“  
 اسکے علاوہ صاحب ینابیع المودۃ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث ابو داؤد، احمد،  
 ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے۔

نیز اس کتاب کے صفحہ ۳۳۲ پر مذکور ہے کہ مسند احمد میں رسول اللہؐ سے  
 روایت نقل کے کہ



”قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ زمین ظلم و جور سے نہ بھر جائے، یہاں تک کہ میری عترت میں سے وہ شخص خروج کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً مذکورہ کتاب کے صفحہ ۴۴۰ پر مرقوم ہے کہ موفق ابن احمد کہ جو خوارزم کے بہترین خطیب اور مقرر بھی تھے، اپنی سند کو نقل کرتے ہوئے عبد الرحمن ابن ابے لیلیٰ سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ”رسول اللہؐ نے غزوہ خیبر میں پرچم حضرت علیؑ کو عطا کیا کہ جن کے ہاتھوں خدا نے فتح نصیب کی۔ پھر غدر خم میں یہ لوگوں کو بتلایا کہ علی ہی ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں۔ پھر اسی طرح جناب علیؑ علیہ السلام، جناب فاطمہؑ اور جناب حسینؑ علیہم السلام کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہوئے حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر رسول اللہؐ سے یہ جملہ نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا :

”مجھ کو جبرئیلؑ نے یہ خبر دی ہے کہ ان (شیخین اور اہل بیت) پر میرے بعد ظلم ہوتا رہے گا اور ظلم کا یہ سلسلہ جوں کا توں باقی رہے گا یہاں تک کہ ان کا قائم قیام کرے گا اور انہی کا بول بالا ہو گا۔ تمام کی تمام امت ان کی محبت پر متفق ہو جائے گی ان سے بغض رکھنے والے لکھلے، تنفر رکھنے والے ذلیل اور انکی تمجید اور تحسین کرنے والے کثیر ہو جائیں گے۔ اور یہ اس وقت ہو گا کہ جب شہر کے شہر تمہ و بالا ہو چکے ہوں گے اور بندگان خدا کمزور اور بے بس۔ غم اندوہ کے سائے چھٹنے کی کوئی امید نہ ہوگی۔ اس مقام پر میری اولاد میں سے مہدیؑ قائم ظہور کرے گا“ اس کے ہمراہ ایسے افراد ہوں گے کہ جن کے وسیلے سے خدا حق کا بول

بلا کرے گا اور انکی تلواروں سے باطل کے نقوش کو مٹا دے گا۔“  
پھر آگے چل کر فرمایا کہ :

”اے لوگو! کشادگی اور غم کے بادل چھٹنے کی بشارت اور یقیناً خدا کا وعدہ سچا ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہو گا اور نہ ہی اس کے فیصلے کو پلٹا جاسکتا ہے، وہی حکیم و خیر ہے اور یقیناً خدا کی فتح تو قریب ہی ہے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً بیابغ المودۃ ہی کے صفحہ ۷۳ پر ایک روایت نقل کی ہے جو فرائد المسلمین میں شیخ السحاق ابراہیم بن یحویب الکلابادی البغاری سے اور انہوں نے اپنی سند کے ساتھ جابر بن عبد اللہ انصاری سے حدیث نبویؐ نقل کی ہے کہ ”پ“ نے فرمایا :

”جس نے خروج مدی کا انکار کیا تو یقیناً اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اور جو حضرت عیسیٰ کے نزول کا منکر ہوا تو گویا کافر ہو گیا۔ اور جس نے خروج دجال کا انکار کیا تو وہ بھی کفر کا مرتکب ہوا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

### حضرت علی علیہ السلام کے خطبات

سُج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ نمبر ۱۱ ہے جس کے آخر میں آپؑ نے نبی امیہ اور انکی وجہ سے لوگوں کو درپیش فتنہ و فساد کا ذکر کیا ہے۔  
فرماتے ہیں :

”پھر ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ اس شخص کے ذریعے سے جو انہیں



نمایاں ہو کر قریب ہونے کا زمانہ ہے کہ جن سے تم ابھی آگاہ نہیں ہو۔  
 دیکھو! ہم (اہل بیت) میں سے جو (ان فتنوں کا دور) پائے گا وہ اس میں  
 (ہدایت کا) چراغ لے کر بڑھے گا اور نیک لوگوں کی راہ و روش پر قدم  
 اٹھائے گا تاکہ بندھی ہوئی گریہوں کو کھولے اور بندوں کو آزاد کرے  
 اور حسب ضرورت جڑے ہوئے کو توڑے اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑے۔  
 وہ لوگوں کی (نگاہوں سے) پوشیدہ ہوگا، کھوج لگانے والے پیہم نظرس  
 جمانے کے باوجود بھی اس کے نقش قدم کو نہ دیکھ سکیں گے۔“

اس خطبے کی تشریح کے دوران بھی شارح نے یہی تحریر کیا ہے کہ آپ کا  
 اشارہ حضرت مدی منتظر علیہ السلام کی ذات کی جانب ہے۔

شیخ ابداغہ خطبہ نمبر ۱۸۰ جو آپ نے کوفہ میں ارشاد فرمایا۔ نونل بکالی کا کسنا  
 ہے کہ امیر المؤمنین نے یہ خطبہ کوفہ کے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا  
 جس کو جعدہ بن ہبیسرہ مخزومی نے آپ کے لئے نصب کیا تھا۔ اس وقت آپ  
 کے جسم پر اونی جب تھا اور نکوار خرے کی چھال کی رسی سے حمال تھی اور  
 بیروں میں جوتے بھی کھجور کی پتیوں کے تھے۔ (جمہوں کی وجہ سے) پیشانی یوں  
 معلوم ہوتی تھی جیسے اونٹ کے گھٹنے کا گٹا۔ آپ فرما رہے تھے :

”وہ حکمت کی سپر پینے ہو گا اور اسکو اس کے تمام شرائط و اداب کے ساتھ  
 حاصل کیا ہوگا (جو یہ ہیں کہ) ہمہ تن اسکی طرف متوجہ ہو اس کی اچھی  
 طرح شناخت ہو اور دن (دنیا کی محبتوں سے) خالی ہو۔ چنانچہ وہ اس کے  
 نزدیک اسی کی گمشدہ چیز اور اسی کی حاجت و آرزو بنے کہ جس کا وہ  
 طلبگار و خواہنگار ہے۔ اور وہ اس وقت (انظروں سے اوجھل ہو کر)

غریب و مسافر ہو گا کہ جب اسلام عالم غربت میں مثل اس اونٹ کے ہو گا جو حٹکلن سے اپنی دم زمین پر مارتا ہو اور گردن کا اگلا حصہ زمین پر ڈالے ہوئے ہو۔ وہ اللہ کی باقی ماندہ جنبتوں کا بقیہ اور انبیاء کے جانشینوں میں سے ایک وارث و جانشین ہے۔“

فاضل شارح نے مذکورہ بالا اقتباس کی تشریح کے ضمن میں یہ تحریر کیا ہے کہ : اس کلام کی ہر فرقے نے اپنے اعتقادات کے مطابق تفسیر کی ہے لہذا شیعہ امامیہ گمان کرتے ہیں کہ مذکورہ کلام سے مراد حضرت مہدی منتظر کی ذات ہے۔

اسکے بعد شارح تحریر کرتے ہیں کہ : میرے خیال میں یہ اتنی بعید از قیاس بات نہیں کہ اس کلام سے آخری زمانے کا قائم آل محمد مراد لیا جائے۔

ینایع المودۃ صفحہ ۳۶ پر کتاب الدرر المنظم سے امیرالمومنین علیہ السلام کے بعض جملے منقول ہیں جن میں مہدی منتظر یعنی قائم آل محمد کی جانب اشارہ ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں۔

”صاحب پریم محمدیہ اور دولت احمدیہ ظاہر ہو گا، قیام بالسیف کرے گا، گفتار میں صادق ہو گا، زمین کو امن و امان بخشنے گا اور سنت و فرض کو زندہ کرے گا۔۔۔۔۔“

ینایع المودۃ کے صفحہ ۳۶۸ پر بعض صاحبان کتف و شہود سے امیرالمومنین کے یہ جملے نقل ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”بہت جلد خدا ایک قوم کو الے گا جو خدا سے محبت رکھتے ہوں گے اور خدا بھی ان سے محبت رکھتا ہو گا۔ اور ان پر وہ شخص حکومت کرے گا

جو ان کے درمیان ناشائستہ اور اجنبی ہو گا۔ وہی مہدی ہے۔ سرخ چہرہ اور سیاہ و سرخ بالوں کا مالک۔۔۔ زمین کو بغیر کسی مشکل کے عدن سے پر کر دے گا۔ وہ اپنے ماں باپ سے کم سنی ہی میں جدا ہو جائے گا اپنی پرورش کے دوران صاحب جاہ و حشم ہو گا۔ یس پر وہ مسلمانوں کے شہروں کی باگ ڈور نہایت امن و امان کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لے گا۔ وقت اس کا ساتھ دے گا۔ اس کا کام سنا جائے گا پیر و جوان اسکی اطاعت کریں گے زمین کو عدلی سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ اس وقت اسکی امامت کا عروج ہو گا اور اسکی خلافت مستحکم ہو جائے گی۔ نیز خداوند تعالیٰ قبور میں سے مردوں کو اٹھائے گا۔ مہدی کے وجود کی بدولت زمین شاد و آباد ہوتی جائے گی اور روز بروز اسکی جلا اور روشنی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسکی شہریں جاری ہو جائیں گی 'فتنہ و تباہی معدوم اور خیر و برکات بکثرت موجود ہوں گی۔"

### علمائے کرام کی تصریحات

فتوحات مکیہ جلد سوم باب ششم صفحہ ۳۶۰ پر مرقوم ہے کہ :

"خدا کا ایک ایسا خلیفہ ہے جو اس وقت خروج کرے گا کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور وہ عدل و انصاف سے (دنیا کو) پر کرے گا۔ اگرچہ دنیا کی عمر میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ گیا ہو تب بھی خدا اس دن کو اس قدر طولانی کرے گا یہاں تک کہ عزت رسول اللہ اور اولادِ طاہرہ سے تعلق رکھنے والا یہ خلیفہ تمام کے تمام امور کی باگ ڈور اپنے

ہاتھ میں نہ لے لے۔“

صاحب کتاب عقدہ الدرر اپنی کتاب کے دیباچہ میں حوادث روزگار اور آشوب زمانہ کا شکوہ کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں کہ :

”بعض لوگ چند ایک احادیث کے سطحی اور ظاہری معنی کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آشوب اور حوادث روزگار یونسی برپا رہیں گے۔“

ان افراد کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ”ہم ان احادیث کو صحیح مانتے ہیں اور سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن ان احادیث میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو ان فتنوں اور آشوب کے قیامت تک برپا رہنے پر دلالت کرے۔ اور بہت ممکن ہے کہ ان آشوب اور فتنوں کا خاتمہ ظہور مہدی کے موقع پر ہو۔ اور آپ کی نصیحت کے راز ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ ان آشوب اور فتنوں کی آگ بھی ٹھنڈی پڑ جائے۔ اسکے علاوہ علمائے اسلام نے اپنی کتب میں ایسی بہت سی احادیث جمع کی ہیں جو آپ کے ظہور کی نوید دیتی ہیں اور بتلاتی ہیں کہ خدا یقیناً ایک ایسے شخص کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی ولایت کا میدان ان اس کے لئے کچھ اس شان سے ہموار کرے گا کہ تمام بلند و بالا چوٹیاں بھی اس کے آگے پستیوں میں تبدیل ہو جائیں گی بادیہ نشین اور شہری آبادیاں، سب اس کی محبت پر متعلق ہوں گے۔ نرم ہموار زمین ہو یا سڑک اور پتھر ملی چٹانیں، سب اسکے قبضہ قدرت میں آجائیں گی۔ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ زمین اس کے لئے اپنے مخفی ترازوں کے منہ کھول دے گی۔ اور پھر

عطا و بخشش کی وجہ سے خوشحالی اور بے نیازی کا دور دورہ ہو

گا۔۔۔۔۔" (حدیث جاری ہے)

بیانج المودۃ کے صفحہ ۳۱۰ پر صاحب کتاب شیخ کمال الدین بن طلحہ سے ان کی الدرر المنظم سے نقل ہے کہ :

"خدا نے تبارک و تعالیٰ کا ایک خلیفہ ہے جو آخری زمانے میں اس وقت خروج کرے گا کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی پس وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہاں تک کہ یہ خلیفہ جو حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں سے ہے تمام امور کا انتظام اور انصاف سنبھال لے گا اگرچہ دنیا کی عمر میں ایک ہی دن کیوں باقی نہ رہ گیا ہو۔ آپ کی ناک سنتوں، تکالیف سرگئیں اور دائیں رخسار پر ایک علامت اور نشانی ہے جس کی شناخت اہل معرفت ہی کو ہے۔ آپ (ممدی) کا اسم گرامی محمد ہے۔ خوش قسمت ہونے کے ساتھ ساتھ پر کشش و حسین اور خوبصورت گھنے بالوں کے مالک ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان ہی کے وسیلے سے ہر بدعت کے نقش کو مٹا کر تمام سنتوں کو زندہ کرے گا۔ آپ کا لشکر سرزمین صنعاء اور عدن (یمن) سے میراب ہوا کرے گا۔ آپ کے دور مبارک کی برکت سے اہل کوفہ خوش بہت ترین لوگ ہوں گے۔ آپ اسواہ کو مساوات سے تقسیم کریں گے اور رعایا کے ساتھ عدل و انصاف روا رکھیں گے۔ آپ کے دور حکومت میں آسمان ہار ان رحمت کا آخری قطرہ تک برسا دے گا اور زمین اپنے اوپر اٹنے والی ہر چیز کو اگا کر دم لے گی۔ اور یہی امام ممدی علیہ السلام ہے کہ جس کے وسیلے سے خدا تمام باطل اویان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا جس کے نتیجے میں صرف اور صرف دینِ خالص ہی باقی رہے گا۔۔۔۔۔" (حدیث جاری ہے)



مناہج المودۃ کے صفحہ ۳۳۲ پر علامہ سمودی مصری کی کتاب جو ابراہم العقیدین سے منقول ہے کہ :

”جو دعا رسول اللہؐ نے جناب فاطمہؑ اور حضرت علیؑ کے عقد کے موقع پر مانگی تھی، اس (دعا) کی برکاتِ حسنین طیبہا السلام کی نسل کے ذریعے ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب ان کی نسل سے گزر جانے اور آئندہ آنے والے تمام افراد ان دونوں ہی کی نسل سے گروانے جائینگے۔ اگر آئندہ آنے والی نسلوں میں صرف اور صرف امام مہدیؑ کے وجود کو ہی مد نظر رکھا جائے تو یہی دعا کی برکت کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔۔۔۔“ (جاری ہے)

ابن اثیر جزری نے اپنی کتاب نہایہ میں کلمہ ”جلا“ کے ذیل میں لکھا ہے کہ :

”صفات مہدیؑ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ کی پیشانی روشن اور کشادہ ہے نیز کپنی پر بالوں کی تعداد کم ہے۔“

پھر ماہ ”ہدی“ کے ذیل میں رقمطراز ہیں کہ :

”مہدی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی ہدایت خدا نے حق کی طرف کی ہو۔ پھر یہ کلمہ بطور نام استعمال ہونے لگا اور اسمائے عالیہ میں تبدیل ہو گیا۔ (یعنی اس کلمہ پر لوگوں کے نام رکھے جانے لگے) اور اسی لفظ مہدی پر حضرت مہدیؑ کا نام رکھا گیا، وہی کہ جس کے بارے میں بشارت دیتے ہوئے رسول اللہؐ نے فرمایا وہ آخری زمانے میں آئے گا۔“

فتوحات اسلامیہ کی جلد دوم صفحہ ۲۲۲ پر ابن قتیبہ روایات کا صراحت سے ذکر کیا ہے کہ جو حضرت مہدیؑ منتظر کے بارے میں منقول ہیں اور جن سے آپ کے بارے میں یقین اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے پھر لکھتے ہیں کہ :

”یہ بات حتمی ہے کہ آپ کا ظہور ہر حال میں ہو کر رہے گا اور آپ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہیں۔ نیز آپ ہی زمین کو عدن و انصاف سے پر کریں گے۔“

اسکے علاوہ سید محمد رسول برزنجی نے بھی اپنی کتاب الاشارة کے آخر میں مذکورہ بالا امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابن ابی الحدید معتزلی جلد ۲ کے صفحہ ۵۳۵ پر امیر المؤمنینؑ کے ان کلمات کی تشریح کے ذیل میں کہ جو کتاب ہذا میں چند صفحات قبل مذکور ہیں اور جن میں آپؑ نے حضرت مہدیؑ منتظر کے ظہور کی طرف اشارہ کیا ہے رقمطراز ہیں کہ :

”مسلمانوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا جاہد و بہاد ہوگی (قیامت) اور نہ ہی شرعی ذمہ داریاں ختم ہوگی، مگر آپ کی ذات کے سبب۔“

کلام مصنف

ہمارا کہنا یہ ہے کہ فاضل مصنف ابن ابی الحدید کے کلام میں موجود کلمہ ”آپ کی ذات“ سے مراد حضرت مہدیؑ منتظر ہیں کہ جو آخری زمانے میں خرون کریں گے اور اس سے قبل بھی مذکورہ مصنف کے کلام میں آپ (مہدی) کا ذکر

## اشعار و نظم میں آپ کا ذکر

بیانج المودۃ صفحہ ۲۸۱ (ترجمہ اردو) پر چند اشعار درج ہیں کہ جن کو صاحب کتاب نے حضرت علی علیہ السلام سے منسوب کیا ہے۔

”حسین انا كنت في بلدة  
غربا فعاشر باذابها“  
”حسین جب تمہارے شہر میں غریب ہو تو آداب زندگی کا خیال رکھنا۔  
کنایہ نصرت حضرت امام حسینؑ مراد ہے۔“

”کانی بنفسی و اعقابها  
وفی کربلاء و محرابها“  
”گو یا میں خود اور میری اولاد کربلا میں اور میدان کارزار میں ہے۔“  
”فتخضب منا اللحي بالدعا  
خضاب العروس باثوابها“  
”خون سے رنگین ہو جائیں گی ہماری داڑھیاں جس طرح دلہن کے  
کپڑے رنگین ہوتے ہیں۔“

”اراهها ولم یک رانی العیان  
وأوتیت مفتاح لبوابها“  
”دیکھ رہا ہوں مگر آنکھوں کی دید سے نہیں اور علماء ہو چکی دروازوں کی  
چابیاں۔“

”فلله دره من امام سميدع  
 ينل جيوش المشركين بصارم“  
 ”کیا کہنے امام صالح اور شجاع کے وہ مشرکین کی فوج کو تیز دھار والی تلوار  
 سے ذلیل کرتے گا۔“

”يظهر هنا الدين في كل بقعة  
 ويرغم انف المشركين انفواشم“  
 ”ظاہر ہو جائے گا یہ دین ہر حصہ میں۔ اور ظالم مشرکین کی ناک رگڑ دی  
 جائے گی۔“

”وما قلت هنا القول فخرا وانما  
 قد اخبرني المختار من آل هاشم“  
 ”نہیں کہی یہ بات میں نے بڑائی میں۔ فقط اس کی خبر دی مجھ کو برگزیدہ  
 آل ہاشم نے۔ کہ مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔“

ایضاً بیابح صفحہ ۲۵۲ پر وہ واقعہ درج ہے کہ جس کے مطابق جناب وکیل  
 نزاری نے اپنا مشہور و معروف ”قصیدہ تائب“ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں  
 آکر پڑھا۔

جناب وکیل کہتے ہیں کہ جب میں نے بقیہ قصیدہ پڑھا اور اس شعر پر ختم  
 کیا۔

خروج الامام لا محالة واقع  
 يقوم على اسم الله والبركات  
 ”یقیناً خروج امام واقع ہو کر رہے گا باسم رب العزت برکات کے ساتھ

قیام کریں گے۔“

”لیمیز فینا کل حق و باطل

ولیسجزی علی انعماء والنعمات“

”ہمارے درمیان حق کو باطل سے ممتاز کرے گا (دوستوں کو اطاعت کی

بنا پر) نعمتوں کا اجر دیں گے (اور دشمنوں کو نافرمانی و عیبان کی بنا پر)

سزا و عذاب کی پاداش ملے گی۔“

تو امام رضا علیہ السلام نے زار و قطار گریا فرمایا اور پھر گویا ہوئے۔

اے رحمت اور رحمتوں کا منبع تمہاری زبان کے ذریعے کا اوم کرتا ہے۔

تیز فتوحات مکینہ کی جلد سوم حدیث ۳۶۶ میں درج ہے۔

”الان ختم الاوصیاء شہید

وعین امام العائمین فقید“

”جان لو کہ خاتم الاولیاء شاہد ہیں اور امام العائمین مقتول۔“

”ہوالمسید المہدی عن آل احمد

ہوالمصارم الہندی حسین یسید“

”آل احمد سے تعلق رکھنے والے آقا یعنی مہدی ہیں وہی (بناک کے

میدان میں قتل کرنے پر آئیں) تو تیز و جوار شمشیر ہندی کی مانند جاہلی

پھیلائیں۔“

”ہوالمشمس یجلو کل غم و ظلمہ

ہوالموابل الوسمی حسین یجود“

”وہی خورشید تاباک کی مانند ہیں کہ جو ہر تاب المہجرے اور تاریکی کو

مٹا دیتا ہے اور جب دوستی سے کام لیں تو بارانِ رحمت کی مانند ہیں۔“  
 ینابیع السودة صفحہ ۴۱۶ پر صاحب فنوحات مکبہ شیخ محی الدین عربی کی  
 کتاب الادرا لکتون سے درج ذیل اشعار موجود ہیں۔

”انا دار الزمان عنی حروف

بیسم اللہ فالمہدی قاما“

”جب زمانہ چند حرف (علم الحروف کے مطابق) پر گردش کرے گا تو خدا  
 زندہ تعالیٰ کے نام سے صدی قیام کریگا۔“

”ویخرج بالحطیم عقیب صوم

الا فاقبرئہ من عندی السلاما“

”وہ مقام حطیم سے ماہ رمضان المبارک کے بعد خروج کرے گا“ آگاہ  
 رہو اور اسکو میرا سلام پہنچا دینا۔“

عقد الدرر کی فصل چہارم باب چہارم میں مرقوم ہے۔

”پس ہم اس فصل ہذا کو اس گراںبہا قصیدے کے چند اشعار پر تمام  
 کرتے ہیں جس میں شاعر نے آل محمد کی مدح کی ہے نیز نفس زکیہ کے  
 قتل کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ قصیدہ علامہ ادب عبداللہ بن بشاء سے  
 منقول ہے وائید العالم۔ پھر قصیدے کے اشعار مرقوم ہیں۔“

”وفی قتل نفس بعد خاک زکیۃ

امازات حق عند من یتذکر“

”اور قتل نفس زکیہ میں اس شخص کے لئے جو آگاہی حاصل کرنا چاہتے  
 حق کی علامات ہیں۔“

”وآخر عندالبیت یقتل ضیعہ  
 یقوم قیدعو للامام فینحرق“  
 ”ایک علامت یہ کہ نفس زکیہ کا خون بیت اللہ الحرام کے پاس سباح  
 جان کہ (ناحق) بہایا جائے گا۔ کیونکہ وہ قیام کرنے کے بعد امام علیہ  
 السلام کے ظہور کا اعلان کر دیں گے۔“

”وندخل نارحوف کوفۃ ضحوة  
 تیل بها سیلا فتحرق ادور“  
 ”ایک آگ کوفے کے اندر چاشت کے وقت گھس آئے گی اور سیلاب  
 کی مانند کوفے میں پھیل جائے گی جس سے تمام گھر جل جائیں گے۔“  
 ”ویبعث اهل الشام بعثا علیہم  
 بناحیة البیداء خسف مقدر“  
 ”اہل شام ان لوگوں کی جانب ایک لشکر کو بھیجیں گے جس کا سرزمین  
 بیدادیں و صحرانامقدر ہے۔“

”وخیل تعادی بالکماة کاتھا  
 ہی الریح اذتحت العجاجہ تصبر“  
 ”اور ایک لشکر کہ جسکی سربراہی شجاع و بہادر افراد کر رہے ہونگے لگونا  
 کہ یہ لشکر ہوا کی مانند ہے جو گرد خاک کے درمیان چل رہی ہے۔“  
 ”بقود نوا صیہا شعیب بن صالح  
 الی سید من آل ہاشم یزہر“  
 ”اس لشکر کی سربراہی شعیب بن صالح کریں گے اور پھر یہ سربراہی آل

بنی حاشم سے تعلق رکھنے والے ایک سید کو منتقل ہو جائے گی۔“

” علی شقہ شق الیمین علامۃ

لذی الخد عند الصدغ حال منور“

”اسکے چہرے کے دائیں جانب ایک نشانی ہے۔ اور وہ ہے رخسار کے

پاس کپٹی کے نزدیک ایک تل۔“

ایضا عقد الدرر کے دریا پتے ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام کی مدح میں چند

اشعار درج ہیں لیکن شاعر کا نام درج نہیں ممکن ہے یہ اشعار صاحب کتاب کے

ہوں یا کسی اور کے۔

”بہ لمحاسن الشرع لتنظام

بہ لفساد الشرک انصرام“

”اسی کی بدولت محاسن شریعت کو استحکام نصیب ہو گا اور انہی کی بدولت

مفساد شرک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔“

”تحلی من لبادیہ اسوائی

ویجلی من محاسنہ الظلام“

”یابانوں کو آپ کے وجود کی برکت سے خوبصورتی و زیبائی ملے گی اور

آپ کے نورانی حسن کی وجہ سے تاریکیاں روشنی میں بدل جائیں گی۔“

”علیہ مجددا فی کل یوم

من اللہ التحیہ والسلام“

”اسکے اوپر ہر روز خداوند تعالیٰ کی جانب سے عنایت، تحیت اور سلامتی کا

نزول ہوتا ہے۔“



یاناہج السوۃ صفحہ ۴۶۶ پر شیخ جلیل القدر عبدالکریم میمانی کے مندرجہ ذیل اشعار موجود ہیں۔

”وفی یمن امن یکون الاہلہا

الی ان تری نور الہدایہ مقبلا“

”اور ملک یمن میں ایک امن و امان وہاں کے رہنے والوں کو نصیب ہو

گا، یہاں تک کہ تم دیکھو گے کہ نور ہدایت طلوع ہو رہا ہے۔“

”بمیم مجید من سلالہ حیدر

ومن آل بیت طاہرین بمن علا“

”مجید کے میم کے ذریعے حیدر اور اہل بیت طاہرین کی نسل سے کہ جو

بلند مرتبہ ہوا۔“

”یلقب بالمہدی بالحق ظاہر

بسنتہ خیر الخلق یحکم اولاً“

”الحق کہ وہ مہدی کے لقب سے لقب ہو گا اور ظہور کرے گا۔ نیز

خدا کی بہترین مخلوق (رسول اللہ) کی سنت کے مطابق حکم کرے گا۔“

ایسا اسی کتاب کے صفحہ ۴۶۸ پر صاحب کتاب درۃ المعارف جناب شیخ

عبدالرحمن سطاہی کے مندرجہ ذیل اشعار درج ہیں۔

”ویظہر میم المجد من آل محمد

ویظہر عدل اللہ فی الناس اولاً“

”اور محمد (عظمت) کا میم آل احمد سے ظاہر ہو گا اور سب سے پہلے لوگوں

کے درمیان عدل خداوند تعالیٰ کو ظاہر کرے گا۔“

”کما قدر وینا عن ابی الحسن الرضا  
 وفی کتو علم الحرف اصحی محضاً“  
 ”جیسا کہ ہم نے ابوالحسن رضا سے روایت کی ہے کہ علم الحروف کے  
 خزائن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔“

صاحب ینایع نے مذکورہ بالا اشعار کے مندرجہ ذیل اشعار بھی نقل کئے ہیں۔  
 ”ویخرج حرف المیم من بعد شبہ  
 بمکة نحو البيت بالنصردعلا“  
 ”مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی جانب حرف ثمیم کے بعد حرف میم خارج ہو  
 گا جو نصرت کی بنا پر موح و مملکت پائے گا۔“

”فهذا هو المهدی بالحق ظاهر  
 سیاتی من الرحمن للحق مرسل“  
 ”یہی یعنی وہ مہدی ہے کہ جو حق کے ساتھ ظاہر ہو گا اور پروردگار کی  
 جانب سے اقامت حق کے لئے بھیجا گیا ہے۔“

”ویملا کل الارض بالعدل رحمة  
 ویمحو ظلام الشرك والنجور اولاً“  
 ”اپنی رحمت کی بنا پر تمام کہہ ارض کو عدل سے پر کرے گا اور تمام  
 شرک و ظلم کی تاریکیوں کو مٹا دے گا۔“

”ولایته بالامر من عند ربه  
 خلیفة خیر الرسل من عالم اعلا“  
 ”اسکی ولایت پروردگار کی جانب سے امن کے ہمراہ ہوگی۔ وہ بہترین

رسول کا خلیفہ ہے جس کو عالم بالا سے یہ نعت عطا ہوئی ہے۔  
 ینابیع المودۃ صفحہ ۳۶۸ پر شیخ صدر الدین قونوی کے چند اشعار جناب امام  
 مدنی کی شان میں موجود ہیں۔ اشعار یہ ہیں۔

”يقوم بأمر الله في الارض ظاهراً  
 على رغم شيطانين يمحق للكفر“  
 ”امر خدا کی بنا پر زمین پر قیام کرے گا اور شیاطین کو ذلیل و خوار کرتے  
 ہوئے کفر کو مٹا دے گا۔“

”على يده محق اللام جميعهم  
 بسيف قوى الممن عنك ان تدري“  
 اسی کے ہاتھوں اس تیز و حار شمشیر کے ذریعے تمام اللہ کے ظالم انسان نابود  
 ہوں گے۔ کاش تم مجھ سیکھ سکتے کہ۔۔۔

”حقيقة ذاك السيف و لقائم الذي  
 تعين للذ بين القويم على الامر“  
 اس تلوار اور اس قائم کی حقیقت کہ جو دین کو استحکام اور عظمت دے  
 گا۔

”يفيض على الاكوان ما قد افاضه  
 عليه اله العرش في ازل الدهر“  
 وہ تمام موجودات کو اپنے وجود سے اسی طرح فیض یاب کرے گا۔ جس  
 طرح کہ خداوند تعالیٰ نے روز ازل سے اس پر اپنا فیض جاری کیا ہے۔  
 صفحہ ۷۳ پر رقوم ہے۔

بعض شافعی حضرات نے اپنے مشہور قصیدہ والیہ میں یہ اشعار کے ہیں۔

”وسائلی عن حب اهل البيت هل

أسرا اعلانا بهم ام اجدد“

اے شخص تو مجھ سے نبی اہل بیت کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ میں  
کھلے عام ان سے محبت رکھتا ہوں۔

”والله مخلوط بلحمی ودمی

حبہم هم الہدی والرشد“

خدا کی قسم! انکی محبت میرے گوشت و خون میں سرایت کر گئی ہے  
اور وہی ہدایت و ارشاد کا پیکر ہیں۔

”حیلرة والحسان بعده

ثم علی وابنه محمد“

”حیدر، حسین، علی اور علی کا بیٹا محمد“

”وجعفر الصادق وابن جعفر

موسی و یتلوه علی السند“

”اور جعفر صادق انکا بیٹا موسیٰ جسکے بعد علی رضا ہے جو ہمارا محور و آسرا  
ہے۔“

”اعنی الرضا ثم ابنه محمد

ثم علی وابنه المسدد“

”یعنی علی رضا اور انکا فرزند محمد پھر علی اور ان کا فرزند“

”والحسن التالی و یتلوتلوه

محمد بن الحسن المجتہد  
 ”اور بعد میں حسن عسکری ہیں جن کے بعد ان کا فرزند محمد بن الحسن  
 ہے۔“

”فانہم ائمتی و ساداتی  
 وان لحنای معشر و فندوا“  
 ”اور یہی افراد میرے امام اور مولا ہیں اگرچہ کوئی گروہ مجھے کتنا ہی غلط  
 جانے اور مجھے اور میرے اس کام کو خطا کہے۔“

”ائمہ اکرم بہم  
 لساؤہم مسرودۃ تطرد“  
 ”ایسے ائمہ کہ جن کا احترام تم امام ہونے کے ناطے سے کرو نیز ان کے  
 اسماء گرامی (کتب میں) معین و ترتیب وار موجود ہیں۔“

”ہم حجج اللہ علی عبادہ  
 و ہم الیہ منہج و مقصد“  
 ”یہی بندگان خدا پر خدا کی محبت ہیں اور خدا تک پہنچنے کا راستہ یہی لوگ  
 ہیں۔“

”ہم النہار صوم لربہم  
 وفی الدیاجی رکع و سجد“  
 ”یہ لوگ دن کو پورے روزگار کی خوشنودی کے لئے روزہ رکھتے ہیں اور  
 تاریک راتوں میں رکوع و سجود کی حالت میں محو عبادت ہیں۔“

”قوم لہم مکة و الابطع

والخفيف وجمع والبقيع الفرقد  
 ”یہ ایسا خاندان ہے کہ جو مکہ وادی الطح‘ نعت میں ہیں اور ان میں سے  
 بعض شیح میں موجود ہیں۔“

”قوم منی . والمشعران لهم  
 المرونان لهم والمسجد“  
 ”ایسے لوگ ہیں کہ منی ، مشعر ، مسجد الحرام اور مفاد مروہ انہی کے لئے  
 ہے۔“

”قوم لهم فی کل ارض مشهد  
 لابل لهم فی کل قلب مشهد“  
 ”ایسے افراد ہیں کہ جن کے روئے ہر سر زمین بلکہ ہر دل میں موجود  
 ہیں۔“

(تمام ہوا اقتباس از ینایح المودة)

محمد بن طلحہ اپنی کتاب مطالب السؤل میں رقمطراز ہیں۔  
 ”اب بارہواں باب امام ابوالقاسم محمد بن الحسن الجاصل بن علی المتوکل  
 بن محمد القانع ابن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن  
 الباقر بن علی زین العابدین بن حسین الرقی بن علی المرتضی امیرالمؤمنین  
 بن ابی طالب یعنی مہدی ، حجت خلف صالح (مقتظر علیہم السلام ورحمہ  
 اللہ برکاتہ) کے بارے میں ہے۔“

”فهنا الخلف الحجه قد ایده الله“

”یہی ہے خلف حجت کہ جس کی خدائے تائید فرمائی ہے۔“

”هداه منہج الحق واتاہ سبحایاہ“

”راہ حق کی اسکو ہدایت دی اور اس کو خصوصیات و خوبیوں عطا کیں۔“

”واعلیٰ فی ذری العلیا بالتایید مرقاہ“

”اسکو مراتب تک بلندی عطا کی نیز اس تائید کے ذریعے وہ آخری مراتب

تک جا پہنچا۔“

”واتاہ حلی فضل عظیم فتحلاہ“

”ایک عظیم فضیلت سے اسکو آراستہ کیا جس کی بدولت آپ کی ذات

باکمال ہو گئی۔“

”وقد قال رسول اللہ قولا قد رویناہ“

”اور رسول اللہ نے وہ بات فرمائی کہ جس کو ہم نے بھی نقل کیا ہے۔“

”وذوالعلم بہا قال انا ادرك معناه“

”اور صاحب علم ہو جاؤ گے اگر اس چیز کے معنی سمجھ لو جو انہوں نے کہی

ہے۔“

”یری الاخبار فی المہدی قد جانت بسیماہ“

”ایسی روایات کو دیکھے گا انسان کہ بس میں حضرت مہدیؑ کا علیہ تشبیہ

بتایا گیا ہے۔“

”وقد ابداه بانسبہ والوصف و سماہ“

”ان کے اوصاف حسب نسب اور ظاہری شمائل سب ہی کچھ روشن

کئے ہیں۔“

”ویکفی قولہ منی لاشرق محیاء“

”اور رسول اللہؐ کی یہی حدیث حضرت مہدیؑ کے چہرے کو روشن و واضح کرنے کے لئے کافی ہے۔“

”ومن بضعته الزهراء مرساہ و مسراہ“  
 ”اور حضرت مہدیؑ رسول اللہؐ کی جان کے حصے اور ٹکڑے یعنی حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی نسل سے ہیں۔“

”ولن يبلغ ما اوتيه امثال واشباہ“  
 ”اور جو منزلت و مرتبہ خدا نے حضرت مہدیؑ کو دیا ہے کوئی بھی اسکی مانند مثل مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔“

”فمن قالوا هو المہدی ما مانوا بما فاهوا“  
 ”اب جس نے یہ کہا کہ مہدیؑ درحقیقت یہی شخص ہے تو وہ اپنی اس بات کے ذریعے کسی خطا کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔“

نیز اسکے علاوہ فارسی و عربی کے دیگر متعدد اشعار ہیں کہ جو ہر محقق کو ڈھونڈنے سے مل جائیں گے۔ صاحب یتایع المودۃ نے ان میں سے بہت سے اشعار کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اسی میں سے شیخ احمد جامی، شیخ عطار نیشاپوری اور شیخ جلال الدین رومی کے علاوہ دیگر متعدد شعراء نے بھی اشعار کے ہیں۔ لیکن جتنے بھی اشعار ہم نے یہاں نقل کئے ہیں وہی تعداد بھی کافی ہے۔





---

مہدیؑ عرب سے ہیں

---

---

حضرت مہدیؑ کا عرب اور رسول اللہؐ کی امت سے ہونا اسکے علاوہ آپؑ  
(مہدی) کے عظیم الشان گھرانے اور عالی نسب خاندان کا تعین۔

### مہدیؑ عرب سے ہیں

عقد الدرر کی فصل اول، باب چہارم میں ابو عبد اللہ نعیم بن حماد کی کتاب  
"الفتن" سے منقول ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا :

"بنی عباس کی مملکت ایسی ہوگی کہ اگر ترک، اہل ہند اور اہل سندھ بھی  
اس کو تباہ و برباد کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں گے۔ اور بنو عباس اسی طرح  
عیش و عشرت میں ڈوبے رہیں گے۔ یہاں تک کہ خدا ان پر ایک  
سواری کو اس مقام سے مسلط کرے گا جہاں سے ان کی مملکت کی ابتداء  
ہوتی ہے۔ جس شہر سے بھی یہ سواری گزرے گی اس کو فتح کر کے رہے  
گی، جو پرچم بھی اس کے سامنے (یعنی مخالفت میں) لہرایا جائے گا،  
سرنگوں ہو کر رہے گا۔ کوئی نعمت ایسی نہ ہوگی جس کو یہ تباہ و برباد نہ  
کرے۔ جو اس سے دشمنی رکھے گا تباہی و بربادی اس کا مقدر ہوگی۔"

ان فتوحات کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ یہ لوگ ان فتوحات کو ایک مرد عربی کے حوالے کریں گے جو حق کی سرپٹندی اور اس پر عمل کے لئے قیام کرے گا۔“

کلام مصنف : اس حدیث سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ مرد عربی سے مراد مہدی منتظر ہی ہیں کہ جو آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ اس بات کی دلیل وہ الفاظ ہیں کہ جو عقد الدرر کی مذکورہ بالا فصل میں امام ابو عبد اللہ نعیم بن حماد نے اپنی کتاب ”الفتن“ میں اور انہوں نے ابو قبیل سے نقل کیے ہیں کہ :

”لوگ بنو عباس کی سلطنت کے خاتمے تک اسی طرح آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ اور جب ان کی مملکت کا خاتمہ ہو جائے گا تو فتنوں اور حوادث میں ان کی زندگی گزرے گی یہاں تک کہ مہدی علیہ السلام قیام فرمائیں۔“

تاریخ اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ ہلاکو خان کے قیام سے اب تک سرزمین مشرق کو سکون نصیب ہوا، نہ ہی فتنہ و فساد ختم ہوئے۔ اسکے علاوہ امراء اور سربراہان مملکت کے درمیان اختلافات جن کے توں ہی رہے۔ پس حدیث کا یہ جملہ کہ ”ایک مرد عربی کے حوالے کریں گے۔“ گویا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ حوادث، اختلافات، حوادث روزگار اور فتنہ و فساد سب کے سب ہلاکو خان کے قیام کا لازمہ اور اثرات میں سے ہیں، نیز ظہور حضرت مہدیؑ تک قائم و دائم رہیں گے۔

ادھر دوسری طرف کیونکہ سرزمین مشرق میں بہ پایہ فتنہ و فساد امام مہدیؑ کے

غالب آجانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اسکے علاوہ آپؐ کی دعوت حق اور ممالک پر غلبہ حاصل کرنے پر تقدم زمانی بھی رکھتا ہے، نیز بلا کو خان کے لوازم اور نتائج سے بھی ہے لہذا ہم ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتوحات اور قابو پالینے کا امر آپؐ علیہ السلام کے حوالے کیا گیا ہے۔

اب رہا حضرت مہدی منتظر کا عرب سے ہونا تو اس کی نشاندہی (جیسا کہ بعد میں واضح ہو گا انشاء اللہ) روایات مستفیضہ کرتی ہیں، اور جن میں آپؐ کے گھرانے اور خاندان کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ راغب اصفہانی اپنی کتاب ”مفردات“ میں لکھتے ہیں کہ :

”عرب حضرت اسمعیل کی نسل سے ہیں اور اعراب اصل میں عرب کی جمع ہے اور بعد میں ہادیہ نشینوں کو اعراب کہا جانے لگا۔“  
سبائک الذہب کے باب دوم صلفہ ۳ پر درج ہے کہ :

”یہ جان لو کہ جس کو عرب کہا جائے وہ شہری اور جس کو اعراب کہا جائے تو وہ ہادیہ نشین ہے اور عرب زبان دونوں کے لئے کلمہ عرب استعمال کرتے ہیں۔“

جوہری اپنی کتاب صحاح میں لکھتے ہیں کہ :

”وہ قوم کہ جو شہروں میں زندگی گزارے عرب کہلاتی ہے اور عربی، عرب سے منسوب ہے اور اعرابی، اعراب سے منسوب ہے۔ اور عرب عام میں کلمہ عرب کو دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔“

تقریباً یہی بات قاموس میں بھی مرقوم ہے۔

صاحب العبران نے ذکر کیا ہے کہ :

”لفظ عرب‘ اعرابی سے نکلا ہے‘ جس کے معنی ”بیان کرنے“ کے ہیں۔ اور یہ معنی عربی کے اس جملے سے اخذ کئے گئے ہیں کہ جب کہا جائے ”العرب الرجل عن حاجته“ یعنی اس شخص نے اپنی ضرورت کو صاف صاف فصاحت کے ساتھ بیان کیا۔ یہ بات اس وقت کہی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص واضح اور فصیح انداز سے بات کرے۔ عربوں کو عرب اس لئے کہا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر ان کے یہاں فصاحت، بلاغت اور وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ اب عربوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں تو وہ اجمعی کہلائیں گی۔ چاہے فارسی، ترکی، رومی یا فرنگی وغیرہ ہی کیوں نہ ہوں اور عوام الناس کا یہ خیال قطعاً غلط ہے جس کے مطابق وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اجمعی صرف فارسی زبان والوں کو ہی کہا جاتا ہے۔ بلکہ اہل مغرب (مراکش، الجزائر، اندلس) کے باسی تو آج تک اجمعی کے لفظ کو اہل روم و فرنگ اور ان کے قرب و جوار میں بسنے والی اقوام کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

اب رہی بات کلمہ ”اجمعی“ کی تو یہ اس شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو فصاحت کے ساتھ کلام نہ کر سکے، اگرچہ عرب ہی کیوں نہ ہو۔“ (تمام ہوا کلام صاحب العبران)

حضرت ہمدیٰ اسی امت (امتِ مرحومہ) سے ہیں

ترذی اپنی کتاب ”صحیح“ کے صفحہ ۲۷۰ پر ابو سعید خدری سے نقل کرتے

ہیں کہ :

”ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو گا اس لئے ہم نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ یقیناً میری امت میں سے مہدی ہے کہ جو خروج کرے گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ہدی الاسلام کے تیسرے سال کے شمارہ نمبر ۲۵ میں ابن ماجہ سے اور وہ ابو سعید خدری سے رسول اللہ سے اسی طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

عقد الدرباب اول میں ابو مسلم، عبدالرحمن بن عوف سے اور وہ اپنے والد سے رسول اللہ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

”یقیناً خدا میری امت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا پھر فرمایا کہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسکے علاوہ عقد الدرباب سوم میں حافظ ابو نعیم سے خود انکی اپنی کتاب صفحہ المہدی سے اور اس میں ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا :

”مہدی ہم اہل بیت میں سے ایک شخص ہے کہ جو میری امت سے ہو گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

الفصول المہجۃ میں ابو داؤد اور ترمذی سے اور ان دونوں نے عبد اللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا :

”اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی خدا اس دن کو اس قدر طولانی کرے گا۔ یہاں تک کہ خدا میری امت اور میرے

اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کو ظاہر کرے گا جو میرا ہم نام ہوگا۔  
(حدیث ملاحظہ کریں)

ینالغ المودۃ کے صفحہ ۴۳۴ پر کتاب جو اہل العقیدین سے اور اسمیں ابو سعید  
قدری سے اور وہ آنحضرتؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا :

”ممدی میری امت میں سے ہوگا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ابو عبد اللہ نعیم بن حمار اپنی کتاب الفتن میں رسول اللہؐ کی ایک حدیث  
ہشام بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا :

”ممدی اسی امت میں سے ہے اور وہی ہے کہ جو عیسیٰ بن مریم کی  
امامت کرے گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

راغب اپنی کتاب مفردات میں لکھتے ہیں کہ :

”امت یعنی ہر وہ جماعت جو کسی قدر مشترک کی وجہ سے آپس میں  
منسلک ہو خواہ وہ قدر مشترک ان افراد کا دین، ان کا زمان یا مکان ہو،  
خواہ کسی بیرونی طاقت کے دباؤ سے وجود میں آئی ہو یا اپنے اختیار سے،  
اور امت کی جمع اسم ہے۔“ (تمام ہوا کلام راغب)

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر نبی کے پیروکاروں اور اسکے دین کے ماننے  
والوں کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جو اس نبی کے دور میں  
موجود تھے مگر بیرونی نہ کرتے تھے تو یہ لوگ امت میں شامل نہیں۔

پس امت اسلامیہ میں اس شخص کو شامل کیا جائے گا جو دین اسلام پر قائم  
ہو اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو جو رسول اللہؐ اپنے ہمراہ لائے۔ اب چاہے  
آپؐ کی صحبت سے شرفیاب ہو، سکا ہو یا نہ ہو، سکا ہو۔ آپؐ کے دور کو پاسکا ہو یا نہ

پاسکا ہو اور کسی بھی حسب نسب، قوم، ملک، زبان یا زمانے سے تعلق رکھتا ہو۔  
(معیار صرف اور صرف دین کی پیروی اور ایمان لانا ہے)

کلام مصنف : جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں موجود کلمہ ”مہدی“ میں ”ال“ (الف لام) عمد کے لئے ہے۔ اور عربی قواعد میں عمد کے معنی یہ ہیں کہ احادیث میں موجود کلمہ ”مہدی“ اسی مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس کا ذکر مبارک آسمانی کتب میں آیا ہے اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو آپ کی بشارت بھی دی ہے۔ لہذا وہی مہدی، اسی امت مرحومہ میں سے ہیں کسی اور امت سے نہیں۔

لہذا اس امت کا بجا طور سے یہ حق ہے کہ اس فضیلت کے عطا ہونے پر فخر و انبساط سے پھولے نہ سمائے۔

البتہ شاذ و نادر اور غیر قابل اعتبار روایات (کہ جو چند ایک ہی ہیں) میں یہ بھی ملتا ہے کہ مہدی، حضرت عیسیٰ بن مریم کے سوا کوئی اور نہیں۔

ابن حجر صواعق کے صفحہ ۹۸ پر راقم ہیں کہ، ابن ماجہ اور حاکم نیشاپوری نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا :

”تمام امور کی سختی اور صعوبت بڑھتی چلی جائے گی، دنیا آنکھیں پھیر لے گی، لوگوں میں، بجز بکل، سنجوسی کے کسی چیز کا اضافہ نہ ہو گا، قیامت سوائے بدکار لوگوں کے کسی پر نہ آئے گی اور مہدی عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی نہ ہو گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ابن حجر، حاکم نیشاپوری کے ایک جملے کو نقل کرتے ہیں جس میں حاکم نے خود کہا ہے کہ :



”میں نے اس حدیث کو نہایت تعجب اور حیرت کے عالم میں نقل کیا ہے  
 کسی استدلال اور دلیل کے قائم کرنے کے لئے نہیں۔ ۱۔  
 یہی کا کہنا ہے کہ صرف محمد بن خالد وہ واحد شخص ہے کہ جس نے اس  
 حدیث کو نقل کیا ہے۔

حاکم نیشاپوری نے یہ کہا کہ محمد بن خالد مجھوں راوی ہے۔ ۲ اور اس  
 روایت کی اسناد میں بھی اختلاف ہے۔  
 نسائی نے تو اس بات کا کھلے الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ اس کی حدیث منکر (یعنی  
 غیر قابل قبول) ہے۔

واژة المعارف جلد ۱۰ صفحہ ۷۵ پر مذکورہ حدیث کو ابن ماجہ سے نقل کیا گیا  
 ہے اور پھر امام قرطبی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ :

”مذکورہ بالا حدیث کی یہ بات (کہ عیسیٰ بن مریم ہی مہدی ہیں) گزشتہ  
 احادیث کے معنی سے تضاد نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس بات سے حضرت  
 عیسیٰ بن مریم کی تعظیم کرنا بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی  
 عصمت اور کمال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ  
 ہی مہدی ہیں۔

۱۔ یعنی حاکم کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ احادیث میں ایسی عجیب اور حقیقت سے  
 دور احادیث بھی نقل ہوئی ہیں کہ جو غیر معتبر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل سے دور بھی  
 ہیں۔

۲۔ یعنی نہ تو کسی نے اس کی اچھائی اور دھماقت کی گواہی دی ہے اور نہ ہی برائی کو بیان  
 کیا ہے۔

”کہ جو حضرت مہدیؑ کے وجود سے تضاد نہیں رکھتی، بالکل ایسے جیسے کہا جاتا ہے کہ ”لافتسی الاعلیٰ“ (بجز علی کے کوئی جو انہر نہیں۔) اور ہماری اس بات کی تائید وہ حدیث بھی کرتی ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہے۔ زین کو عدل سے بھر دے گا اور عیسیٰ کے ساتھ خروج کرے گا اور اس کی دجال کے قتل میں، فلسطین کے باب لہ کے مقام پر مدد کرے گا۔ اس امت کی امامت کرے گا اور حضرت عیسیٰ بن مریم اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔“

عقد الدرر کے دیباچہ میں مرقوم ہے کہ :

”کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ پاک و پاکیزہ حضرت مریمؑ کے فرزند عیسیٰؑ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں۔ اگر ایسے لوگ سرے سے حضرت مہدیؑ کے ظہور کے منکر ہیں تو ان کا یہ خیال کسی توجہ کا مستحق ہے اور نہ بحث کے لائق۔ کیونکہ انکی اس بات کی کوئی قابل توجہ اور معتبر دلیل نہیں۔

اب رہ گئے وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے اور ایسی حدیث کے صحیح ہونے پر اصرار کرتے ہوئے ڈنٹے رہتے ہیں تو اس کی وجہ تعصب، اشتباہ یا مغالطہ کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہے یہ حدیث کتنی ہی زبان زد عام و خاص رہی ہو۔

---

۱۔ کوئی جواں مرد نہیں ہے بجز علی بن ابی طالب کے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ تمام افراد (اگرچہ جواں سال ہوں) بوڑھے ہیں۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جواں مردی اور عزم و استقلال کا اتم و احسن مصداق ”علی علیہ السلام“ ہیں۔

اسکے علاوہ جب مذکورہ ذراہت 'علمائے حدیث کے کہنے کے مطابق قابل توجہ ہی نہیں تو ہم کیونکر اس حدیث کو صحیح و معتبر مانیں۔ اور اگر کوئی مذکورہ حدیث کی سند میں دقت نظر سے تفکر کرے تو نہ اس حدیث کو استدلال کے لائق پائے گا نہ احتجاج کے قابل۔"

امام ابو عبد الرحمن نے تو اس حدیث کے منکر (ناقابل قبول) ہونے کی تصریح کی ہے۔ اور ان کا یہ کام عین قرین قیاس ہے کیونکہ اس حدیث کی سند کو محمد بن خالد جندی کے دائرہ اور دیکھتے ہیں۔

امام ابو الفرج بن جوزی اپنی کتاب "مغل قناریہ" میں اس حدیث کے ضعیف ہونے کے بارے میں حافظ ابو بکر بیہقی کے کلام کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

"مذکورہ حدیث کی سند 'آخری مرحلہ میں جندی کی طرف پلٹی ہے جو مجھول ہے۔"

ایمان بن عیاش نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن وہ (ابان) متروک اور ناقابل قبول راوی ہے۔

ایک اور راوی حسن ہے کہ جس نے اس حدیث کو رسول اللہ سے نقل کیا ہے لیکن سند کے تمام راویوں کا ذکر نہیں کیا اور حدیث کے سلسلے کو رسول اللہ تک نہیں پہنچایا۔"

بیہقی نے اپنے استاد 'حاکم خیشا پوری سے حکایت کی ہے اور حاکم

۱۰ یعنی اس حدیث کو جس نے بھی نقل کیا ہے، محمد بن خالد جندی سے نقل کیا ہے، اور مذکورہ راوی مجھول ہے جس کی بناء پر روایت اپنی قوت پر باقی نہیں رہتی۔

نیشاپوری کا کلام علم حدیث اور راویوں کے احوال کے بارے میں حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ :

”جندی مجھول ہے اور ابن عیاش متروک۔ لہذا مذکورہ حدیث اس طرح کی سند کے ساتھ ”منقطع“ کہی جائے گی۔“ (منقطع یعنی وہ حدیث جس کے راویوں کا ذکر نہ کیا گیا ہو)

اسکے علاوہ علمائے حدیث نے امام مہدیؑ کے حق میں اتنی زیادہ روایات کا ذکر کیا ہے کہ جن کی کثرت ڈھکی چھپی نہیں اور تمام احادیث آپؑ کے نام کا صراحت سے ذکر کرتی ہیں۔

اور یہی تمام امور اود واضح دلائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم ان تمام احادیث کو اس ایک منکر اور متروک حدیث پر ترجیح دیتے ہیں۔ یقیناً یہ بات اس شخص کے لئے روشن ہے جو مذکورہ بالا حدیث کی سند کے حال زار سے واقف ہے۔ اسکے علاوہ کچھ اور احادیث ہمارے دعوے کی ہم معنی اور موافق احادیث کو قوت و استحکام بھی بخشتی ہیں۔

امام حافظ ابو عبد اللہ حاکم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مستدرک میں اس حدیث پر مضبوط اور مستحکم انداز سے قلم اٹھایا ہے اور حقیقت کے متلاشی کے لئے ان کثیر روایات کی نشاندہی کرتے ہوئے مذکورہ روایت پر ترجیح اور فوقیت بھی دی ہے۔ اس حدیث کی سند کے نقص اور صاحب فہم شخص کے لئے روایت کے ضعف کو بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ :

”میں نے اس حدیث کا جس طرح سے بھی یہ مجھ تک پہنچی اس طرح سے ذکر کر دیا ہے۔ لیکن اس حدیث کو نقل کرنے سے میرا مقصد“

استدلال و احتجاج کرنا نہیں بلکہ احادیث کے درمیان اس عجیب و غریب اور حقیقت سے دور حدیث کی موجودگی پر اظہارِ تعجب ہے۔ اور یہی بات اس حدیث کے شدید ضعف کو ظاہر کرتی ہے۔“

اسکے بعد کہا ہے کہ اس حدیث سے بہتر سفیان ثوری اور شعبہ وزائیدہ اور دیگر لوگوں کی حدیث ہے اور پھر سفیان کی حدیث کا ذکر کیا ہے جس میں آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ :

”اس کا نام میرے نام سے مشابہ ہے۔“ (یعنی ہم نام)

اور پھر جدید علماء کی یہ بات نقل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ : نام کی مشابہت کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہؐ اور حضرت مہدیؑ ہم نام ہیں۔ انصاف کی نگاہ سے اس کلام پر غور کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی جیسا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت مہدیؑ جناب فاطمہ الزہراءؑ کی نسل سے ہیں نہ کہ جناب مریمؑ کے فرزند۔ لہذا جناب عیسیٰ بن مریمؑ کے علاوہ ایک اور شخصیت ہیں۔

بالفرض محال اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی اس حدیث کی تاویل ہونی چاہئے۔ کیونکہ ہمیں ان ذہیروں احادیث صحیحہ اور معتبرہ کے اسقاط کی جو اس ایک حدیث سے متقار و متعارض ہیں کوئی معقول راہ بھائی نہیں دیتی۔

ہمارے خیال میں شاید مذکورہ حدیث کی تاویل بھی ”لا صلوة لاجار المسجد الا فی المسجد“ کی طرح ہو۔ کیوں کہ دونوں حدیثوں کے

۱۔ حدیث نبویؐ۔ مسجد کے پروسی کی نماز بجز مسجد کے کہیں نہیں۔

الفاظ ملتے جلتے ہیں نیز اس انداز کی احادیث لاتعداد ہیں۔۔۔ ایسی احادیث میں کسی امر کی سرے سے نفی اور انکار مقصود نہیں بلکہ اس نفی کے بد مقابل امر کی شدید ترجیح اور فوقیت کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس نفی کے پس پردہ کوئی اور معنی مراد ہیں۔

نیز مذکورہ تاویل کے علاوہ کوئی اور تاویل بھی ہو سکتی ہے۔ (تمام ہوا کلام سالم، الحمد للہ)

صاحب ینایع المودۃ اپنی کتاب کے صفحہ ۳۳۳ پر رقم ہیں کہ محمد بن خالد کا مذکورہ حدیث (کوئی نہیں بجز عیسیٰ بن مریم کے) کو گھڑنا چند امور کی مدد سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔

(۱) اگر مذکورہ حدیث صحیح اور سچی ہوتی تو ضروری تھا کہ وہ ظلم و جور کہ جو یزید اور حجاج کے زمانے میں برپا تھا اور دنیا میں خیر و صلاح نام کی کوئی چیز باقی نہ رہ گئی تھی اب تک باقی رہتا۔ لیکن بجز اللہ ان دونوں کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز اور باقی عباسی خلفاء کے زمانے سے اب تک خیر و صلاح قائم و دائم ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت مہدی کی ذات مبارک کی طرف قرآن مجید میں 'بے شمار آیات کے ضمن میں اشارہ کیا ہے۔ پس جس طرح ہمارے رسولؐ سے پہلے کے انبیاء نے سب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور امام مہدی کے ظہور کی عظیم الشان بشارت سے نوازا۔ ان انبیاء کی بشارتیں مشرق الاکوان میں مذکور ہیں۔ (تمام ہوا ینایع المودۃ)

۱۰۔ ایک توہمی حدیث نبویؐ اور دوسری "لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم" بجز عیسیٰ بن مریم کے اور کوئی مہدی نہیں۔

اب علمائے اسلام نے جو احادیث محمد بن خالد بن مذکورہ حدیث کے بارے میں دیئے ہیں ان سے مندرجہ ذیل نتائج و نکات اخذ کئے جاسکتے ہیں۔

- (۱) یہ حدیث جعلی اور من گھڑت ہے۔
- (۲) حدیث منکر اور ضعیف ہے۔
- (۳) اس حدیث کی تاویل کرتے ہوئے، ظاہری معنی کے علاوہ کسی اور معنی پر عمل کیا جانا چاہئے۔
- (۴) یہ حدیث احادیث متواترہ سے متعارض اور متضاد ہے۔

ایک اور بات جو کہی جاسکتی ہے کہ احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ظہور حضرت مدنی اور آسمان سے حضرت عیسیٰ کا نزول ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہیں۔ جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ پس اگر ذرا دقت نظر اور پارہیک بینی سے ایک کا تصور کریں تو دوسرے کا تصور خود بخود ذہن میں آئے گا۔ گویا دونوں ایک شخصیت کی طرح ہیں۔

بس یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ روایت میں کچھ کلمات محذوف ہو گئے، مثلاً حدیث اس طرح رہی ہو کہ :

”مدنی نہ ہو گا، بجز اسکے کہ حضرت عیسیٰ بھی آپ کے ساتھ ہوں۔“  
 جس طرح کہ روایات مستفیضہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مدنی کی روایت کو بتاتی ہیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ کا نزول اور وجود، حضرت مدنی کے دعوے کی سچائی کی چند علامتوں میں سے ایک ہے۔

## حضرت مہدیؑ کثانہ میں سے ہیں

عقد الدرر کے باب اول میں امام ابو عمر عثمان بن سعید المقرئ کی کتاب سنن سے اور وہ قنادہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ آیا مہدی کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ تو سعید نے جواب دیا۔ بالکل ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ (مہدی) کس سے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کثانہ سے۔ میں نے پوچھا کثانہ میں کس شاخ سے؟ انہوں نے جواب دیا قریش ہے۔ پھر قریش میں کس شاخ سے؟ انہوں نے جواب دیا بنی ہاشم سے۔

پھر میں نے پوچھا کس کی نسل سے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت فاطمہؑ کی نسل سے۔

کلام مصنف : کثانہ کا شجرہ یہ ہے۔

کثانہ بن حزمیہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان  
سبائک الذہب میں مرقوم ہے۔

بنو کثانہ، مضر کی نسل سے ہیں۔ کثانہ کے ایک فرزند تو نضر ہیں کہ جن کی نسل سے رسول اکرمؐ ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جن سے رسول اکرمؐ کی نسل کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ ہیں مالک، مالکان، حارث، عمرو، عامر سعد، غنم، عوف، بحیرہ، جریول، جدال اور عزوان۔

ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ یمن میں رہتے ہیں۔ اور کتاب العبر میں مرقوم ہے کہ ان کے گھر کے منورہ کے اطراف میں ہیں۔ (تمام ہوا کلام سبائک

الذہب)



## مسدئی قریش سے ہیں

عقد الدرر کے باب اول میں امام ابو عبد اللہ نعیم بن حماد اور وہ وائل سے اور وہ قتادہ اور امام ابو الحسن احمد بن جعفر السنادی سے نقل کرتے ہیں کہ :

”قتادہ نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ :

آیا مسدئی کی کوئی حقیقت ہے؟ سعید نے جواب دیا بالکل ہے۔

پوچھا کس سے ہیں؟ جواب دیا قریش سے۔

قتادہ نے پوچھا قریش کی کونسی شاخ سے؟ جواب دیا بنو ہاشم سے۔

پوچھا کونسے بنو ہاشم؟ جواب دیا عبد المطلب کی نسل سے۔

پوچھا عبد المطلب کی کونسی اولاد ہے؟ جواب دیا فاطمہ کی نسل سے۔

پوچھا فاطمہ کے کونسے بیٹے سے؟

تو اس مقام پر سعید نے کہا کہ تمہارے لئے یہاں تک جو جوابات دیئے

وہی کافی ہیں۔“

ایضاً عقد الدرر کے باب ہفتم میں حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد سے انکی کتاب ”الفتن“ اور اس میں اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ سے اور وہ طاؤوس سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے آخری وقت میں بیت المال کا الوداعی جائزہ لیا اور کہا کہ :

”خدا کی قسم! میں بیت المال کے خزانے اور اس میں جمع شدہ اسلحہ اور

مال و دولت کو خدا کی راہ میں تقسیم کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔“

تو حضرت علیؑ نے انکے جواب میں کہا کہ :

”اے امیرالمومنین! رہنے دیجئے، آپ اس امر کے مالک نہیں۔ اس کا مالک تو صرف قریش کا وہ دلاور جوان ہے جو آخری زمانے میں اس ماں و دولت کو خدا کی راہ میں تقسیم کرے گا۔“

ابن حجر صواعق کے صفحہ ۹۹ پر ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کو احمد اور ماوردی نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا :

”بشارت ہو تم لوگوں کو مہدی کی جو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف الراغبین صفحہ ۱۲۸ پر بھی مندرجہ بالا حدیث کی طرح ایک حدیث موجود ہے۔

کلام مصنف : قریش نصربین کنانہ کو کہا جاتا ہے۔

جامع اللطیف میں مرقوم ہے کہ :

”یہ بات جان لو کہ قریش کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک بحری جانور کے نام پر ہے جو قریش کہا جاتا ہے۔ اور یہ قبیلہ قریش کی اس حیوان سے تشابہت کی بناء پر ہے کہ قریش نہایت مستحکم اور ناقابل تغیر ہیں۔ کیونکہ یہ جانور ہر چیز کو ہڑپ کر جاتا ہے لیکن کوئی چیز اس کو اپنا تمہ نہیں بنا سکتی۔ یہ ہر چیز پر غالب ہے لیکن کسی سے مغلوب نہیں۔“

اور مدارک میں اس حیوان کے بارے میں ہے کہ :

”یہ ایک عظیم الجثہ حیوان ہے کہ جو بڑی بڑی کشتیوں کو الٹا سکتا ہے اور صرف آگ کے ذریعے ہی قابو میں آتا ہے۔ اور کلمہ قریش کو اس

وزن پر تعظیم و تکریم کے لئے ڈھالا گیا ہے۔“ (تمام ہوا کلام  
مدارک)

لہجی نے اپنے شعر میں کہا ہے :

”وقریش ہی النبی تسکن البحر  
وبہا سمیت قریش قریشا“  
”اور قریش یہ وہ ہے کہ جو سمندر میں رہتی ہے اور اسی کے اوپر قریش کا  
نام رکھا گیا ہے۔“

”تاکل الغث والسمین ولا تترک فیہ  
لذی الجناحین ریشا“  
”بڑے اور چھوٹے تمام جانوروں کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے اور سمندر میں  
کسی بھی پرندے کے پروں تک کو نہیں چھوڑتی۔“

”ہکنا فی البلاد حتی قریش  
یاکلون البلاد اکلا قشیشا“  
”اسی طرح شہروں (شہکی میں) میں قریش ہیں کہ جو شہروں کو اس طرح  
اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں جس طرح سانپ کی کھانے کے رگڑ سے ایک آواز  
پیدا ہوتی ہے۔“

”ولہم آخر الزمان  
یکثر القتل فیہم والخموشا“  
نبی

۱۔ عربی زبان میں کبھی اس وزن پر اگر کوئی کلمہ آئے تو اس سے آقا کریم و تکریم مراد ہوتی  
ہے جیسے نوہ قریش کہ جو ہر وزن ”زہبیر“ ہے۔

”اور اپنی میں سے آخری زمانے میں ایک نبی ہے کہ جب قتل و مار  
کوٹ کی کثرت ہو جائیگی۔“

کلمہ ”قشیش“ مصدر ہے۔ اور اسی سے ”قشت الحیہ“ نکلا ہے  
یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب سانپ کی کھال کی رگڑ سے آواز پیدا ہو۔  
ایک وجہ تسمیہ کے مطابق ’قریش بن مخلد بن غالب بن فہر کے نام پر قریش  
کو قریش کہا گیا ہے۔ یہ ان کے سالار قافلہ کا نام تھا۔ لہذا جب قافلہ کی آمد ہوتی  
تو کہا جاتا تھا کہ قریش کا قافلہ آگیا اور روانگی پر کہتے کہ قریش کا قافلہ روانہ ہو  
گیا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”قصی“ نے ان لوگوں کو دور دراز کے مقامات  
سے لا کر مکہ میں آباد کیا تھا اور اسی لئے ’جیسا کہ فضل بن عباس بن عقبہ کے  
شعر میں گزشتہ صفحات پر ذکر ہوا ’ان کو (قصی کو) مجمع (جمع کرنے والا) بھی کہا جاتا  
تھا۔

فضل بن عباس ہی کا شعر ہے کہ :

”نحن کنا سکا نھا من قریش

و بنا سمیت قریش قریشا“

”قریش میں سے ہم ہی لوگ اس کے (مکہ کے) سکونت پذیر تھے۔ اور

ہماری بنا پر قریش کو قریش کہا گیا ہے۔“

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”قصی“ کا نام قریش بھی تھا اسی لئے ان کا نام بھی

قریش پڑ گیا۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ ان کا نام زید تھا۔ جیسا کہ قارئین کی نظر سے  
گزرا۔

ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ مختلف سازد سامان کو فروخت کر کے تقریر کیا کرتے تھے۔ جسکے معنی کسب معاش کے ہیں۔  
یہ بھی کہا گیا کہ نصر کو قریشی بھی کہا جاتا تھا جس کی بناء پر قبیلے کا نام قریشی پڑ گیا۔

### مہدی بنی ہاشم میں سے ہیں

عقد اللہ ربّ اب اول میں مرقوم ہے کہ امام ابو الحسن احمد بن جعفر السنادی امام ابو عبد اللہ نعیم بن حاد نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ قتادہ نے کہا میں نے سعید بن سب سے پوچھا کہ :

”آیا مہدی کی کوئی حقیقت ہے؟ انہوں نے جواب دیا بالکل ہے۔

میں نے پوچھا، کس کی نسل سے ہونگے؟ جواب دیا قریش سے۔

پوچھا قریش کی کونسی شاخ سے؟ جواب دیا بنی ہاشم سے۔

پوچھا بنی ہاشم کے کس گھرانے سے؟ جواب دیا عبد المطلب کے یہاں

سے۔

پوچھا عبد المطلب کے کس فرزند سے؟ جواب دیا فاطمہ کی نسل سے۔

پوچھا فاطمہ کے کون سے فرزند سے؟ تو اس مقام پر سعید نے جواب دیا

کہ تمہارے لئے یہی جوابات کافی ہیں۔ اب میں تمہیں ان کا شجرہ بتاتا

ہوں وہ ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوکی

بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ۔“

کتاب جامع اللطیف میں لکھتے ہیں کہ :

”جناب ہاشم کا اصل نام عمرو العلی تھا، ہاشم ان کو اس لئے کہا جانے لگا کہ وہ قحط اور نذرانی قلت کے ایام میں اپنی قوم کے لئے ”ثرید“ تیار کرتے تھے۔ اور انہی کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ :

”عمر والنہی ہشم الشریذ لقومہ

ورجال مکہ مستنون عجاف“

”عمرو وہی تو ہے کہ جو اپنی قوم کے لئے ثرید تیار کرتا تھا جبکہ مکہ کے لوگ قحط اور خشک سالی کا شکار تھے۔

”اسکے علاوہ جناب ہاشم جو دو سخا کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے یہاں تک کہ وحشی حیوانات اور پرندوں کے لئے بھی دانے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان حیوانات کے لئے (انکی موزوں) غذا رکھ جاتے اور جب قحط سالی ہوتی تو آپ تمام لوگوں کے طعام کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ مکہ کے مخیر لوگوں کو حکم دیتے کہ جب بارانِ رحمت نہ برے آپ لوگ تمام فقراء و مساکین کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔

اسکے علاوہ جناب ہاشم ہی نے قیصر روم کے پاس ایک وفدِ شام بھیج کر اور یمن کے امراء و سلاطین کی طرف اپنے بھائی مطلب کو بھیج کر قریش کے لئے امان نامہ حاصل کیا اور پھر قریش کے تاجروں کو موسم گرما اور موسم سرما کی تجارت شروع کرنے کو کہا، جس کے بعد قریش نے موسم گرما میں شام اور موسم

۱۔ ”ثرید“ : شریف کا ہم وزن۔ شوربے میں روٹی کو توڑ کر بھیننے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب کے عمدہ کھانوں میں سے تھا۔

ہاشم : توڑنے والا ”ہشم الشریذ لقومہ فہو ہاشم“ (المسجد)

سرمایس میں کی جانب تجارتی قافلے لے جانے شروع کیے جس کے نتیجے میں ان کی تجارت نے ترقی اور معیشت نے بہتری پائی۔ اور خدائے ہاشم کی برکت سے ان کے دلوں سے سفر اور قحط سالی کے خوف کا خاتمہ کر دیا۔

اور اب ابن عبد مناف کا تذکرہ، تو ان کو انکی خوبصورتی اور حسن کی بنا پر قمر بطحاء بھی (سرزمین بطحاء کا چاند) کہا جاتا تھا۔ اور آپ ہی تھے کہ جو اپنے والد قصی کی جگہ سردار بنے نیز حجاج کے پانی کا انتظام بھی آپ کی زیر نگرانی تھا ایک اور قول کے مطابق آپ کا نام مغیرہ بھی بتایا گیا ہے اور کنیت ابو عبد الشمس تھی۔

ابن قصی : آپ کا نام زید تھا اور زید بھی نقل ہوا ہے چونکہ آپ اپنی والدہ فاطمہ بنی سعد کے ہمراہ جو بنی مذرہ سے تھیں، ایک دور دراز مقام پر چلے گئے تھے اور وہیں اپنے ماموؤں کے ساتھ پرورش پائی۔ چونکہ یہ مقام مکہ سے دور تھا اس لئے آپ کا نام قصی پڑ گیا جو قاصی سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی بعید (دور) کے ہیں۔ اسکے علاوہ آپ کو مجتمع (جمع کرنے والا) بھی کہا جاتا تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ جب آپ بڑے ہو گئے اور مکہ واپس لوٹے تو دور دراز کی وادیوں اور قرینوں میں بکھرے ہوئے قریش کو جمع کر کے مکہ آئے اور قبیلہ نزاہ کو مکہ سے خارج کر دیا۔ اسی لئے آپ کو مجمع بھی کہتے ہیں۔

اور انہی کے بارے میں فضل بن عباس بن ابولہب نے کہا ہے کہ :

”ابوکم قصی کان یدعی مجمعا“

”به جمع الله التقبائل من فھر“

”تم لوگوں کے والد قصی تھے کہ جن کو جمع کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہ فھر کی

نسل سے تھے اور انہی کے سبب رب العزت نے قبائل کو جمع کر دیا۔“

### حضرت مہدی اولاد عبدالمطلب سے ہیں

عقد الدرر کے باب ہفتم میں اہل حدیث کے بعض علماء سے ایک حدیث منقول ہے جو ان علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے جیسے امام ابو عبد اللہ بن ماجہ نے اپنی کتاب سنن میں، حافظ ابوالقاسم طبرانی نے اپنی معجم میں، اور حافظ ابو حیم اصنافی وغیرہ نے یہ سب نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا :

”ہم بنو عبدالمطلب کی نسل سے سات افراد اہل جنت کے سردار ہیں۔

میں (یعنی رسول اللہؐ)، میرا بھائی (علیؑ)، میرے چچا حمزہؓ، جعفر (ابن

ابوطالب)، حسنؑ، حسینؑ اور مہدی۔“ (حدیث تمام ہوئی)

کلام مصنف : جو روایت قتادہ نے سعید بن مسیب سے نقل کی ہے اور گزشتہ صفحات پر نقل ہوئی، وہ بھی مندرجہ بالا حدیث کے مضمون کی تائید کرتی ہے۔ الجامع اللطیف میں مرقوم ہے کہ :

”عبدالمطلب کا نام شیخہ الحمد تھا۔ عا مر بھی کہا گیا ہے۔ شیخہ الحمد ان کو

اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ کی کنیت آپ کے بیٹے حارث کی وجہ

سے ابو حارث تھی۔ عبدالمطلب آپ کو اس وجہ سے کہا گیا کہ جب

آپ کے والد جناب ہاشم جو کہ مکہ میں تھے، پر موت کا وقت قریب آیا تو

انہوں نے اپنے بھائی مطلب سے آپ (عبدالمطلب) کے بارے میں

کہا کہ یشرب میں اپنے عید کو ڈھونڈو۔ جس کے بعد آپ کا نام

عبدالمطلب پڑ گیا۔



یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو آپ کے چچا مطلب، گھوڑے کی پشت پر اپنے ہمراہ سوار کر کے مکہ لائے، جب لوگوں نے آپ کے چچا سے آپ کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے، ان کی بوسیدہ اور ڈولیدہ حالی سے شرم کے سبب، بجائے اپنا ہتھیار بتلانے کے، اپنا عہد یعنی غلام بتلایا، لیکن جب مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ دوبارہ شائستہ حالت میں آئے تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عہد نہیں جھوٹا ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا رنگ گندمی تھا لہذا جب آپ اپنے چچا کے ہمراہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کے آئے تو لوگوں نے آپ کو آپ کے رنگ کی وجہ سے غلام سمجھا، اور کہا کہ مطلب اپنے عہد (غلام) کے ہمراہ آیا ہے۔ جس کے بعد یہ نام ہمیشہ کے لئے آپ سے مخصوص ہو گیا۔” (تمام ہواکھام الجامع اللطیف)

### حضرت مہدی اولاد ابو طالب سے ہیں

عقد الدرر فصل سوم باب چہارم میں سیف بن عمر سے روایت نقل ہے کہ انہوں نے کہا :

”ایک دن میں ابو جعفر منصور کے پاس بیٹھا تھا کہ اس نے مجھ سے گفتگو کی ابتداء کرتے ہوئے کہا کہ اے سیف بن عمر! یقیناً آسمان سے ایک منادی آئے گا ابو طالب میں سے ایک شخص کو اس کا نام لے کر ضرور ندا دے گا۔“

میں نے کہا : اے امیر المؤمنین! آپ کے قربان جاؤں، اس حدیث کو آپ روایت کر رہے ہیں؟

جواب دیا : قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود اپنے ان کانوں سے بطور سنا۔

تو میں نے کہا کہ اس سے قبل میں نے کبھی یہ حدیث نہیں سنی۔ جس پر ابو جعفر منصور نے کہا کہ اے سیف! یہ بالکل سچی بات ہے، اور جب واقع ہوگی تو ہم سب سے زیادہ اس نداء کا جواب دینے کے حقدار ہیں۔ اور یہ نداء ہمارے چچا زاد بھائیوں میں سے کسی ایک کی ہوگی۔

میں نے پوچھا : کیا (جناب) فاطمہ کی نسل سے ایک شخص کی نداء؟  
جواب دیا : ہاں اے سیف! اگر میں نے اس حدیث کو ابو جعفر بن محمد بن علی سے سنا ہوتا اور تمام کے تمام اہل زمین مجھ سے اس حدیث کو نقل کرتے۔" (تمام ہوا کلام منصور)

کلام مصنف : عقدا الدرر میں۔ ایہ روایت اسی طرح نقل ہوئی ہے۔

۱۰ کتاب عقدا الدرر کے جس نسخے میں ہم نے دیکھا، اس میں "اگر" کا جواب موجود تھا۔ دراصل روایت کچھ یوں ہے "اگر میں نے اس حدیث کو ابو جعفر محمد بن علی سے سنا ہوتا اور تمام کے تمام اہل زمین مجھ سے اس حدیث کو نقل کرتے۔" تب بھی میں اس کو سنا لیکن وہ ابو جعفر بن محمد بن علی ہے۔ لہذا میں اس حدیث کو ماننا ہوں، شاید مرحوم سید صدر الدین اعلیٰ اللہ مقام کے پاس موجود نسخہ میں حدیث بغیر "اگر" کے جواب کے تھی۔ ہم نے بھی صحت ترجمہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسی طرح ترجمہ کیا ہے۔

بظاہر روایت میں موجود کلمہ ”اگر“ کا جواب کسی نامعلوم سبب کی بناء پر حذف ہو گیا ہے، اور وہ جواب تھا۔ تب بھی میں اس حدیث کو تمہیں نہ بتاتا۔

سبا تک الذہب میں مرقوم ہے کہ :

”ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ ابوطالب کا نام عبدمناف تھا۔“

حاکم ابو عبد اللہ کا کہنا ہے کہ :

”ان کی کنیت ہی ان کا نام تھی۔“

صاحب تذکرہ الامت آپ کے والد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

”ہم نے آپ (حضرت ابوطالب) کا حسب و نسب بتایا نیز یہ بھی بتلایا کہ

آپ حضرت عبدالمطلب کے فرزند ہیں اور جب حضرت عبدالمطلب پر

حالت احتضار طاری ہوئی تو آپ نے رسول اللہ کو، حضرت ابوطالب

کے سپرد کرتے ہوئے آپ سے رسول اللہ کی پرورش اور حفاظت کا عہد

بھی لیا۔

اور اسی بات کی طرف محمد بن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں علماء سے نقل

کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ جن میں ابن عباس، مجاہد، عطاء زہری اور یست

سے دوسرے شامل ہیں لیکن کچھ اسماء کا بھی ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ :

”دو ذرے برس حضرت عبدالمطلب نے وفات پائی، اس وقت رسول

اللہ کی عمر مبارک ۸ برس تھی اور حضرت عبدالمطلب کی ۱۳۰ برس۔

آپ کو حجron کے مقام پر سپرد خاک کیا گیا۔ ام ایمن کا کہنا ہے کہ میں

نے آنحضرت کو حضرت عبدالمطلب کے تابوت کے نیچے چلتے دیکھا اور

آپ گریہ و بکا فرما رہے تھے۔“

ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر ۸۰ برس تھی لیکن ۱۴۰ برس والا قول زیادہ معتبر ہے۔

”مجاہد“ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا :

”بہنی معنک میں ۱۰۰ سے قافہ کی ایک جماعت نے جب رسول اللہ کے قدموں کا مشاہدہ کیا تو حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ اے اباالمنجاہ! اسی کی (رسول اللہ) کی حفاظت کر، کیونکہ ہم نے اس کے قدموں سے زیادہ دوسرا کوئی قدم ہمارے قدموں سے زیادہ مشاہدہ نہیں دیکھا۔ جس پر جناب عبدالمطلب نے حضرت ابوطالب کو مخاطب کیا اور کہا کہ غور سے سنو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔

یقیناً میرے اس فرزند کو ایک عظیم الشان منزلت نصیب ہوگی۔ پھر اسکے بعد حضرت ابوطالب نے نہایت شہ و مد کے ساتھ رسول اللہ کی نصرت اور کفالت پر کمر بستہ باندھ لی اور حضرت ابوطالب، آنحضرتؐ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور ہرگز جدا نہیں کرتے۔ شدید محبت کرتے تھے یہاں تک کہ حضورؐ کو اپنے بچوں پر بھی فوقیت دیتے تھے اور جب بھی استراحت فرماتے، رسول اللہؐ کو اپنے پہلو میں سلاتے اور آپؐ کے ہارے میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ”تم برکت کے نعیم اور خوش بختی کا طلوع ہو۔“

ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے کہ :

”زی المجازی کی طرف حضرت ابوطالب معہ رسول اللہؐ کے نکلے، معاً آنحضرتؐ

۱۔ قافہ : ان لوگوں کو قافہ کہا جاتا ہے جو چہرہ یا جسمانی خدو خال دیکھ کر انسان کے حسب و نسب کا تعین کریں۔

کو تشنگی محسوس ہوئی، آپ (ابوطالب) نے کہا کہ اے بھتیجے تم کو پیاس تو لگی ہے لیکن مجبور ہوں پانی موجود نہیں۔

جب آپ نے یہ کہا تو رسول اللہؐ سواری سے اترے اور اپنی اڑھی زمین پر ماری، اڑھی کا مارنا تھا کہ پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، جس سے آپ نے پیاس بجھائی۔“

سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابوطالب نے آپؐ کی نصرت کی ٹھان لی اور باوجود احسن آپؐ کو دشمنوں سے بچائے رکھا تو قریش وفد کی صورت میں آپ کے پاس (جناب ابوطالب کے پاس) آئے اور کہنے لگے کہ :  
”تمہارے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہم کو بے عقل اور آباؤ اجداد کو گمراہ کہا ہے، پس اب یا تو تم اس کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ایک گھمسان کی لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ۔“

اس مقام پر حضرت ابوطالب نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ :  
”تمہارے منہ میں خاک بچھاؤ، ہرگز اس کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔“

پھر قریش نے کہا کہ :

”عمارہ بن ولید بن مغیرہ ہے قریش کے جوانوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اس کو تم اپنے پاس لے پاؤ گے بنا کر رکھو اور اسکے بدلے اس کو (حضورؐ کو) ہمارے حوالے کر دو، تاکہ ہم اسے (آنحضرتؐ کو) اپنے راستے سے ہٹا دیں ایک جوان دیکھنے اور ایک جوان لیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابوطالب نے فرمایا :

”خدا تمہارے ان بد نما چہروں کو ذلیل و خوار کرے۔ اہانت ہو تم لوگوں پر۔ غضب خدا کا تم لوگوں نے کس قدر پست بات کہی ہے۔ اپنا بیٹا تو مجھے دے رہے ہو تاکہ اس کو تم لوگوں کی خاطر لقمہ تر نکلاؤں اور اپنا جگر گوشہ تم کو دے دوں تاکہ اس کو تمہے تیغ کر دو۔ خدا کی قسم میں کتنا برا شخص ہوں گا اگر اس کام کو انجام دوں۔“

پھر جناب ابو طالب نے فرمایا کہ :

”جاؤ اور اونٹنی کو اسکے دودھ پیتے بچے سے جدا کر کے دیکھو، اگر اونٹنی اس بچے کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف لپکے تو اس صورت میں، میں اپنے بچے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔“

پھر یہ اشعار پڑھے :

”واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم

حتی اوسد فی الشراب رہینا“

خدا کی قسم! یہ لوگ اکٹھے ہو کر بھی تمہارا (حضور) کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہاں تک کہ مجھے مٹی میں دفن کر دیں۔

”فاصدع بامرک ما علیک غضاضة

وابشر وقدرہ۔ بناک منک عیونا“

تم ہرگز اس کام سے نہ روکو اور اسکو کر گزرو، خوش رہو اور اپنے کام کو انجام دے کر ہماری آنکھیں اپنے وجود سے ٹھنڈی کرو۔

”وعرضت دینا لامحاله الہ

من خیر ادیان البریۃ دینا“

تم نے تو ایک ایسا دین پیش کیا ہے جو یقیناً تمام ادیان سے بہتر، احسن اور اکمل ہے۔

”لولا الملامۃ او حذار مسیۃ  
لو جلدننی سمحا بناک ضینا“  
اگر مجھے لوگوں کی ملامت اور طعن و تشنیع کا ڈر نہ ہوتا (کہ لوگ کہیں  
ابوطالب در حقیقت اسلام کی نہیں بلکہ تہتج کی محبت میں دیوانے ہیں)  
تو تم مجھے علی الاعلان اپنا موافق و حامی پاتے اور میں کھلے بندوں اپنے چھے  
ہوئے ایمان کا اعلان کر دیتا۔

اسکے بعد حضرت ابوطالب نے آنحضرت کی عمر کے آٹھویں برس سے نبوت  
کے دسویں برس تک آپؐ کو دشمنوں سے بچائے رکھا اور کوئی گزند نہ پہنچے دی۔  
یہ عرصہ ۳۲ سال کے عرصے پر مشتمل ہے۔

نور الابصار میں حضرت ابوطالب کی وفات یکم ذوالعقدہ ہے، یعنی شعب ابی  
طالب کے خاتمہ کو ۸ ماہ اور ۱۳ روز گزر چکے تھے۔  
المواہب الدنیہ میں مذکور ہے کہ آپ کی عمر ۸ برس تھی۔

کلام مصنف : نیز اسی سال ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی  
بھی رحلت واقع ہوئی۔ یہی وہ سال ہے کہ جس کو آنحضرتؐ نے عام الحزین (غم کا  
سال) کا نام دیا۔

اگر قارئین محترم میں سے کوئی حضرت ابوطالب کے حالات میں بیشتر دلچسپی  
رکھتا ہے تو ہم اس کو تاریخی کتب کے مطالعے کا مشورہ دیں گے۔ مثلاً سیروہ ابن  
ہشام اور تاریخ طبری، اسکے علاوہ وہ کتب جو ماضی قریب میں آپ (جناب

ابوطالب) کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔

خصوصاً ”بغیة الطالب فی احوال ابی طالب“ مولفہ زینب دحلان صاحب فتوحات اسلامیہ اور شیخ الابطاح کہ جو ہمارے ابن عم فاضل محقق سید محمد علی شرف الدین عالمی نے لکھی ہے۔ اور یہ کتاب اس موضوع پر لکھی جانے والے تمام کتب میں سب سے بہترین کاوش ہے۔

### حضرت مہدی آل محمدؑ سے ہیں

صحیح ابوداؤد جلد ۴ صفحہ ۸۷ پر ابوداؤد عبد اللہ بن مسعود سے اور وہ رسول اللہؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ :

”اگر دنیا کی عمر میں بس صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی خداوند تعالیٰ اس دن کو اس قدر طولانی کرے گا۔ یہاں تک کہ میری نسل سے ایک شخص کو ظاہر کرے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اور صحیح ابوداؤد صفحہ ۸۸ پر ابوسعید خدری سے رسول اللہؐ کی حدیث نقل کی ہے جس میں آپؐ نے فرمایا :

”مہدی مجھ سے ہے۔“

نور الابصار صفحہ ۳۳۶ پر ترمذی نے ابوسعید خدری سے رسول اللہؐ کی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے اور ترمذی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ :

”یہ حدیث صحیح اور ثابت شدہ ہے۔“

یہ صاحب نور الابصار کا کہنا ہے کہ اس حدیث کو طبرانی اور طبرانی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی نقل کیا ہے۔



ابن حجر، صواعق کے صفحہ ۹۸ پر رسول اللہ کی حدیث کا ذکر کرتے ہیں جس کو روایاتی اور طبرانی کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔  
آپ نے فرمایا :

”ممدی میری اولاد میں سے ہے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف اللراغبین صفحہ ۱۳۹ پر اسی طرح کی حدیث موجود ہے۔  
نور الابصار صفحہ ۲۳۰ پر ابن شبرویہ سے اور وہ حذیفہ بن الیمان سے اور وہ رسول اللہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔  
ایضاً اسی کتاب کے صفحہ ۲۳۱ پر حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ :

”میں نے رسول اللہ سے پوچھا : یا رسول اللہ! کیا ممدی ہم آل محمد

ہی میں سے ہے یا ہمارے علاوہ کسی اور کی نسل سے؟

تو آپ نے جواب دیا : ہرگز نہیں! بلکہ ہم ہی سے ہے۔“

صاحب مطالب السؤل اسی کتاب میں رقمطراز ہیں کہ :

”کلمہ ”آل“ کی تعریف کے بارے میں لوگوں کے اقوال مختلف ہیں۔

کچھ کا کہنا ہے کہ کسی کی آل، یعنی اس شخص کے گھروالے، بعض نے یہ

رائے دی کہ آل النبی وہ لوگ ہیں کہ جن پر زکواہ حرام ہے لیکن اسکے

بجائے خمس حلال ہے۔

بعض نے اس قول کو اختیار کیا کہ کسی شخص کی آل یعنی جو اس شخص

کے دین اور مسلک پر چلے اور پیروی کرے۔

پس یہ تین نظریے سب سے زیادہ مشہور ہیں۔

اب پہلے نظریے کے حامی اس چیز کے ذریعے استدلال کرتے ہیں جس کو قاضی الامام الحسین بن مسعود بغوی نے اپنی کتاب شرح سننہ الرسول میں رقم کیا ہے اور ایسی احادیث کی تشریح کی ہے کہ جن کی صحت متفق علیہ ہے۔ مذکورہ مصنف نے جس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس کو اپنی سند کا ذکر کرتے ہوئے عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے متصل کیا ہے کہ ابن ابی لیلیٰ نے کہا کہ میں نے کعب بن جرد سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ یا میں تحفہ تمہیں ایسی حدیث سناؤں کہ جو میں نے ختمی مرتبت سے سنی ہے؟

عبد الرحمن نے کہا کہ بالکل سنائے۔ تو پھر کعب نے کہا کہ ہم نے ختمی مرتبت سے پوچھا کہ ہم آپ اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کنو: "اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کماصلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید"

پس آنحضرتؐ نے (اس درود میں) کلمہ "آل" اور "اہل" کی تفسیر و تشریح ایک دوسرے کے ذریعے فرمائی۔ اس طرح تفسیر شدہ اور تفسیر کنندہ لفظ ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں (یعنی آل اور اہل) پس لفظ کو بدلا گیا، لیکن معنی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔۔۔

اس طرح آل النبی، اہل بیت ہیں اور اہل بیت آل النبی۔ اس حساب سے اتفاقاً تو مختلف ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے متحد۔

اسکے علاوہ ایک دوسری حقیقت جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ (عربی زبان)

کے علم اشتقاق کے حوالے سے) کلمہ آل اہل ہی سے لیا گیا ہے۔ اور کلمہ اہل میں موجود ہائے حمزہ میں تبدیل ہو گئی۔ اس امر کی نشاندہی اس وقت ہوتی ہے جب ہم کلمہ آل کی تفسیر بنائیں۔ کیونکہ تصغیر کے وقت آل کی ہاء پلٹ آتی ہے اور آل کا تلفظ ”اہیل“ ہو جاتا ہے۔

جس طرح مشہور قاعدہ ہے کہ کسی کلمہ کے محذوفہ حروف تصغیر اور جمع بناتے وقت لوٹ آتے ہیں۔

”اب کلمہ آل کے معنی کرتے ہوئے جن لوگوں نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے ان کا استدلال وہ روایت ہے کہ جس کو ائمہ حدیث نے اپنی مسانید میں ذکر کیا ہے۔ اور امام مسلم بن حجاج ابوداؤد اور نسائی ان سب نے مذکورہ حدیث کی سند کو اپنی صحیح میں ذکر کرتے ہوئے آخر میں عبدالمطلب بن ربیعہ بن الحارث سے متصل کیا ہے کہ عبدالمطلب کہتے ہیں : میں نے رسول اللہ سے سنا کہ تمام صدقات میل کچیل کی مانند ہیں محمدؐ اور آل محمدؐ میں سے کسی پر حلال نہیں۔

اور دوسرا استدلال اس حدیث کے ذریعے ہے جس کو امام دارالجمرة مالک بن انس اپنی کتاب میں سند کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا : ”صدقہ آل محمدؐ کے لئے حلال نہیں ہے۔“ یہ لوگوں کے اموال کا میل ہے۔

پس رسول اللہؐ نے حرمت صدقات کو اپنی آل کی خصوصیات میں سے قرار دیا۔ لہذا وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے، بنو ہاشم، اور پھر بنو عبدالمطلب ہیں۔ اور جب زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ وہ کون آل

رسول ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا : وہ آل علی، آل جعفر، آل عباس، اور آل عقیل ہیں۔ اور آل کے یہ معنی، پہلے معنی سے ملتے جلتے ہیں۔ اور جس نے کلمہ آل کے معنی کے سلسلے میں تیسرا قول اختیار کیا، تو اس کی دلیل قرآن میں موجود یہ آیت مبارکہ ہے۔

”الآل اللوط انا المنجوا ہم اجمعین“ اس آیت میں موجود کلمہ آل کے بارے میں تمام مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت لوطؑ پر ایمان لانے والے اور آپ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔

اور آل کے بارے میں کئے گئے تمام معانی کے ساتھ ساتھ یہ بات روشن ہو گئی ہے کہ آپ کی آل اور اہل بیت مذکورہ بالا تینوں معانی کی حامل ہے۔ نیز آپ کے دین کے پیرو اور آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں پس یہ بات متفق علیہ ہے کہ کلمہ آل کا اطلاق ان لوگوں پر حقیقاً ہے۔ (مجازاً نہیں) (تمام ہوا کلام آل کی تفسیر میں)

### ممدی عترت رسولؐ سے ہیں

ابوداؤد اپنی کتاب صحیح جلد ۳ صفحہ ۷۸ پر جناب ام المومنین ام سلمہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ : ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ :

”ممدی میری عترت میں سے ہے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف الرغیبین صفحہ ۱۳ پر نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی سے اسی طرح

روایت نقل ہوئی ہے نیز ان کے علاوہ دوسروں نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے۔

ابن حجر، صواعق کے صفحہ ۹۸ پر رقمطراز ہیں کہ ابو نعیم نے رسول اللہ سے روایت کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ :

”خدا ضرور میری عترت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا پھر آگے چل کر فرمایا : وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف الراغبین صفحہ ۱۳۹ پر ایسی ہی حدیث نقل ہے :  
 ایضاً اسعاف الراغبین صفحہ ۹۷ پر مرقوم ہے کہ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے رسول اللہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا :  
 ”اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن ہی کیوں باقی نہ رہ گیا ہو تب بھی خدا میری عترت سے ایک شخص کو ضرور ظاہر کرے گا۔“

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ :  
 ”میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا کہ جو دنیا کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح ظلم سے بھر چکی ہوگی۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف الراغبین صفحہ ۱۳۸ پر بھی ایسی ہی حدیث موجود ہے۔

مطالب السؤل میں مرقوم ہے کہ :  
 ”عترت، عشیرے اور خاندان کو کہتے ہیں ایک اور معنی کے مطابق ’عترت‘ ذریت کو کہتے ہیں۔“

بہر حال عترت کے دونوں معنی (مذکورہ بالا) ائمہ میں پاسے جاتے ہیں۔  
 کیونکہ یہی لوگ آپ کی عترت بھی ہیں اور ذریت بھی۔ اب وہی بات عیشیرے  
 کی تو وہ خاندان اور نزدیکی قرابت و ازوں کو کہا جاتا ہے مگر جس کا مصداق بدوچہ  
 ائمہ ہی ہیں۔ اور جہاں تک ذریت کا سوال ہے تو کسی انسان کی بیٹی کی  
 اولاد اسکی ذریت میں سے ہی کہلائے گی۔ اس معنی پر قرآن مجید کی وہ آیت جو  
 حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، دلائل کرتی  
 ہے :

”ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف  
 و موسیٰ و ہارون و کنذک نجری المحسنین و  
 زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من  
 الصالحین“

اور ان ہی (ابراہیم) کی اولاد سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ،  
 ہارون، (سب کی ہم نے ہدایت کی) اور نیکو کاروں کو ہم ایسا ہی صلہ  
 عطا کرتے ہیں۔ (سورہ انعام - ۸۶-۸۵)

اب اس آیت مبارکہ میں خداوند تعالیٰ نے مذکورہ انبیاء علیہم السلام، من  
 جملہ حضرت عیسیٰ کو بھی حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے قرار دیا۔ جب کہ  
 حضرت عیسیٰ فقط اپنی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہا السلام کی چائپ سے حضرت  
 ابراہیم سے متصل ہیں۔

۱۔ تمام لوگوں کی نسبت، ختمی مرتبت کے سب سے زیادہ نزدیکی قرابت دار ائمہ  
 اثناعشری ہیں۔

اور یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ شعبی امام حسن اور امام حسین علیہم السلام سے مودت رکھتے تھے اور جب دونوں کا ذکر کرتے تو کہتے کہ یہ دونوں فرزند رسول اللہؐ اور انکی ذریت سے ہیں۔ یہ بات حجاج بن یوسف کے کانوں تک بھی پہنچی اور شعبی کے اس فعل کی اس کو کثرت سے اطلاع ملی کہ ان کا یہ فعل مسلسل جاری ہے۔ جس کی وجہ سے حجاج نہایت غضبناک ہوا اور اس نے ایک دن شعبی کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اس موقع پر بصرہ اور کوفہ کے علماء اور قاریان بھی موجود تھے۔ جب شعبی دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، اس موقع پر حجاج نے خندہ پیشانی سے استقبال کرنا تو درکنار سلام کا جواب تک نہ دیا۔ جب شعبی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو حجاج نے کہا کہ : اے شعبی! یہ تمہارا کیا کام ہے؟ جس کی مجھے اطلاع دی گئی ہے ایسا کام کہ جو تمہارے جنم و ندادانی کی گواہی دیتا ہے۔ شعبی نے کہا اے امیر! وہ کون سا فعل ہے؟

حجاج نے کہا : کیا تمہیں نہیں معلوم کہ انسان کا فرزند وہ ہوتا ہے جو اس کے نسب و نسل سے ہو؟ اور نسب و نسل صرف باپ سے چلتی ہے۔ یہ کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم علی کے دونوں بیٹوں کو رسولؐ کا فرزند اور ان کی ذریت گردانتے ہو۔ آیا ان دونوں کا رسولؐ سے اتصال ان کی ماں فاطمہؑ (جو رسولؐ کی بیٹی تھیں) کے علاوہ بھی کسی سے ہوتا ہے؟ جب کہ نسب بیٹیوں سے نہیں صرف بیٹوں سے چلتا ہے۔

یہ سن کر شعبی نے چند لمحوں کے لئے اپنا سر جھکا لیا۔ ادھر حجاج تھا کہ اس کی تھکن گرج اور چنچنا چلانا بڑھتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ گویا درباریوں کے کان پھٹنے لگے۔ لیکن شعبی پھر بھی خاموش بیٹھ رہے۔ شعبی کی اس حرکت نے حجاج

کو اور غیث دلا یا اور اس نے ان کو اور زیادہ لعنت طامت کرنا شروع کر دی۔  
 کہ معاشی کی آواز بلند ہوئی اور کہنے لگے : اے امیر! تمہارے کلام کو  
 میں ہو ہوا اس شخص کے کلام کی طرح پاتا ہوں جو کتاب خدا کے بارے میں جاہل  
 و نادان اور سنت رسولؐ سے کوسوں دور ہے۔ یہ غمنا تھا کہ تجاج آپ سے باہر ہو  
 گیا اور کہنے لگا کہ مجھ جیسے شخص کے لئے یہ بات کہہ رہے ہو! وائے ہوا تم پر  
 ----- شعبی نے جواب دیا : ہاں بالکل (اور دربار میں موجود قاریان شمر کی  
 طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) یہ قاریان شمر ہیں، حاملان کتاب اللہ اور یہ لوگ  
 جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔

آیا پروردگار عالم نے اپنے تمام بندوں کو یا نبی آدم کہہ کر مخاطب نہیں اور یا  
 بنی اسرائیل نہیں کہا؟ اور کیا حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد رب العزت  
 یہ نہیں کہ ”اور اسکی ذریت میں سے“ یہاں تک کہ حضرت یحییٰ اور حضرت  
 عیسیٰ کا اتصال آدم سے، عیسیٰ کا اتصال اسرائیل سے، عیسیٰ کا اتصال ابراہیم  
 خلیل اللہ سے کس باپ یا باپ کے اجداد کے ذریعے پاتے ہو؟ عیسیٰ کا یہ اتصال  
 صرف ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریمؑ کے توسط سے ہے۔ اسکے علاوہ رسول اللہؐ  
 کی معتبر حدیث نقل ہوئی ہے کہ آپ نے جناب امام حسن کے بارے میں فرمایا  
 : میرا یہ فرزند سیدو آقا ہے۔

اب جو تجاج نے یہ سنا تو مارے خفت اور شرم کے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ اور  
 پھر شعبی سے نرم لہجہ اختیار کیا۔ تجاج کی یہ حالت تھی کہ مارے شرم کے  
 حاضرین مجلس سے آنکھیں نہ ملا سکتا تھا۔

اب مندرجہ بالا امور کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی واضح ہو چلی ہے کہ



عسرت طاہرہ ہی رسول اللہؐ کی ذریت ہیں، نیز آپؐ کی اولاد اور آپؐ کا خاندان بھی۔

خلاصہ یہ کہ ذریت کے تمام معانی کا مصداق، عسرت طاہرہ ہی ہے۔“ (تمام ہوا کلام مطالب الرسول)

### ممدی اہل بیت سے ہیں

صحیح ابوداؤد، جلد ۴ صفحہ ۸ پر حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا :

”اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن ہی باقی رہ گیا ہو تب بھی خداوند تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

صحیح ترمذی جلد ۲ صفحہ ۷۷ پر ابو ہریرہ سے نقل ہے کہ آپؐ نے فرمایا :  
 ”اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن ہی باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اس قدر طولانی کرے گا۔ یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص تمام دنیا کا نظم و نسق سنبھال لے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)  
 ترمذی نے کہا ہے کہ مذکورہ بالا حدیث حسن اور صحیح ہے۔

ابن حجر نے صواعق صفحہ ۷۹ پر ’اسعاف الراغبین صفحہ ۳۸ پر ابوداؤد اور ترمذی سے رسول اللہؐ کی ایسی ہی حدیث کو جزوی اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔

جلد ہدی الاسلام تیسرے سال کے پچیسویں شمارہ میں مذکور ہے کہ ابن ماجہ

اپنی سند کے ذکر کے ساتھ حضرت غنی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا :

”ممدی میرے اہل بیت میں سے ہے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف الرانغبین صفحہ ۱۳۵ اور ابن حجر صفحہ ۹۷ پر رات نظر اڑ ہیں کہ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، رسول اللہؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا :

”اگر دنیا کی عمر میں ایک دن باقی رہ گیا ہو تب بھی خداوند تعالیٰ اس دن میری عترت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا۔“  
ایک روایت میں بجائے عترت کے اہل بیت ہے۔

ابن حجر، صواعق کے صفحہ ۹۷ پر اور صاحب اسعاف الرانغبین صفحہ ۱۳۶ پر نقل کرتے ہیں کہ احمد، ابو داؤد، اور ترمذی نے رسول اللہؐ سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا :

”دنیا اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص تمام امور کا مالک نہ ہو جائے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

نور الابصار صفحہ ۳۳۸ پر مرقوم ہے کہ ابو داؤد نے ذر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا :

”دنیا اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تمام عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ وہ دنیا کو عدل سے بھروے گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضا اسی کتاب کے صفحہ ۳۳۵ پر مذکور ہے کہ ابو دؤد نے حضرت علیؑ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا :

”اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن ہی باقی رہ گیا ہو تب بھی باری تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔“

مطالب السؤل میں ’اہل بیت کے معنی کے تشریح کے ذیل میں مرقوم ہے کہ :

”ایک قول یہ ہے کہ اہل بیت یعنی جو ایک نزدیک ترین جد سے نسبت رکھتے ہوں (یعنی منسوب ہوں)۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایک جد کے رحم سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایک اور نظریہ کے مطابق ’اہل بیت یعنی جو ایک جد کے ذریعے آپس میں منسلک ہوں چاہے تعلق نسب کے ذریعے ہو یا سبب (مثلاً رضاعت نکاح وغیرہ) سے۔“

اور یہ تمام کے تمام معانی ائمہ علیہم السلام میں پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب اپنے نسب کے لحاظ سے حضرت عبدالمطلب سے جاملتے ہیں اور حضرت عبدالمطلب کے ذریعے ایک رحم میں سے ہیں۔ اور آپ ہی کے توسط سے ایک خاندانی رشتے میں منسلک ہیں۔ چاہے یہ خاندانی رشتہ نسبت ہو یا سبب۔ پس ائمہ ہی حقیقی معنوں میں اہل بیت ہیں۔ اسکے علاوہ آل اور اہل بیت ایک دوسرے کے ہم معنی و مساوی ہیں۔

اب چاہے ان دونوں کے معنی ایک ہوں جیسا کہ پہلی تفسیر میں تھا یا مختلف ہوں جس طرح دوسری تفسیر تھی۔ بہر کیف یہ بات ثابت ہے ائمہ علیہم السلام

تمام معنی کا مصداق ہیں۔

مسلم اپنی کتاب صحیح میں مع ذکر سند زید بن حسان سے نقل کرتے ہیں کہ :

”میں (زید بن حسان) حصین بن میرہ اور عمر بن مسلم کے ہمراہ زید بن ارقم کے پاس گیا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو حصین نے کہا کہ اے زید (ابن ارقم) تم نے تو بہت سی نیکیاں کمائی ہیں، تم نے رسول اللہ کی زیارت کی، ان کی احادیث کو سنا، ان کی رکاب میں جنگ کی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، یقیناً تم نے ڈھیروں نیکیاں کمائی ہیں، اے زید! ہم کو بھی وہ باتیں بتاؤ تم نے جو رسول اللہ سے سنی ہیں۔ پھر زید گویا ہوئے کہ اے میرے بھتیجے! میرا سن بہت ہو گیا ہے اور میرا زمانہ قدیم، جو باتیں میں نے رسول اللہ سے سنی تھیں اب ان میں سے کچھ بھول چکا ہوں۔ لہذا اب جو میں تم کو بتاؤں تو اس کو مان لینا اور جو نہ بتاؤں تو اس کے لئے مجھے مجبور نہ کرنا۔

پھر زید گویا ہوئے کہ :

ایک دن رسول اللہ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کے ذخیرے کے پاس جس کو ”حما“ کہا جاتا ہے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے نہ اکی حمد و ثنا کی اور وعظ و نصیحت فرمائی پھر کچھ سوپنے کے بعد فرمایا :  
 ”اما بعد، ایہا الناس!“ میں ایک بشر ہوں کہ عنقریب میرے پاس میرے پروردگار کا فرستادہ آئے گا، اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں گا۔ میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک

خدا کی کتاب کہ جس میں ہدایت اور نور ہے۔ پس کتاب کو تھامے رکھو اور اس سے متمسک رہو۔ اور رسول اللہؐ نے قرآن مجید کے بارے میں اشتیاق اور ترغیب دلائی پھر فرمایا : دوسرے میرے اہل بیت تمہیں اپنے اہل بیت کی یاد دہانی کروا رہا ہوں، میرے اہل بیت کے معاملے میں ہمیشہ خدا کو نظر میں رکھنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں ہمیشہ خدا کو نظر میں رکھنا“

تب حصین نے پوچھا کہ اے زید (ابن ارقم) یہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ کیا آپ کی ازواج اہل بیت نہیں ہیں؟ زید نے جواب دیا، نہیں آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر رسول اللہؐ کے بعد صدقہ حرام ہے۔“  
(تمام ہوا کلام مطالب السؤل)

### مہدی ذوی القربی سے ہیں

اب جب کہ آپ نے جان لیا کہ جناب مہدی مختصر علیہ افضل الصلوٰۃ و السلام آل محمدؑ، عزت طاہرہ اور اہل بیت سے ہیں نیز نسل حضرت فاطمہ و علی و حسین علیہم السلام سے ہونا بھی ثابت ہو چکا ہے تو اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ (مہدی) ان ذوی القربی۔ امیں سے ہیں کہ جن کی مودت و محبت تمام لوگوں پر فرض کی گئی ہے۔

بیانج المودہ صفحہ ۱۰۶ پر، بخاری اور مسلم سے منقول ہے کہ ابن عباس نے جب آیہ ذوی القربی کے بارے میں پوچھا تو سعید بن جبین نے جواب دیا کہ یہ قرابی آل محمدؑ ہیں۔

صاحب مطالب السنول نے امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی کی تفسیر سے رسول اللہؐ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ جس کی سند کو امام ابو الحسن نے ابن عباس سے متصل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب آیہ : ”قل لا اسئلكم علیہ اجر الا المودة فی القربی“ ((اے رسول) تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قراہتداروں (اہل بیت) کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔) نازل ہوئی تو ہم نے رسول اللہؐ سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی مودت کا خدا ہمیں حکم دیتا ہے؟ آپؐ نے جواب دیا : ”علیؑ، فاطمہؑ اور ان دونوں کی اولاد (اور ان سے وجود میں آنے والے آئندہ نسلیں)

نیز محکم کبیر طبرانی سے ابن ابو حاتم اپنی تفسیر میں، حاکم اپنی کتاب المناقب میں، واحدی اپنی کتاب الوسیط میں، ابو نعیم حلیہ الاولیاء میں، مٹعلی اپنی تفسیر میں، اور حموی نے فرائد المسلمین میں مذکورہ بالا روایت سے ملتی جلتی روایت کو نقل کیا ہے۔

ابن حجر نے صواعق صفحہ ۱۰۱ پر امام زین العابدینؑ سے روایت کی ہے کہ جب آپؑ کو آپؐ کے والد حضرت حسینؑ کی شہادت کے بعد قیدی بنا کر لایا گیا اور دمشق کے دروازہ پر کھڑا کر دیا گیا تا اہل شام کے کچھ اہل ستم کہنے لگے کہ اس خدا کا شکر جس نے تم کو قتل کیا اور تمہاری جزیں اکھاڑ پھینکیں، فتنے و فساد کو فروکش کیا۔ اس پر جناب زین العابدینؑ نے فرمایا کہ :

”کیا تم نے آیہ ”قل لا اسئلكم علیہ اجر الا المودة فی القربی“ انہیں پڑھی تو اس نے پوچھا کہ کیا تم ہی ذوی القربی سے ہو آپؑ نے جواب دیا بالکل۔“ (تمام ہوا کلام صواعق)

کتاب مطالب السؤل میں مرقوم ہے کہ :

”جان لو! کہ سورہ شوریٰ - آیت ۳۳ میں مذکورہ صاحبان مودت واجبہ ہی ذوی القربیٰ ہیں۔ اب جو بھی قرابت (ذوی القربیٰ) کے وصف سے متصف ہو گا، آئیہ کر رہ میں موجود ”مودت“ اسی کا حق قرار پائے گی۔ کیونکہ حکم تو اپنے سبب اور علت کی پیروی کرتا ہے۔ جہاں جہاں حکم کا سبب اور منشاء موجود ہو گا، اس اس جگہ حکم ثابت ہوتا چلا جائے گا۔

اگرچہ ان تمام ذوی القربیٰ (یعنی قرابت داروں) میں مودت کا سبب اور منشاء مشترک ہے۔ اسی بناء پر ان تمام ہی مودت بھی واجب ہے۔ لیکن پھر بھی اس مودت کے درجات مختلف ہیں۔ جس کی بھی قرابت رسول اللہؐ سے زیادہ نزدیک اور مستحکم ہوگی اس کا حق مودت و محبت بھی سب سے زیادہ ہو گا۔

مزید برآں علماء کا اس امر پر اجماع بھی ہے کہ ولادت کا درجہ اور رتبہ، دیگر تمام قرابت داروں کے رتبے اور درجے سے زیادہ نزدیک اور مستحکم ہے۔

یہاں تک کہ علماء نے اپنی علمی تصانیف اور وقت نظر سے بھرپور تحقیقات میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً زید کے نزدیک ترین رشتہ دار کے لئے کوئی چیز وقف کرے یا کسی چیز کی وصیت کرے اور زید کا باپ زندہ نہ ہو جو اس وصیت یا وقف کا حقدار یا مصداق قرار پائے۔

۱۔ مودت کا سبب و منشاء : یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے مودت و محبت واجب قرار دی گئی اور وہ قرابت داری اور ذوی القربیٰ ہونا ہے۔

تو مذکورہ صورت میں زید کی اولاد کو تمام عزیز و اقارب پر ترجیح اور فوقیت حاصل ہوگی۔

لیکن اگر اس کا باپ زندہ ہو تو کیا باپ کو زید کی اولاد پر ترجیح دی جائے گی؟ یا اسکے باپ اور اولاد کے ساتھ 'وصیت اور وقف میں مساوات برقرار رکھی جائے گی؟ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔

اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرابت اور سودت کے معاملے میں جناب فاطمہ کا رتبہ سب سے اعلیٰ و بلند ہے۔

اب جبکہ مقرر شدہ قوانین اور طے شدہ قواعد کے تحت یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جناب فاطمہ کا مرتبہ کتنا بلند اور عالی شان ہے۔ نیز آپ (فاطمہ) ہی کے توسط سے ائمہ علیہم السلام کو ایک عظیم الشان منقبت اور اعلیٰ رتبہ حاصل ہوا ہے۔ جس کے نتیجے میں آپ اور ائمہ علیہم السلام کے تمام حقوق کی ادائیگی اور اظہار عقیدت کرنا لازم اور ضروری امر ہے۔ یعنی وہ تمام ایام کہ جو مختلف مناسبتوں سے پیش آتے ہیں، چاہے ولادت کے مبارک ایام ہوں یا شہادت کے سو گوار دن۔" (تمام ہوا کام مطالب السؤل)

### مہدی ذریرت سے ہیں

بیانج المودۃ صفحہ ۳۳۴ پر ذخائر العقبیٰ سے اور اس میں صاحب الفردوس سے اور وہ جابر بن عبد اللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا :

"خداوند عزوجل نے ہر نبی کی ذریرت کو اسکے صلب میں قرار دیا اور میری



ذریعت کو علی بن ابی طالب کے صلب میں۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

کلام مصنف : مذکورہ حدیث نہایت صراحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہم السلام کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ کے رحم مبارک سے ہو، وہی ذریعت رسول اللہ کا مصداق ہیں۔ چاہے وہ امام حسن کی اولاد ہو یا امام حسین کی۔ اور جناب مدنی مختصر مگد سے اہل بیت رسول کا پر مکہ پھول اور مشکلم ترین ستون ہیں۔ یعنی آپ (حضرت مدنی) ذریعت رسول اکرم سے ہیں۔ نیز ذریعت کے معنی کڑو شدہ صفحات میں بیان کئے جا چکے ہیں۔

تحت العقول میں حضرت موسیٰ بن جعفر علیہما السلام کی ہارون کے ساتھ ایک طویل حدیث کے ذیل میں گفتگو نقل ہوئی ہے جس میں سے ہم صرف مورد نظر حصے کا اقتباس ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔

”جناب موسیٰ بن جعفر علیہما السلام ہارون کے دربار میں داخل ہوئے جبکہ وہ (ہارون) دل ہی دل میں آپ کی گرفتاری کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کا سبب وہ ناروا باتیں تھیں جو ہارون کے خلاف کہی گئی تھیں اور اسکا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا گیا تھا۔ جب آپ دربار میں داخل ہوئے تو اس نے طویل دستاویز نکالی جس میں مختلف ناروا باتیں اور ہارون کے خلاف طعن و تشنیع درج تھا۔ اور ان تمام کو امام علیہ السلام کے شیعوں سے نسبت دی گئی تھی۔

آپ نے ان صفحات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہارون کو مخاطب کیا اور فرمایا : اے امیر! ہم اہل بیت اس معصیت میں مبتلا ہوئے کہ ہم سے

نازبا اور ناروا باتوں کو منسوب کیا گیا جب کہ خداوند تعالیٰ نے جو گناہوں کا بخشنے والا اور عیبوں کا پردہ پوش ہے، اس بات کو ہرگز نہ چاہا کہ بندوں کے رازوں سے پردہ اٹھائے، بجز اس دن کہ جب وہ اپنے بندوں کا محاسبہ کرے گا، وہ دن کہ جب مال و اولاد کچھ کام نہ آئے گا سوائے اسکے جو ہار گاہ رب العزت میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو۔

پھر آپؐ نے فرمایا : میں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے جناب علیؑ علیہ السلام سے اور انہوں نے رسول اللہؐ سے سنا کہ آپؐ نے فرمایا : جب عزیز و اقارب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اضطراب کے بعد آرام و سکون پاتے ہیں، پس اگر امیر (بارون) مجھے اپنے عزیز و اقارب میں شمار کرتے ہیں تو انہیں اور مجھ سے مصافحہ کریں۔ یہ سنتا تھا کہ بارون اپنے تخت سے اٹھا اور اپنا دایاں ہاتھ آپؐ کی طرف بڑھایا جس کو آپؐ نے اپنے دائیں ہاتھ میں تھاما، پھر بارون نے آپؐ کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگایا، آپؐ سے معافیہ کیا اور پھر اپنے دائیں جانب بٹھایا اور کہا کہ : میں شہادت دیتا ہوں کہ آپؐ سچے، آپؐ کے والد سچے اور آپؐ کے نانا رسول اللہؐ سچے ہیں۔ یقیناً جب آپؐ یہاں آئے تو تمام لوگوں کی نسبت آپؐ کے لئے میرے دل میں سب سے زیادہ بغض و کینہ تھا۔ لیکن جب آپؐ نے یہ تمام باتیں کیں اور مجھ سے مصافحہ کیا تو میرا سارا غصہ فروکش ہو گیا اور میں بجائے اسکے کی آپؐ پر ٹھہناک ہوتا، آپؐ سے مسرور ہوا، پھر یہ کہہ کر بارون نے چند لمحوں کے لئے سکوت اختیار کیا۔ پھر کہا کہ میں آپؐ سے

(جناب) عباس (بن عبدالمطلب) اور (حضرت) علی کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ علی کس طرح رسولؐ کی میراث کے سلسلے میں رسول کے چچا عباس سے افضل واولیٰ ہیں؟ جبکہ رسول اکرمؐ کے والد اور جناب عباس ایک ہی ماں اور باپ سے تھے اور آپس میں ٹکے بھائی تھے۔

اس کے جواب میں جناب موسیٰ بن جعفرؑ نے فرمایا کہ مجھے اس کے جواب سے معاف ہی رکھو۔ ہارون نے کہا بخدا جب تک جواب نہ دیں گے جانے نہ دوں گا۔

پھر امامؑ نے فرمایا : اگر معاف نہیں رکھ سکتے تو مجھے امان دو۔ اس نے کہا امان دی۔ پھر آپؑ نے فرمایا :

آنحضرتؐ نے اس کو میراث کا حقدار نہ بنایا جس نے ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہ کی۔ تمہارے والد عباس ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہ کی۔ لیکن علی ایمان بھی لائے اور مساجدین کی صف میں بھی شامل ہوئے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ : ”الذین آمنوا ولم یہاجرُوا وَاَمَالَکُمْ مِنْ وَلَا تَبِہُمْ مِنْ شَیْ حَسْبِیْ یٰہَاجِرُوا“ اور جن لوگوں نے ایمان تو قبول کیا اور ہجرت نہیں کی تو تم لوگوں کو ان کی سرپرستی سے کچھ سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت اختیار کریں۔ (سورہ الانفال - آیت ۷۲)

یہ سننا تھا کہ ہارون کا منہ فق ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ یہ تم لوگوں کا نرانا طریقہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے والد علی کے بجائے رسول اکرمؐ سے

منسوب کرتے ہو کہ جو تمہارے نانا ہیں۔ اس کے جواب میں امام نے فرمایا : پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کو ابراہیم خلیل اللہ کی طرف ان کی عقیقت اور پاکدامن ماں حضرت مریم کے توہم سے منسوب کیا ہے کہ بن کو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ ا۔ فرمایا کہ : ”ومن ذریئہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف موسیٰ و ہارون و کنانک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین“ (سورہ الانعام آیت ۸۵-۸۶)

جس طرح خدا نے مذکورہ آیت میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ان کے آباؤ اجداد کے ذریعے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے منسوب کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم کو، حضرت ابراہیم سے صرف اور صرف ان کی پاکدامن و عقیقت ماں حضرت مریم کے ذریعے منسوب کیا۔ تاکہ حضرت عیسیٰ کی فضیلت اور اس عظیم الشان منزلت کی نشاندہی کی جائے جو ان کو انکی والدہ ماجدہ کی بدولت حاصل ہوئی جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت مریم کے قصے کے ذیل میں مذکور ہے کہ :

”ان اللہ اصطفک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین“

۱۔ کتاب کے متن میں حضرت مریم کا لقب بکر اور بتول ہے جس کا ترجمہ عقیقت اور پاکدامن کیا گیا ہے اور یہ عین ترجمہ نہیں بلکہ ترجمہ کے نازی معنی ہیں۔

(اے مریم) تم کو خدا نے برگزیدہ کیا (تمام گناہ اور برائیوں سے) پاک و صاف رکھا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا۔ (سورہ آل عمران - آیت ۴۲)

اسی طرح ہمارے پروردگار نے جناب فاطمہؑ کو برگزیدہ کیا اور پاک و طاہر بنا کر تمام عالمین کی خواتین پر جو انان جنت کے سردار، حسن و حسین کے ذریعے فضیلت دی۔

### مہدی اولادِ علیؑ سے ہیں

بیانج المودۃ صفحہ ۴۳۹ پر مناقب خوارزمی سے مسند (مع سند کے) اور خوارزمی ثابت بن وینار سے وہ سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا :

”علیؑ میرے بعد میری امت کا امام ہو گا اور اسی کی نسل سے قائم ملتظر ہے، وہی کہ جو اپنے ظہور کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہو گی۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

عقد الدرر باب اول صفحہ ۲۴ پر سنن ابی داؤد سے اور ترمذی اپنی جامع میں نسائی اپنی سنن میں اور ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ :

”علیؑ نے اپنے فرزند حسینؑ پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ جس طرح رسول اللہؐ نے اسکے متعلق کہا، یقیناً اسی طرح یہ آقا و مولا ہے اور عنقریب اسکی نسل میں سے ایک شخص کی ولادت ہو گی کہ جس کا نام تمہارے نبی

کے نام سے مشابہ ہو گا۔ (ہم نام) بجائے صورت کے 'سیرت میں رسول اللہؐ کی شبیہ ہو گا۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔"

عقد الدرر کے باب دوم صفحہ ۲۳ پر پہنچنے کے بعد و نشور (مجاد و قیامت) کے ذیل میں یہی حدیث نقل کی ہے جس میں آپ کی آنحضرتؐ سے سیرت میں شبابت کا ذکر کیا گیا ہے۔

ایضاً باب سوم صفحہ ۲۳ ہی میں ابوداؤد اہل سے نقل ہے کہ حضرت علیؑ نے امام حسینؑ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ :

"میرا یہ فرزند سید و آقا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا، اسی کی نسل سے عنقریب ایک شخص پیدا ہو گا کہ جس کا نام تمہارے رسولؐ کے نام سے مشابہ ہو گا، اس وقت خروج کرے گا جب لوگ خواب غفلت میں ہوں گے، حق مردہ اور ظلم و ستم کا دور دورہ ہو گا۔ اہل آسمان اور اس پر رہنے والے اسکے خروج پر خوشحال ہونگے۔ اس کی پیشانی روشن، کشادہ ناک ستواں، شکم عریض اور رانیں طویل ہونگی۔ نیز دائیں رخسار پر تل اور دانتوں کے درمیان۔ افاصلہ ہو گا۔ زمین کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔"

---

۱۔ آٹے کے اوپری دانتوں کے درمیان۔ کیونکہ عربی متن میں ثایا ہے کہ جو ان دانتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

## مہدی اولادِ قاطمہ سے ہیں

ابوداؤد اپنی کتاب صحیح کی جلد ۳ صفحہ ۸۷ پر جناب ام سلمہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ فرماتی ہیں : میں نے رسول اللہؐ کو کہتے سنا کہ :

”مہدی میری عنقریب اور قاطمہؓ کی اولاد سے ہوگا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ابن حجر صواعق کے صفحہ ۹ پر اور اسعاف الراغبین کے صفحہ ۱۳ پر مرقوم ہے کہ : مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور بیہقی نے بھی اسی طرح کی روایت کا ذکر کیا ہے۔

ینابیع المودۃ صفحہ ۲۳۰ پر کتاب مشکوٰۃ المصابیح سے اور وہ ابوداؤد سے اور وہ جناب ام سلمہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ فرماتی ہیں : میں نے رسول اللہؐ کو کہتے سنا کہ :

”مہدی میری عنقریب اور اولادِ قاطمہ میں سے ہے۔“

ینابیع المودۃ صفحہ ۲۲۳ پر مذکور ہے کہ علی بن ہلال اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہؐ کی خدمت میں آپؐ کے آخری وقت حاضر ہوا، تو حضرت فاطمہؓ کو آپؐ کے قریب بیٹھے مگر یہ کہتے ہوئے پایا۔

”آپؐ نے پوچھا کہ اے میری بیٹی! تمہارے گریہ کا کیا سبب ہے؟ تو جناب فاطمہؓ نے جواب دیا کہ آپؐ کے بعد آپؐ کی جمع پونجی کے لئے اور محتوں کے اکارت ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ اے میری جگر گوشہ! خداوند تعالیٰ نے ایک مرتبہ اہل زمین کی جانب نظر کی

اور ان میں سے تمہارے باپ کو منتخب و برگزیدہ کیا اور رسالت دے کر  
مبعوث فرمایا۔

دوسری مرتبہ جب اہل زمین کی طرف نظر کی تو ان میں سے تمہارے  
شوہر کو برگزیدہ کیا اور مجھ پر وحی کی کہ میں تمہارا نکاح اسکے ساتھ  
کروں۔ اے فاطمہ! ہم اہل بیت کو خداوند تعالیٰ نے ایسی سات صفات  
عطا کی ہیں جو ہم سے قبل کسی کو عطا ہوئیں نہ ہی ہمارے بعد کسی کو  
نصیب ہوگی۔

میں خاتم الانبیاء ہوں، خدا کے نزدیک تمام انبیاء میں سب سے زیادہ  
قابل احترام یعنی تمہارے والد۔

میرا وصی، خیرالاصیاء اور تمام اوصیاء میں خدا کے نزدیک سب سے  
زیادہ محبوب، یعنی تمہارا شوہر، ہمارا شہید، شہداء میں سب سے افضل  
اور خدا کی بارگاہ میں تمام شہداء سے زیادہ محبوب یعنی حمزہ جو تمہارے  
والد اور شوہر کے چچا ہیں۔

اور ہم ہی میں سے ہے کہ جو یروں کی مدد سے بہشت میں فرشتوں کے  
ہمراہ، جہاں چاہے پرواز کرتا ہے۔ یعنی تمہارے والد کا چچا زاد اور  
تمہارے شوہر کا بھائی، اور ہم ہی میں سے اس امت کے دو نواسے یعنی  
تمہارے بیٹے حسن و حسین ہیں، جو سردارِ جوانانِ جنت ہیں۔ قسم ہے  
اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا کہ مہدی تمہاری نسل سے ہی  
ہے۔ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و  
ستم سے بھر چکی ہوگی۔“



صاحب ینابیح المودۃ کا کہنا ہے کہ اس حدیث کو ابو العطاء ہمدانی نے الاحادیث الاربعین فی المہدی میں بھی نقل کیا ہے۔ (تمام ہواکلام ینابیح المودۃ)  
 ینابیح المودۃ صفحہ ۲۳۳ پر طبرانی سے خود انکی کتاب الاوسط سے اور وہ صحابی  
 بن ربیع سے اور وہ ابویوب انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے  
 حضرت فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا :

”خیر الانبیاء ہم ہی میں سے ہے یعنی تمہارے والد۔ خیر الادیاء ہم ہی  
 سے ہے یعنی تمہارا شوہر۔ اور شہداء میں بہترین شہید ہم ہی سے ہے  
 یعنی تمہارے والد کے چچا حمزہ۔ اور ہم ہی میں سے وہ ہے کہ جو جنت  
 میں اپنے دوپروں کی مدد سے جہاں چاہتا ہے پرواز کرتا ہے یعنی تمہارے  
 والد کے عم زاد جعفر۔ ہم ہی میں سے اس امت کے دونو اسے ہیں جو  
 سردار جو انان جنت ہیں یعنی تمہارے دو فرزند حسن و حسین۔ اور ہم  
 ہی میں سے مہدی ہے جو تمہاری نسل سے ہے۔“

ینابیح المودۃ صفحہ ۲۹۰ پر ابو المنظر معانی کی کتاب فضائل الصحابہ سے اور وہ  
 ابوسعید خدری سے حدیث نقل کرتے ہیں جس میں حضرت فاطمہ کا اپنے والد  
 گرامی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا اور آنحضرت کا مذکورہ باتوں کو ذکر کرنا  
 شامل ہے۔ یہ حدیث مذکورہ بالا حدیث کے مضمون سے ملتی جلتی ہے۔

کام مصنف : جیسا کہ آپ نے مقدمہ کتاب میں ملاحظہ کیا کہ امام  
 مہدی کے رسول اللہ کی ذریت سے ہونے کے سلسلے میں احادیث مستفیضہ بلکہ  
 متواترہ موجود ہیں۔ تاہم جتنی احادیث ہم نے مذکورہ موضوع کے بارے میں نقل  
 کی ہیں وہی کافی ہیں۔

## ممدی اولادِ سبطین سے ہیں

کتاب عقد الدرر، فصل سوم باب نہم صفحہ ۷۲۱ میں حافظ ابو نعیم اصفہانی کی کتاب صفت الممدی سے اور وہ علی بن ہلال سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ :

”میں رسول اللہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ کا آخری وقت تھا، جناب فاطمہؑ آپ کے پاس بیٹھی گریہ کر رہی تھیں، ان جملوں کے بعد ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس کے آخر میں یہ نقل ہے کہ پھر رسول اللہؐ نے فرمایا : اے فاطمہؑ تم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بالحق نبی بنا کر بھیجا، اس امت کا ممدی ان دونوں، یعنی حسن و حسین کی نسل سے ہے۔ جب دنیا میں اتری کا دور دورہ ہو گا، فتنہ و فساد پھیل چکا ہو گا، امید کے تمام راستے منقطع ہو چکے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہو گا، پھر نہ بڑے چھوٹوں پر رحم کھائیں گے نہ چھوٹے بڑوں کی تعظیم کریں گے ایسے حالات میں خدا اس شخص کو ظاہر کرے گا جو گمراہی کے قلعوں کو تمس نہس کرے گا، اور مرگے دلوں کو تسخیر۔ وہ شخص اس کام کا بیڑا آخری زمانے میں اس طرح اٹھائے گا جس طرح میں نے اس کام کو اگلے زمانے میں انجام دیا۔ دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہو گی۔“

سبطین : ۲ نواسے حسین علیہم السلام

کلام مصنف : سہمی نے مذکورہ بالا حدیث کو کتاب البیان میں ابو نعیم اصفہانی کی کتاب نعت المہدی سے اور ابو قاسم طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر سے نقل کیا ہے۔

اس کے علاوہ اس حدیث کو حفاظ کی کثیر تعداد نے اپنے کتب میں الفاظ کے جزوی اختلاف سے نقل کیا ہے۔ اور بعض احادیث کے نسخوں میں بجائے "ان دونوں کی نسل سے مہدی" لکھا ہے کہ اس امت کا مہدی ہم ہی سے ہے۔

ینایع المودۃ صفحہ ۴۳۲ پر جو اہل العقیدین سے منقول ہے کہ :

"رسول اکرمؐ نے جو دعا حضرت علیؑ و فاطمہؑ کے نکاح کے موقع پر مانگی تھی اس کی برکات امام حسنؑ اور امام حسینؑ کی نسل کی صورت میں ظاہر ہوئیں اب جو گزر گیا اور جو بعد میں آئے گا، ان ہی کی نسل سے گردانا جائے گا، آئندہ نسلوں میں صرف اور صرف امام مہدی ہی آئیں تب بھی دعا کی برکت کے ثبوت ہونے کے لئے کافی ہے۔"

(تمام ہوا کلام ینایع)

کلام مصنف : اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ آپؐ صادق و امین ہیں۔ پھر

۱۔ یعنی جناب حسینؑ علیہما السلام کی نسل سے جو شخص زمانے میں تھا اور گزر گیا اور جو زمان حال یا مستقبل میں آئے گا، سب کے سب آپؐ دونوں ہی نسل سے مانے جائیں گے۔ معیار آپؐ دونوں کی نسل سے ہونا ہے چاہے کسی بھی زمانے میں ہو۔ اور اگر فرض کر لیں کہ آپؐ دونوں کی اولاد اور نسل امام مہدی کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں رکھتا، تب بھی امام مہدی کا وجود اتنا ہرکت ہے کہ دعا کا مصداق قرار پاسکتا ہے۔

بھی گزشتہ سطور میں نقل شدہ روایت میں آپؐ کا یہ فرمانا کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بالحق نبی بنا کر بھیجا“ تو یہ قسم کھانا صرف تاکید بیان کے لئے ہے۔ (وگرنہ آنحضرتؐ کا اپنے کلام کی سچائی کے لئے قسم کھانا، حاشا وکلا)

یہ بات بھی واضح رہے کہ ان سات صفات میں سے صرف حضرت مدی کے ہارے میں آپؐ کا قسم کھانا، اس امر کی اہمیت اور عظمت کو (کما حقہ) اجاگر کرتا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ آپؐ ”امام حسن و حسین علیہما السلام کی اولاد سے ہیں“ تو یہ اس طرح ہے کہ امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور امام زین العابدین کی زوجہ جناب فاطمہ بنت حسن بن علی تھیں۔ انہی مندرجہ اور عقیقہ خاتون کے ہارے میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدیقہ (راست گو) ہیں۔ لہذا امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام، امام حسن و حسین دونوں کی اولاد سے ہیں۔ اور پھر امام باقر علیہ السلام اور آپؐ کی اولاد سب کو حسین علیہما السلام کی نسل سے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور جناب مدی منتظر اسی شجرہ مبارکہ سے ہیں۔ کیونکہ آپؐ کا نسب اس طرح ہے کہ آپؐ :

”محمد بن الحسن ابن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد الباقر بن علی بن حسین بن امیر المومنین علی بن ابیطالب (سلام اللہ علیہم اجمعین) ہیں۔“

اور یہی وہ نسب ہے کہ جو خورشید تباہاں اور مردرختاں کی مانند منور ہے۔

## مہدی اولادِ امام حسینؑ سے ہیں

عقد الہدٰی در باب اول میں حافظ ابو نعیم کی کتاب صفۃ المہدی سے اور وہ حنیفہ  
 یمانی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے ایک دن ہمارے سامنے خطبہ ارشاد  
 فرمایا جس میں قیامت تک کے رونما ہونے والے واقعات کو بیان کیا پھر  
 فرمایا :

”اگر دنیا کی زندگی میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی خداوند  
 تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کرے گا۔ یہاں تک کہ خدا میری اولاد میں  
 سے ایک شخص کو ظاہر کرے اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔“  
 اس مقام پر جناب سلمان فارسیؓ نے کھڑے ہو کر آپؐ سے سوال کیا کہ :  
 ”یا رسول اللہؐ! آپؐ کے کون سے فرزند سے ہوگا؟“  
 آپؐ نے امام حسینؑ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا : ”اس فرزند کی نسل  
 سے۔“

بیانج المودۃ صفحہ ۴۹ پر صاحب کتاب رقمطراز ہیں کہ شرح نہج البلاغہ  
 (گویا اشارہ شرح ابن ابی الحدید کی طرف ہے) میں ’نیز قاضی القضاہ کافی اکنافہ  
 ابو القاسم اسماعیل بن عباد سے روایت کرتے ہیں کہ جنہوں نے سند کو حضرت علی  
 علیہ السلام سے متصل کیا ہے کہ : حضرت علیؑ نے امام مہدیؑ کا ذکر کیا اور  
 فرمایا کہ :

”مہدی حنینؑ کی نسل سے ہوگا۔“

کلام مصنف : مذکورہ مسئلہ پر روایات مستفیضہ موجود ہیں اور اسی پر ہم

فرقہ شیعہ امامیہ کا اجماع بھی ہے۔

نیز برادران اہل سنت کے اکثر و بیشتر علماء کا بھی یہی نظریہ ہے۔ (یعنی امام مہدیؑ امام حسینؑ کی اولاد سے ہیں)۔ البتہ نہایت ہی قلیل تعداد ہے جو مذکورہ امر کو قبول نہیں کرتی۔

ابوداؤد اپنی کتاب صحیح جلد ۴ صفحہ ۸۹ پر ابو اسحق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے امام حسنؑ پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ :

”میرا یہ فرزند سیدو آقا ہے، بالکل اسی طرح، جس طرح رسول اللہؐ نے فرمایا اور عنقریب اسکی نسل سے ایک شخص خروج کرے گا جس کا نام تمہارے بنی کے نام کی طرح ہو گا (ہم نام) بجائے صورت کے، سیرت میں تمہارے نبی سے مشابہہ ہو گا۔ زمین کو عدل سے بھروسے گا۔“  
(حدیث ملاحظہ کریں)

اور مذکورہ بالا روایت کو نظر میں رکھتے ہوئے بعض علمائے اہل سنت نے یہ گمان کیا کہ جناب مہدیؑ مختصر امام حسنؑ مجتبیٰؑ کی اولاد سے ہیں۔

انہی میں سے ایک جناب ابن حجر ہیں کہ جنہوں نے صواعق میں یہی بات کہی ہے۔ ابن حجر صواعق کے صفحہ ۹۹ پر رقم ہیں کہ :

”ابوداؤد نے اپنی سنن میں روایت کی ہے کہ حضرت مہدیؑ امام حسنؑ کی نسل سے ہیں۔ اور یہی وہ راز ہے کہ جس کے سبب امام حسنؑ خدا کی خوشنودی اور امت سے محبت و شفقت کی بنا پر خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ جس کے نتیجے میں خداوند تعالیٰ نے آپ کی نسل سے قائم کو خلیفہ قرار دیا، اس وقت کہ جب خلافت کی شدید ضرورت ہو گی (یعنی امام

سہدی کے نسور کے وقت خلافت الہی کی اشد ضرورت ہوگی۔) تاکہ آپ (سہدی) نہیں کو عدل سے بھر دے اور آپ (سہدی) کے امام حسینؑ کی نسل سے ہونے والی روایت قطعاً بے بنیاد ہے۔ (تمام ہوا کلام صواعق)

کلام مصنف : علم اصول فقہ میں ثابت شدہ قوانین و قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ بالا روایت پر اعتماد و استناد صحیح نہیں۔ دلائل پیش خدمت ہیں۔

اول : ابو داؤد سے منقول روایت میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ عقد الدرر میں جو روایت ابو داؤد سے نقل کی گئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں :  
 ”علیؑ نے اپنے فرزند حسینؑ کی طرف نگاہ ڈالی۔“ (ز کہ حسنؑ کی طرف)

دوم : حفاظ کرام کی ایک جماعت مثلاً ترمذی، نسائی، بیہقی اور صاحب عقد الدرر نے مذکورہ روایت کو ہو نقل کیا ہے جس میں مذکورہ ہے کہ :  
 ”علیؑ نے اپنے فرزند حسینؑ کی طرف نگاہ ڈالی۔“

سوم : امکان تصحیف : کلمہ ”حسن اور حسین“ کتابت میں ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں اور ان دونوں ناموں میں مغالطہ کا امکان بہت زیادہ ہے۔ خصوصاً خط کوفی میں (کیونکہ مذکورہ خط میں نقطے نہیں لگائے جاتے۔)

چہارم : مذکورہ بالا روایت کا مضمون بیشتر علمائے اہل سنت کی رائے کے مخالف ہے۔ حتیٰ بعض علماء کی تو تصریح کے خلاف ہے۔ (کیونکہ بعض علماء نے تصریح کی ہے کہ آپ امام حسینؑ کی نسل سے ہیں)

پنجم : مذکورہ بالا روایت ان متعدد روایات سے متضاد ہے کہ جن کی سند صحیح اور دلالت واضح ہے۔ نیز ان متعدد روایات میں سے بعض کا ذکر ہو چکا ہے اور بقدر روایات کا آئندہ صفحات میں (انشاء اللہ تعالیٰ) ذکر کیا جائے گا۔

ششم : اس روایت کا جعلی اور من گھڑت ہونا بھی خارج از امکان نہیں اور بہت ممکن ہے کہ درہم دینار کی جھٹکار نے اس روایت کو گھڑا ہوا تاکہ محمد بن عبد اللہ مشہور بانفس ذکیہ کا تقرب حاصل کیا جاسکے۔

مہدیؑ امام حسینؑ کی نویں پشت سے ہیں

بیانج المودۃ صفحہ ۳۹۲ پر خوارزم کے نامی گرامی خطیب موفق بن احمد خوارزمی کی کتاب المناقب سے اور وہ سلیم بن قیس ہلالی سے اور وہ سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ کو اس شان سے پایا کہ جناب حسینؑ آپؐ کی ران پر بیٹھے تھے اور آنحضرتؐ مسلسل امام حسینؑ کی آنکھوں اور دہن کو چومتے ہوئے فرماتے تھے کہ :

”تم آقا و سید ابن سید ہو۔ سید و آقا کے بھائی ہو۔ امام ابن امام ہو۔ امام کے بھائی ہو۔ حجت خدا کے فرزند ہو۔ نیز خود بھی حجت خدا ہو۔ تمہاری نسل سے ہی خدا کی نو جہتیں ہیں جن میں نواں قائم (آل محمد) ہے۔“

عقد الدرر میں بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے۔

بیانج المودۃ صفحہ ۲۸۸ پر کتاب مودۃ القربی فی المودۃ العاشرہ سے اور وہ سلیم بن قیس ہلالی سے اور وہ سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن



رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا تو امام حسینؑ کو آپ کی ران پر بیٹھا پایا۔ آپ مسلسل امام حسینؑ کی آنکھوں اور دہن کا بوسہ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ: ”تم سید ابن سید ہو۔ امام ابن امام ہو۔ تم حجت خدا نیز تمہارے والد بھی حجت خدا ہیں۔ خدا کی توجہیں تمہاری نسل سے ہی ہیں کہ جن میں نویں حجت قائم ہے۔“

اس کے علاوہ اور بھی ان گنت احادیث ہیں جو قارئین کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

کلام مصنف : ہمارے خیال میں ملت اسلامیہ کا کوئی ایسا فرد نہ ہو گا جو ان نو افراد کے بارے میں لاعلم ہو اور ان حضرات کو نام یا نام نہ جانتا ہو۔ اس کے باوجود ہم ان شخصیات کے اسماء کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ برکت کا باعث اور یاد دہانی کا سبب قرار پائے۔

پس سب سے پہلے (ان نو افراد میں) ابوالحسن علی زین العابدینؑ دوسرے ان کے فرزند ابو جعفر محمد باقرؑ تیسرے ان کے فرزند ابو جعفر الصادقؑ پھر چوتھے ان کے فرزند ابوالحسن موسیٰ کاظمؑ پانچویں ان کے فرزند ابوالحسن علی الرضاؑ چھٹے ان کے فرزند ابو جعفر محمد الجوادؑ ساتویں ان کے فرزند ابوالحسن علی السادیؑ آٹھویں ان کے فرزند ابو محمد حسن عسکریؑ اور نویں ان کے فرزند القائم ابوالقاسم محمد المہدیؑ۔

اور حق تو یہ ہے کہ درج ذیل شعر حضرت مہدی کے لئے کہا جائے کہ :

اولنک آہانسی فجنسی بمثلہم  
اذا جمعنا یا جریر المجمع

یہ ہیں میرے آباؤ اجداد۔ اے جریز! جب مجلسیں ہمیں اکٹھا کریں تو ذرا  
ان کی مثال تو لاؤ۔

اور ان کے اجداد ایسے کیوں نہ ہو، جب کہ وہ درج ذیل شعر کا بدرجہ اتم  
مصدق ہیں کہ :

مطہرون      نقیات      ذیولہم  
تجری الصلاة علیہم انیما ذکرُوا  
”وہ خود) پاک و پاکیزہ اور انکی خواتین طاہر و طیب ہیں، جب بھی ان کا  
ذکر آئے تو ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔“

### حضرت مہدیؑ اولادِ امام صادقؑ سے ہیں

بیانج المودۃ صفحہ ۳۹۹ پر حافظ ابو نعیم اصفہانی کی کتاب اربعین سے نقل  
کرتے ہیں، جس میں ابو نعیم نے امام مہدیؑ منتظر کے بارے میں چالیس احادیث  
نقل کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان احادیث میں وہ احادیث بھی شامل ہیں کہ جن کو مفسر  
قرآن اور علم لغت کے ماہر ابن خثاب نے نقل کیا ہے۔

کہتے ہیں کہ مجھے ابو القاسم طاہر بن ہارون بن موسیٰ الکاظم نے اپنے والد  
ہارون سے اور انہوں نے اپنے جدِ اجد سے نقل کرتے ہوئے بتلایا کہ

: میرے آقا و مولا جعفر بن محمد الصادقؑ نے فرمایا کہ :

”خلف صالح میری ہی اولاد سے ہو گا۔ مہدیؑ کہلائے گا۔ نام محمد اور  
کنیت ابو القاسم ہوگی۔ آخری زمانے میں خروج کرے گا۔ والدہ کا نام  
نرجس ہو گا۔ جہاں جہاں وہ جائے گا اس کے ہمراہ بادل کا ایک ٹکڑا چلے

گا جو سورج کی روشنی کے سامنے سائبان کا کام دے گا اور پھر نہایت واضح اور شستہ زبان میں ندا دی جائے گی کہ : یہی مہدی ہے، پس اس کی پہچانی کرو۔“

اسکے علاوہ اور بھی احادیث ہیں کہ جن کا ذکر انشاء اللہ کیا جائے گا۔  
ابن حجر اصواعق کے صلیحہ ۳۰ پر رقمطراز ہیں کہ :

”محمد بن علی الباقری کی چھ اولادیں تھیں ان میں سب سے افضل اور باکمال جعفر صادقؑ تھے۔ اسی وجہ سے آپ امام باقرؑ کے بعد ان کے نائب اور وصی قرار پائے۔ لوگوں نے آپ سے وہ باتیں نقل کیں کہ جن سے علم و فن کی ترقی ہوئی اور آپ کی شہرت چار دائلہ عالم میں پھیل گئی۔ آپ سے اکابر ائمہ نے روایات بھی نقل کی ہیں۔ جیسے یحییٰ بن سعید ابن جریج، مالک، سفیان بن ابو حنیفہ، شعبہ اور ابوبہرہ سمستانی، اسکے علاوہ اور بھی دوسرے بہت سے نام جو ابن حجر (صاحب صواعق) نے نقل کئے ہیں۔“

امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں ”انا اعطیناک الکوثر“ کی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ کوثر کے بہت سے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ پھر کوثر کے چند ممکنہ معانی کا ذکر کرنے کے بعد تیسرے ممکنہ معنی کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے :

”کوثر سے مراد آپ (آنحضرتؐ) کی اولاد ہے۔ یہ سورہ مبارکہ (کوثر) ان لوگوں کی بات کو رد کرنے کے لئے نازل ہوئی کہ جو آپ پر آپ کے لاولد ہونے کے سبب طنز کیا کرتے تھے۔ پس معنی یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ آپ کو انہی آل و اولاد عطا کرے گا کہ جو حوادث زمانہ کے باوجود ہمیشہ

باقی رہے گی۔ اب یہی بات دیکھ لیجئے کہ اہل بیت میں سے کتنے ہی افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ دنیا میں کثرت سے ہیں۔ لیکن ہذا میہ سے تعلق رکھنے والا ایک بھی قابل ذکر شخص دنیا میں نہیں ملتا۔ اور پھر یہ امر بھی غور طلب ہے کہ اہل بیت میں کس قدر کثرت سے اکابر و جید علماء پائے جاتے ہیں جیسے (محمد) باقر، (جعفر) صادق، (موسیٰ) کاظم، (علی) رضا علیہم السلام اور نفس زکیہ وغیرہ وغیرہ۔" (تمام ہوا کلام فخر رازی)

### مہدیؑ اولادِ امام رضا سے ہیں

بیانج المودۃ صفحہ ۴۴۸ پر فرامد السعیدین سے اور وہ حسن بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ علی بن موسیٰ الرضا نے فرمایا :

"بے تقویٰ انسان کا کوئی دین نہیں اور خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے کہ جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے۔ (یعنی سب سے زیادہ تقویٰ کے ساتھ عمل کرتا ہے۔)

پھر فرمایا :

"میری چوتھی نسل سے ایک فرزند ہو گا کہ جو کینوں کی ملکہ کے بطن سے ہو گا۔ خدا اس کے ذریعے زلزلہ کو ہر ظلم و جور سے پاک کر دے گا۔" (حدیث ملاحظہ کریں)

ایشانج المودۃ صفحہ ۴۸۹ پر حسن بن خالد سے مروی ہے کہ علی بن موسیٰ

الرضا نے فرمایا :

”وقت معلوم وہ دن ہے کہ جب ہمارا قائم خروج کرے گا۔ آپ سے سوال کیا گیا : آپ میں سے کون قائم ہو گا؟ فرمایا : میری چوتھی پشت اور کینروں کی ملکہ کے بطن سے۔ اسی کے وسیلے سے خدا ہر ظلم کو دور اور ہر ستم کو مٹا دے گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً صفحہ ۴۵۴ پر کتاب فرائد السمعین سے اور اس میں احمد بن زیاد سے اور وہ عدیل بن علی الخردی سے نقل ہے کہ میں نے اپنا کہا ہوا قصیدہ اپنے مولا امام علی بن موسیٰ الرضا کی خدمت میں پڑھا جس کا پہلا شعر ہے کہ :

”منارس آیات خلت عن نلاوہ“

”قرآن کے نزول اور درس و تدریس کے مقامات آیات کی تلاوت سے خالی ہیں۔“

یہاں تک کہ اپنے بقیدہ قصیدہ کو پڑھ کر ختم کیا اور جب اس مصرع پر پہنچا کہ :

”خروج امام لا محالة واقع

يقوم علی اسم اللہ والبرکات“

”اس امام کا خروج ہو کر رہے گا کہ جو خدا کے نام کے ساتھ برکتوں کے ہمراہ قیام کرے گا۔“

”یمیز فینا کل حق و باطل

ویجزی علی النعماء والنقمات“

”ہمارے درمیان ہر حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا اور نعت کے ذریعے دوستوں کو جزاء اور عذاب کے ذریعے دشمنوں کو سزا

دے گا۔"

اس مقام پر پہنچنے کے بعد امام رضاؑ نے زار زار گریہ فرمایا اور کہا کہ  
اے دلیل! تمہاری زبان کے ذریعے روح القدس کلام کرتا ہے۔ آیا تم  
جانتے ہو کہ یہ امام کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ: "نہیں، لیکن  
آپ کی نسل سے ایک امام کے خرون کے ہارے میں سنا ضرور ہے جو  
زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔"

پھر امام رضاؑ نے فرمایا کہ:

"میرے بعد میرا بیٹا محمد امام ہے اسکے بعد اس کا فرزند علی پھر اسکے بعد  
اس کا فرزند حسن اور حسن کے بعد اس کا فرزند حجت قائم اور وہی ہے  
کہ جس کو مختصر کہا جاتا ہے۔" (حدیث ملاحظہ کریں)

ابن حجر، صواعق کے صفحہ ۱۲۲ پر رقمطراز ہیں کہ:

"موسیٰ کاظم کی وفات کے وقت لڑکے اور لڑکیوں کو ملا کر ان کی اولاد کی  
تعداد ۳ تھی کہ جس میں علی رضا سب سے زیادہ لائق اور شایان ذکر تھے۔ اسی  
وجہ سے مامون نے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور اپنی بیٹی سے ان کا رشتہ کیا، اپنی  
سلطنت کا شریک قرار دیا اور اپنی خلافت کا امر ان (رضا) کو سونپ دیا۔ اسی  
مامون نے اپنے ہاتھ سے ۶۲۰ میں ایک مکتوب تحریر کیا جس میں لکھا کہ علی رضا  
اس کے ولی عہد ہیں اور ایک بڑی تعداد کو اس امر کا گواہ بھی بنایا۔ لیکن حضرت  
رضا مامون سے پہلے وفات پا گئے جس کا مامون کو بہت افسوس تھا۔" اخذ جناب

۱۰۔ البتہ یہ بات الظہر من الشمس ہے کہ امام رضا کی شہادت مامون کے ایماء پر ہوئی  
تھی۔ "فذهنه الله على فلان من اهل بيته"

علی رضاً نے اپنی وفات سے قبل یہ بات بتلا دی تھی کہ آپ کی وفات زہرا گور اور ایسے انار کو کھا کر ہوگی کہ جس کے دانے الگ کر دیئے گئے ہوں۔  
 اور مامون آپ کو ہارون کی قبر کے پیچھے دفن کرنا چاہے گا مگر نہ کر سکے گا۔  
 اور جس طرح کہ آپ (رضاً) نے یہ سب واقعات بتائے ہو ہو اسی طرح واقع ہوئے۔

اسکے علاوہ آپ کے چاہنے والوں میں سری مقلی کے استاد جناب معروف کرنی تھے کیونکہ یہ امام رضا کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔  
 امام رضا نے ایک شخص سے کہا کہ 'اے عبداللہ! جو خدا چاہتا ہے اس پر راضی ہو جا' اور جس سے کوئی گریز نہیں اس کے لئے تیار ہو جا۔ تین دن بعد یہ شخص مر گیا۔ اس روایت کو حاکم نے نقل کیا ہے۔  
 اور حاکم ہی نے محمد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے ابو حبیب سے نقل کیا ہے کہ ابو حبیب کہتے ہیں :

"میں نے خواب میں رسول اللہ کو اپنے شہر کے اس مقام پر دیکھا کہ جہاں سے حجاج کے قافلے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور دیکھا کہ آپ کے سامنے مدینے کی کھجوروں سے بھری ہوئی ایک سنی ہے جس میں میمانی خرے موجود ہیں۔ ان میں سے آپ نے مجھے اٹھارہ خرے عنایت کئے، اس خواب کی تعبیر میں نے یہ نکالی کہ میں ان خرموں کے تعداد کے برابر زندہ رہوں گا۔ پھر تیس روز بعد امام رضا مدینے سے اس مقام پر تشریف لائے اور اسی مسجد میں جلوہ افروز ہوئے۔ لوگوں کا ایک سیلاب تھا کہ جو آپ کی خدمت میں سلام عرض

کرنے کے لئے آیا تھا۔ میں بھی اسی غرض سے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپؐ بھی بالکل اسی جگہ تشریف فرما ہیں کہ جہاں میں نے خواب میں رسول اللہؐ کو پایا تھا۔ آپؐ کے سامنے بھی انہی صحابی کھجوروں سے بھری ایک سینی موجود تھی۔ میں نے سلام کیا آپؐ نے قریب بلایا اور مٹھی بھر خرے عطا کئے۔ اب جو گئے تو ان کی تعداد خواب میں رسول اللہؐ کے عطا کردہ خرموں کے برابر پائی۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور خرے عطا کیجئے تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہؐ نے کچھ اور عطا کئے ہوتے تو ہم بھی کچھ اور دے دیتے۔ اور جب آپؐ نیشاپور میں داخل ہوئے۔ جس طرح کہ تاریخ نیشاپور میں مذکور ہے --- اور وہاں کے بازار سے گزرے تو آپؐ کے اوپر ایک سائبان تھا جس کے سبب آپؐ کو دیکھنا نہ جاسکتا تھا۔ نیز حافظ ابو زرہ و ابو الرازی اور حافظ محمد بن اصلا اللوی اپنے ہمراہ بے شمار طلباء محدثین کو لئے آپؐ کے ہمراہ تھے۔ ان دونوں حفاظ نے آپؐ سے التجاء کی کہ اپنے چہرہ انوار کی زیارت کرائیے اور اپنے اجداد سے کوئی ایک حدیث بھی روایت کیجئے۔ اس التجاء کو سن کر حضرت رضائے اپنی سواری کو ٹھہروایا اور غلاموں کو سائبان ہٹالینے کو کہا۔ یہاں تک کہ اس جم غفیر خلقت کی آنکھیں آپؐ کے جمال سے منور ہوئیں۔۔۔ آپؐ اس شان سے سواری پر تشریف فرما تھے کہ گیسوئے مبارک کی ٹیٹھریں ہنسی کی ہڈی کی سمت آویزاں تھیں۔ اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ کچھ تو آپؐ کی زیارت کے اشتیاق سے جنھیں مار رہے تھے اور کچھ گریہ و زاری کر رہے تھے۔ کچھ



فرط جذبات سے زمین پر تڑپ رہے تھے اور آپؐ کی سواری کے سموں کو چوم رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مفتاح علماء نے ہاتھ آواز بلند لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو! خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپؐ کے ذریعے بیان کی جانے والی حدیث کو لکھنے کے لئے مذکورہ حفاظ تیار ہو گئے۔

پھر امام گویا ہوئے : مجھے میرے والد موسیٰ کاظمؑ نے بتایا اور انہوں نے میرے جد جعفر صادقؑ سے اور انہوں نے میرے جد محمد باقرؑ سے اور انہوں نے میرے جد زین العابدینؑ سے اور انہوں نے اپنے پدھر گرامی حسینؑ سے اور انہوں نے اپنے والد علی بن ابی طالبؑ سے روایت کی کہ آپؐ (حضرت علیؑ) نے فرمایا مجھے میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور رسول اللہؐ نے بتایا اور کہا کہ مجھے جبرئیل نے بتایا اور جبرئیل نے کہا کہ میں نے رب العزت کو یہ کہتے سنا کہ :

”لا اله الا الله حصنی فمن قالها دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی“

”لا اله الا الله“ میرا قلعہ ہے۔ پس جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، میرے عذاب سے امان میں رہا۔

پھر اسکے بعد آپؐ نے پردہ دوبارہ گرایا اور سواری کو منے کر آگے بڑھ گئے۔ اور جب اہل قلم و روایات کو (کہ جو وہاں پر حدیث کو لکھنے کے لئے موجود تھے) گنا گیا تو ان کی تعداد میں ہزار نکلی۔

ایک دوسری روایت کے مطابق آپؐ کی روایت کردہ حدیث یہ تھی۔

”الایمان معرفہ بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالا  
رکان“

”ایمان قلب کے ذریعے شناخت، زبان سے اقرار اور اعضاء کے  
ذریعے عمل کا نام ہے۔“

اور ہو سکتا ہے کہ دونوں حدیثیں امامؑ نے ہی روایت کی ہوں۔ احمد کا  
کہنا ہے کہ : اگر میں فقط اس حدیث کی سند ہی کا ذکر کسی دیوانے کے  
سامنے کر دوں تو وہ اپنی دیوانگی میں افاقہ پا جائے۔ (تمام ہوا کلام حاکم)

### مہدی امام حسن عسکریؑ کے فرزند ہیں

ان تمام روایات کی جانچ پڑتال کے بعد جو آپ قارئین کی خدمت میں  
پیش کی گئیں، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو ان روایات کے اس مطلب و معنی میں  
کسی قسم کا شک و شبہ ہو گا کہ حضرت مہدی عظیم حضرت امام حسن عسکریؑ کے  
فرزند ہیں لیکن پھر بھی ہم مذکورہ عنوان (امام مہدیؑ) امام حسن عسکریؑ کے  
فرزند کے ذیل میں گزشتہ مطالب کو بطور خلاصہ بیان کریں گے۔

نیز مذکورہ عنوان کے بارے میں اکابرین اور جید علماء کی تصریحات کا بھی ذکر  
کریں گے۔

جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا کہ کچھ روایات ہیں جنکے مطابق آپ (مہدیؑ)  
امام حسینؑ کی نویں اور امام رضاؑ کی چوتھی پشت سے ہیں۔ وہی روایات مذکورہ  
عنوان (امام مہدیؑ) امام عسکریؑ کے فرزند ہیں) پر بھی دلالت کرتی ہیں۔  
خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث کہ جو فرزند المسلمین سے نقل ہوئی

ہے اور جس میں آپؐ نے دلیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا محمد الجوادؑ ہوگا اور اس کے بعد اس کا بیٹا علی المہادیؑ پھر اسکے بعد اس کا بیٹا الحسن عسکریؑ پھر اسکے بعد اس کا بیٹا محمد المجتہد المہدی المنتظرؑ امام ہوگا۔ (تمام ہوا کلام فرامد)

اور اس امر پر وہ احادیث بھی دلالت کرتی ہیں کہ جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ مہدی منتظرؑ خلفاء اوصیاء اور ائمہ اثنا عشر میں بارہویں ہیں۔  
 بیابح المودۃ صفحہ ۲۱۹ پر حافظ ابو نعیم کی کتاب اربعین سے اور وہ ابن خثاب سے نقل کرتے ہیں کہ صدقہ بن موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے امام علی رضا سے نقل کرتے ہوئے بتایا کہ آپؑ (علی رضا) نے فرمایا :

”خلف صالح حسن بن علی عسکری کی اولاد سے ہے اور وہی صاحب الزمان اور مہدی ہے۔“ (تمام ہوا کلام ابن خثاب)

اسعاف الراغبین صفحہ ۱۳۳ پر شیخ عبد الوہاب کی کتاب البیوات و لجواہر سے اور وہ فتوحات مکیہ سے نقل کرتے ہیں کہ مذکورہ کتاب میں مرقوم ہے کہ :

”یہ جان لو کہ مہدی علیہ السلام کا خروج یقیناً ہو کر رہے گا لیکن آپؑ اس وقت تک خروج نہ کریں گے جب تک کہ زمین ظلم و جور سے نہ بھر جائے۔ پھر آپؑ اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ آپؑ رسول اکرمؐ کی عمرت اور جناب فاطمہ زہراؑ کی اولاد سے ہیں آپؑ کے جد حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام اور والد امام حسن عسکری ابن امام علی النقی ابن امام محمد تقی ابن امام علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم ابن امام

جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن امام علی ابن ابی طالب علیہم السلام ہیں۔ آپ رسول کریم کے ہم نام ہیں اور (آپ کے ظہور کے وقت) تمام مسلمین رکن و مقام کے درمیان آپ کی بیعت کریں گے۔“ (تمام ہوا کلام فتوحات مکیہ)

کلام مصنف : اس ارزش مند اور با قیمت عبارت کو ہمارے اور اہل سنت کے بہت سے علماء نے الیوقیت و الجواہر سے اور انہوں نے فتوحات مکیہ سے نقل کیا ہے۔ لیکن (فتوحات مکیہ یا الیوقیت کی) آخری طباعت میں اس عبارت کو ہم نہ پاسکے۔ (توجہ فرمائیے)

ینایع المودۃ صفحہ ۴۵۱ پر کتاب فصل الخطاب سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں مذکور ہے :

”اور ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ابو محمد حسن عسکریؑ بھی ہیں پھر چند سطور بعد لکھتے ہیں کہ : امام حسن عسکریؑ نے اپنے بعد صرف اور صرف ایک اولاد چھوڑی کہ جن کا نام ابو القاسم محمد مختصر ہے اور جس کو

۱۔ مصنف کا یہ جملہ کہنا اور بعد میں توجہ فرمائیے کا لکھنا، مذکورہ کتاب میں تحریف کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو دین اسلام و قرآن اور سنت رسولؐ سے نااہلہ افراد کے ذریعے انجام پائی۔ یا وہ افراد کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو دین اسلام کی اصلی تعلیمات سے محروم کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔

قائم، حجت، مہدی، صاحب الزمان، قائم ائمہ اثنا عشر (فرقہ امامیہ کی نظر میں) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔“

کلام مصنف : ہمارے خیال میں یہ جملہ (فرقہ امامیہ کی نظر میں) صرف ائمہ اثنا عشر سے مراد ہے۔

یہاں بیابح المودۃ صفحہ ۴۷۰ مذکور ہے کہ : جناب عبدالوہاب شعرانی اپنی کتاب الیواقیت والجوہر کے باب ۶۵ میں راقم ہیں کہ مہدی، امام حسن عسکریؑ کی اولاد سے ہیں۔ (تمام ہواکلام شعرانی)

یہاں بیابح المودۃ صفحہ ۴۷۱ پر کمال الدین ابوسالم محمد بن طلحہ بن محمد بن الحسن الحلیمی الشافعی کی کتاب مطالب السوال فی مناقب آل رسولؐ اور انہی کی الدرر المنظم سے نقل ہے کہ :

”مہدی حضرت ابو محمد حسن عسکری کے فرزند ہیں۔“

ایضاً یہاں بیابح صفحہ ۴۷۱ پر کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان سے تمام ابواب کے آخر میں نقل ہے کہ :

”مہدی، حسن عسکری کے فرزند ہیں۔“ (تمام ہواکلام البیان)

ایضاً اسی کتاب صفحہ ۴۷۱ پر الفصول المحمہ فی المعروفۃ الائمۃ سے منقول ہے کہ :

”مہدی موعود، ابو محمد حسن عسکری بن علی النقی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔“

صاحب کتاب الدرر الموسویہ لکھتے ہیں کہ :

”جن علماء کو ہم نے حضرت مہدی علیہ السلام پر عقیدے کے سلسلے میں

اپنا موافق و ہم خیال پایا ان میں محمد بن طلحہ شافعی کی کتاب مطالب  
السؤال، سبط ابن جوزی کی کتاب تذکرہ الائمہ، شعرانی کی کتاب  
الیواقیت و الجواہر شامل ہیں۔“  
پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ :

”حضرت مہدی، امام حسن عسکریؑ کی اولاد ہیں اور شبہ نمرہ شعبان  
۲۵۵ھ قمری میں متولد ہوئے۔ آپ (بمکرم خدا) زندہ رہیں گے۔ یہاں  
تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام آپ کے ساتھ آئیں۔“  
اور مذکورہ بالا روایت کو کتاب الیواقیت اور اللبقات میں شیخ حسن عراقی  
سے نقل کیا گیا ہے کہ جو مصر میں کرم الریش سے اوپر کی طرف برک  
رطل کے سامنے مدفون ہیں۔ نیز اس تفصیلی حکایت کے مطابق، جو شیخ  
حسن عراقی کے حالات زندگی میں، اللبقات میں نقل ہوئی ہے آپ  
(حضرت عیسیٰ) حضرت مہدیؑ سے ملاقات کریں گے۔

اسکے علاوہ جناب علی الخواص سے مذکورہ امر کی تائید بھی نقل ہے۔ نیز شیخ  
محمزم جناب محی الدین کی کتاب الفتوحات المکیہ کے باب ۳۶۶ میں  
بھی اس روایت کی تائید موجود ہے۔

اور اسی روایت کی شعرانی نے، انہی سے، اپنی کتاب لواقع الانوار  
القدسیہ المنتقاۃ من الفتوحات المکیہ میں اور صابئی مصری  
نے اسعاف الراغبین میں حکایت کی ہے۔ نیز الیواقیت و الجواہر اور  
اسعاف الراغبین نے تو یہ ہوا ان کے الفاظ کو نقل کیا ہے۔ یہ دونوں

کتابیں مصر میں مطبوعہ ہیں۔ اسکے علاوہ اسعاف الراغبین، کتاب نور الابصار کے حاشیہ پر بھی طبع ہوئی ہے۔

اور قدوزی حنفی نے اپنی کتاب ینایح المودۃ میں، صلاح الدین صفدی کی شرح الدائرہ سے حکایت کرتے ہوئے ہو ہوان کے الفاظ کو نقل کیا ہے اور شیخ ماکی علی بن محمد نے اپنی الفصول المسمیہ میں لکھا ہے کہ: حضرت مہدی موعود، حضرت ابو محمد حسن عسکری، ابن علی نقی کے فرزند ہیں۔ نیز مذکورہ بالا افراد کے علاوہ اس بات کو شیخ حموی نے شافعی نے اپنی کتاب فرائد السعین میں بھی تحریر کیا ہے۔ (تمام ہوا کلام الدرر الموسویہ)



حضرت مہدیؑ کی صفات و محاسن

---

---



اس فصل میں ہم یہ واضح کریں گے کہ حضرت مہدی منتظر کی شخصیت معلوم اور تعین شدہ ہے۔ نیز آپ کی ممتاز صفات، خلقی و تعلق، کمالات ظاہری و روحانی اور ملکات قدسیہ کو بھی بیان کریں گے۔

### حضرت مہدی کی صفات

صحیح ابوداؤد جلد ۴ صفحہ ۸۸ پر ابو سعید خدری سے خود ابوداؤد رسول اللہ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

”مہدی مجھ سے ہے۔ اس کی پیشانی کشادہ و روشن اور ناک ستواں ہے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ابن حجر، صواعق کے صفحہ ۷۹ پر ابو نعیم اصفہانی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا :

”خدا میری عترت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جسکے ثنایاں کے درمیان فاصلہ ہو گا“ پیشانی کشادہ ہوگی۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

۱۔ ثنایا : اوپر کے دو دانت جو سامنے ہوتے ہیں۔

اسکے علاوہ اسعاف الرغبین صفحہ ۱۲ پر ابو نعیم نے رسول کریمؐ سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

ایضا صفحہ ۹۸ پر مذکورہ ہے کہ رویانی، طبرانی اور ان کے علاوہ بھی کچھ محدثین نے رسول اللہؐ سے حدیث نقل کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا :

”مدی بیوی اولاد سے ہے اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح نورانی، رنگ گندی اور جسم درزنی ہے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف الرغبین صفحہ ۱۲ پر اسی طرح کی حدیث منقول ہے۔

صاحب اسعاف الرغبین صفحہ ۱۲ پر ابو نعیم کی کتاب حلیہ الاولیاء سے نقل کرتے ہیں کہ :

”حضرت مدی کا سن، جوانوں کا، آنکھیں سرگلیں، بھنویں ملی ہوئی، ناک ستواں اور داڑھی تھنی ہے، داہنے رخسار پر تل اور داہنے ہاتھ پر۔۔۔۔“ (سلسلہ حدیث جاری ہے)

ایضا نور الابصار صفحہ ۳۴۶ پر تحریر ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی نے ابو سعید خدری سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اکرمؐ کو یہ فرماتے سنا :

”مدی مجھ سے ہے، پیشانی کشادہ و روشن اور ناک ستواں ہے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضا نور الابصار صفحہ ۳۴۶ پر ابن شریب سے اور وہ حذیفہ بن الیمان سے رسول اکرمؐ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا :

”مدی میرا فرزند ہے اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند نورانی“

رنگ گندی اور جسم درز شمی ہے 'طویل قامت ہے۔' (حدیث ملاحظہ کریں)

کتاب عقد الدرر باب سوم صفحہ ۳۸ پر حضرت علی علیہ السلام سے امام مہدی کے حلقے کے بارے میں منقول ہے کہ :

"وہ ایک مرد ہے جس کی پیشانی کشادہ و روشن 'ناک ستواں اور رائیں طویل ہیں۔ نیز دائیں رخسار پر تل اور ٹٹایا کے درمیان فاصلہ ہے۔" (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضا اسی باب میں صفحہ ۴۱ پر امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب امیرالمومنین سے جب حضرت مہدی کے حلقے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا :

"اس کا سن جوانوں کا سا، قد و قامت متناسب، چہرہ حسین ہے۔ آپ کی زلفیں جنگلی کی سمت آویزاں ہیں۔ چہرے کا نور اور شادابی واڑھی گیسوؤں کی سیاہی پر غالب آئی ہوئی ہے۔"

### حضرت مہدی کا اخلاق

ابن حجر صواعق کے صفحہ ۹۸ پر ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو روایاتی طبرانی اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی رسول اکرم سے نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ :

"مہدی میری اولاد سے ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل آسمان و زمین اس کی خلافت پر خوشحال اور راضی ہونگے۔"

اس کے بعد ابن حجر لکھتے ہیں کہ طبرانی نے تو یہ جملہ بھی نقل کیا ہے کہ :

”آپ کی خلافت کے سبب، فضا میں پرواز کرتے پرندے بھی خوشحال ہونگے۔“

نیز اسعاف الراغبین صفحہ ۱۴۸ پر مذکور ہے کہ احمد و ماوردی نے آپ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا :

”بشارت ہو تم لوگوں کو مہدی کی۔ پھر فرمایا : اس سے اہل آسمان و زمین راضی و خوشحال ہونگے، اموال کو مساوات سے تقسیم کرے گا، امت محمدیہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا اور اس کے عدل کے سامنے تمام امت محمدیہ ہوگی۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

عقد الدرر باب ہشتم صفحہ ۲۸ میں طاؤس سے نقل کیا ہے کہ :

”حضرت مہدی کی نشانیاں یہ ہیں کہ آپ اپنے کارندوں اور گناہوں کے اعمال پر کڑی نظر رکھتے ہونگے، مال کی بخشش میں جو دسنا سے کام لیں گے اور مساکین و فقراء پر ترحم روا رکھیں گے۔“

آگے چل کر صاحب عقد الدرر لکھتے ہیں کہ : اس حدیث کو ابو عبد اللہ نعیم بن حماد اپنی کتاب الفتن کے باب نہم فصل سوم صفحہ ۲۷ سے اردو ابو روہ سے نقل کرتے ہیں کہ :

”حضرت مہدی گویا مساکین و فقراء کو اپنے ہاتھ سے چھاپے یا مکھن تک کھلائیں گے۔“

نور الابصار صفحہ ۳۴ پر امام احمد کی کتاب مسند احمد سے اردو ابو سعید

خدری سے رسول اللہ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

”تم کو مہدی کی بشارت دیتا ہوں“ پھر فرمایا : اس سے اہل آسمان و

زمین دونوں راضی و خوشحال ہونگے اور مال و دولت کو بطور صحاح تقسیم

کرے گا، ایک شخص نے پوچھا کہ صحاح کے کیا معنی ہیں؟ جواب دیا کہ

تمام لوگوں میں یکساں اور مساوی تقسیم ہو گا۔ اور امت محمدیہ کے

قلوب کو ایمان کی دولت کے سبب غنی کر دے گا۔ اس کے بعد کاسایہ

تمام لوگوں پر ہو گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً صفحہ ۳۴۶ پر حذیفہ بن الیمان سے اور وہ رسول اکرم سے روایت

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

”مہدی میری اولاد سے ہے“ پھر فرمایا : اہل آسمان و زمین اور فضاء

میں موجود پرندے اس سے راضی و خوشحال ہونگے۔“ (حدیث ملاحظہ

کریں)

### حضرت مہدیؑ کی شبیہ رسول اکرمؐ ہیں

یتایع المودۃ صفحہ ۳۹۳ پر مناقب خوارزمی سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم

کو حضرت محمد بن محمد بن مسرور نے یہ روایت بتائی اور انہوں نے حسین بن محمد عامر

سے سنی اور انہوں نے اپنے چچا عبد اللہ بن عامر سے روایت کی اور انہوں نے

محمد بن ابی عمیر سے اور انہوں نے ابو جمیلہ المفضل بن صالح سے اور انہوں نے

جابر بن یزید سے اور انہوں نے جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت کی کہ ختمی

مرتبہ نے فرمایا :

”مدی میری اولاد سے ہے۔ اس کا نام میرے نام کی طرح اور کنیت میری کنیت کی طرح ہے۔ اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ میرت و صورت میں میری شبیہ ہے۔“

ایضاً بیابج میں ابو بصیر سے مع ذکر سند۔ اور وہ امام صادق سے اور وہ اپنے اجداد یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام سے اور وہ حضرت امیرالمومنینؑ سے اور وہ جناب رسالتہا سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

ایضاً بیابج صفحہ ۳۹۳ پر ائمہ اطہار سے ایسی ہی ایک اور حدیث مع ذکر سند منقول ہے، اس حدیث کو صالح بن عقبہ سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ امام باقر علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد امام سجادؑ سے اور وہ اپنے جد بزرگوار سے اور وہ حضرت امیرالمومنینؑ سے اور وہ جناب ختمی مرتبتؑ سے نقل کرتے ہیں۔

فتوحات مکیہ باب ۳۶۶ پر حضرت مدی کے بارے میں مذکور ہے کہ آپؐ خلق میں رسول اللہؐ کی شبیہ ہیں، لیکن خلق (اخلاق و میرت) میں آپ کے رتبے سے نیچے ہیں۔ کیونکہ کوئی شخص بھی آپ کے اخلاق کا حامل نہیں اور اس امر کی طرف خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا کہ :

”وَأَنْتَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ“

”بے شک تم خلق کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو۔“ (سورہ قلم۔ آیت ۴)

(تمام ہوا کلام فتوحات مکیہ)

کلام مصنف : دو افراد کے درمیان تمام پہلوؤں اور جہات سے سو فیصدی مماثلت و مشابہت معمولاً محال ہے۔

اسی طرح کی مماثلت اور مشابہت اگر کہیں استعمال بھی کی جاتی ہے تو اس

کا مطلب مد نظر اشخاص کی ایک دوسرے سے از حد شبہات رکھنا ہے۔ جس طرح کہ پہلی حدیث میں اس امر کا عندیہ ملتا ہے۔ یعنی تمام لوگوں کی بانسبت آپؐ سے زیادہ رسول اللہؐ کی شبیہ ہیں۔ لہذا اگر ہم تمام لوگوں کے اخلاق و عادات کا رسول اکرمؐ کے اخلاق سے موازنہ کریں اور دوسری طرف حضرت ممدیؑ کے اخلاق کا آنحضرتؐ کے اخلاق سے موازنہ کریں تو شبہات و مماثلت کے اس مقابلے کی بازی بلاشبہ حضرت ممدیؑ ہی جیتیں گے۔ لہذا رسول اکرمؐ کا خلق عظیم پر فائز ہونا نیز حضرت ممدیؑ کا ہو ہو آپؐ کے اخلاق کا مالک نہ ہونا آپس میں ہرگز تضاد نہیں رکھتا۔

### حضرت ممدیؑ کی سیرت

صحیح ابوداؤد ص ۸۸ پر جناب ام سلمہؓ سے اور وہ رسول اللہؐ سے ایک روایت نقل کرتی ہیں کہ جس میں حضرت ممدیؑ کا ذکر ہے۔ نیز (خانہ کعبہ) رکن و مقام کے درمیان لوگوں کا آپؐ کی بیعت کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر آگے چل کر نقل ہے کہ : تمام لوگ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو جائیں گے اور دین اسلام کا بول تمام دنیا میں بالا ہو گا۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ینابیح المودۃ صفحہ ۷۳۳ پر حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام

سے حضرت ممدیؑ کے اوصاف اس طرح منقول ہیں کہ :

”جب لوگ ہدایت کو ہوا ہوس کا تابع بنا دیں گے تو وہ ہوا ہوس کو

ہدایت کا تابع بنائے گا، جب لوگ اپنے ذاتی دنیاوات اور تفسیر بارائی کو

قرآن کا نام دینے لگیں گے تو وہ قرآنی تعلیمات کو ان کے ذاتی افکار اور تفسیر بالرائی سے چھٹکارا دلانے گا۔ پھر بنیاب امیرؓ فرماتے ہیں : وہ تم لوگوں کو عادلانہ راہ و روش سکھائے گا اور کتاب و سنت کو از سر نو زندہ کرے گا۔" (سلسلہ حدیث جاری ہے)

ابن حجر صواعق کے صفحہ ۹۸ پر کہتے ہیں کہ نعیم بن حماد نے رسول اللہؐ سے ایک روایت نقل کی ہے (البتہ سند کے تمام افراد کا نام ذکر نہیں کیا) کہ جس میں آپؐ نے فرمایا : مہدی میری عترت میں سے ایک شخص ہے جو میری سنت کے دفاع میں اسی طرح جنگ و قتال کرے گا جس طرح میں نے وحی (قرآن) کے دفاع میں جنگ کی۔ (حدیث ملاحظہ فرمائیں)

بیانج المودۃ صفحہ ۳۳۵ پر جموینی سے اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا : خداوند تعالیٰ نے اس دین (اسلام) کو علی کے ہاتھوں فتح و نصرت عطا فرمائی اور جب علی قتل کر دیئے جائینگے تو دین میں فساد اور ابتری پھیل جائے گی اس فساد اور ابتری کو سوائے مہدی کے کوئی اور دور نہ کر سکے گا۔ (حدیث ملاحظہ ہو)

اب رہی بات اس حدیث کی کہ جس کے مطابق آپؐ دنیا میں ظلم ستم بھر جانے کے بعد اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تو یہ استفاضہ کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ اور اس امر کی جانب انشاء اللہ آئندہ ایضات میں ہم اشارہ کریں گے۔

حضرت مہدی کا علم

عقد الدرر کے باب سوم صفحہ ۴۱ حارث بن مغیرہ النفری سے منقول ہے کہ



میں نے حضرت ابو عبد اللہ حسین بن علی علیہم السلام سے پوچھا کہ ہم مہدی کو کس چیز کے ذریعے پہچائیں؟ تو جواب دیا کہ : اطمینان و سکون قلب اور وقار کے ذریعے۔ راوی نے دوبارہ پوچھا : اور کس چیز کے ذریعے؟ جواب میں فرمایا : حلال و حرام کی تمیز اور لوگوں کا اس کی جانب محتاج ہونا اور اس کا کسی کی بھی جانب محتاج نہ ہونا۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

بیانچ المودۃ صفحہ ۱۰۲ پر کتاب دائرۃ العارف سے نقل ہے کہ حضرت مہدیؑ شہرا فطاکہ کے ایک عمار سے ایک کتبہ اور بحیرہ طبریہ سے زبور کو نکالیں گے۔ اس میں وہ تمام تبرکات موجود ہیں کہ جو آل موسیٰ و ہارون نے چھوڑے تھے۔ اور جس کو فرشتے اٹھاتے تھے اسی میں الواح اور عصائے حضرت موسیٰؑ بھی ہے نیز مہدی کا علم و حلم تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ (تمام ہوئی عبارت دائرۃ العارف) ایضاً بیانچ پر مناقب خوارزمی سے مسند امام مہدی کے بارے میں نقل ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا : آپ (مہدیؑ) رسول اکرمؐ کی شبیہ ہیں اور تمام انبیاء علیہم السلام کے تبرکات کے ساتھ ظہور کریں گے۔

عقد الدرر باب نہم فصل سوم صفحہ ۲۱۶ میں عبد اللہ بن عطا سے نقل ہے کہ عبد اللہ نے جناب امام باقر علیہ السلام سے پوچھا : مجھے قائم علیہ السلام کے بارے میں بتائیے؟ تو آپ نے جواب دیا : بخدا انہی میں قائم ہوں اور نہ وہ لوگ کہ جن کو تم سمجھ رہے ہو۔۔۔ یہاں تک کہ راوی نے پوچھا ان (مہدیؑ) کے طور طریقے اور عادات کیسی ہوں گی؟ جواب دیا : جس طرح رسول اکرمؐ کی عادات و اطوار تھیں۔

## حضرت مہدیؑ کی قضاوت ۱۔

کتاب عقد الدرر باب سوم صفحہ ۴۱ میں کعب الامبار سے نقل ہے کہ : "میں نے بلاشک مہدی کے ذکر کو ہرگز شہ انبیاء کی کتب میں پایا ہے آپ (مہدیؑ) کے حکم و فیصلے میں افراط و ظلم ہو گا نہ ہی تعدی و تفریط۔"

صاحب عقد الدرر کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابو عمرو المقرئ نے اپنی کتاب منن میں اور حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد نے نقل کیا ہے۔

اموال کو مساوات سے تقسیم کریں گے، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف برقیں گے اور مقدمات کے فیصلے عدل کے مطابق ہوں گے۔ (کلام فتوحات تمام ہوا)

اسعاف الرافضیین صفحہ ۷۳ پر فتوحات مکیہ سے نقل ہے کہ مذکورہ باب صفحہ ۳۶۳ کے علاوہ ایک اور مقام پر فتوحات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت مہدیؑ مقدمات کے فیصلے ان قوانین شرعیہ کی روشنی میں فرمائیں گے جو ان پر ایک فرشتہ الہام کی صورت میں لائے گا۔ کیونکہ شریعت محمدیؐ آپ (مہدیؑ) کو بصورت الہام موصول ہوئی ہے لہذا آپ اسی الہام کے ذریعے حکم کریں گے۔ جس طرح اس بات کی طرف حدیث مہدیؑ میں اشارہ ملتا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا : وہ مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا اور اس سے ہرگز غلطی سرزد نہ ہوگی۔

پس اس حدیث میں آنحضرتؐ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ حضرت مہدیؑ آنحضرتؐ

۱۔ قضاوت : مقدمات کے فیصلوں کو نمٹانا اور درپیش مسائل کو حل کرنا۔

کی شریعت کے تابع ہیں، کسی نئی شریعت کے بانی نہیں۔ نیز آپؐ اپنے تمام فیصلوں میں لغزش و خطا سے پاک ہیں۔ اب کیونکہ فرشتہ الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدیؑ کو تمام احکام واضح انداز سے بتا دیئے ہیں لہذا آپ (مہدی) پر اجتناد حرام ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو تمام کے تمام اہل اللہ ۱۔ کے لئے اجتناد کو حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ ان اہل اللہ کے سامنے رسول اللہؐ مشہود ۲۔ ہیں، جب بھی اہل اللہ کسی حکم یا حدیث کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں رسول اللہؐ سے رجوع کرتے ہیں اور آنحضرتؐ ان کو یقظہ ۳۔ و مشافہہ ۴۔ کے عالم میں، حقیقت امر سے آگاہ کرتے ہیں۔

لہذا اس طرح کے شہود کا مالک سوائے رسول اکرمؐ کی تقلید کے کسی اور امام کی پیروی کا ہرگز محتاج نہیں۔

۱۔ خدا کے وہ خالص بندے کہ جو مقامات عالیہ تک پہنچ گئے ہیں۔

۲۔ مشہود یا مشہود کا حامل ہونا : ایسی چیز یا ایسا کوئی امر کہ جو دوسرے تمام لوگوں کے لئے پوشیدہ ہو، لیکن خدا کی راہ میں اخلاص اور عمل صالح کے ذریعے کسی شخص کے لئے آشکار ہو جائے۔

۳۔ یقظہ : عربی زبان کا یہ لفظ رفتہ کے وزن پر ہے۔ اس کے معنی بیداری کے ہیں۔

۴۔ مشافہہ : عربی ہے۔ رو برو گفتگو کرنا۔ بتقابلہ کے وزن پر ہے۔ یعنی صاحب فتوحات مکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہل اللہ، آنحضرتؐ سے اس طرح مسائل شریعہ کو دریافت کرتے ہیں گویا دو انسان رو برو گفتگو کریں، نیز یہ علم بیداری میں ہوتا ہے۔

## حضرت مہدیؑ کا کرم و بخشش

ہدی الاسلام سال سوم کے پچیسویں شمارہ میں ابن ماجہ سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے جو انہوں نے ابو سعید خدری سے اور وہ رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا : ”مہدی میری امت سے ہی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کے پاس آکر کوئی شخص یہ کہے گا کہ اے مہدی مجھے کچھ عطا کرو تو وہ (مہدی) اس کے دامن میں بغیر گنے اتنا کچھ ڈال دے گا کہ جتنا وہ شخص اٹھا سکے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف الراغبین صفحہ ۱۳۶ پر ابو داؤد سے اور ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری سے اور بیابغ المودۃ صفحہ ۳۳۱ پر ترمذی سے اور یہ تمام محدثین ابو سعید خدری سے اور وہ رسول اکرمؐ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کا مضمون مذکورہ بالا حدیث سے ملتا جلتا ہے۔

ابن حجر صواعق صفحہ ۹۸ پر رتظرازی ہیں کہ ابو نعیم نے رسول اکرمؐ سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں آپؐ نے فرمایا کہ :

”یقیناً خداوند تعالیٰ میری عترت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا۔ پھر فرمایا کہ جو مال و دولت کو اس طرح بانٹے گا جس طرح کہ بانٹنے کا حق ہے۔ (ملاحظہ ہو حدیث)

نیز اسعاف الراغبین صفحہ ۱۲ پر بھی اسی طرح کی حدیث نقل ہوئی ہے۔ اسکے علاوہ ابن حجر نے صواعق صفحہ ۹۸ پر ایسی روایت کا ذکر کیا ہے کہ جس کو احمد و مسلم نے رسول اللہؐ سے نقل کیا کہ آپؐ نے فرمایا :

”آخری زمانے میں ایسا خلیفہ آئے گا جو تمام اموال کو عوام الناس میں  
بغیر گنے بانٹ دے گا اور رتی برابر بھی باقی نہ رکھے گا۔ (حدیث ملاحظہ  
ہو)

اسعاف الراغبین صفحہ ۳۳ پر ایسی ہی حدیث موجود ہے۔

### حضرت مہدیؑ کی سلطنت

عقد الدرر میں صفحہ ۲۳۰ پر ابو عبد اللہ بن جوزی کی کتاب تاریخ سے اور وہ  
عبد اللہ بن عباس سے اور وہ رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے  
فرمایا : چار افراد نے تمام کی تمام دنیا پر حکومت کی ان میں دو مومن اور دو کافر  
تھے۔ مومنین میں سے ذوالقرنین اور سلیمانؑ کفار میں سے نحت اور نمرود۔ اور  
عنقریب پانچواں میرے اہل بیت ہی میں سے ایک شخص پوری دنیا پر حکومت  
کے گا۔“ (حدیث ملاحظہ ہو)

اسعاف الراغبین کے صفحہ ۱۲۹ پر مرقوم ہے کہ روایات میں کچھ  
مضامین ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ  
زمین کے مشرق و مغرب کے مالک بن جائیں گے۔ (یعنی زمانہ امور آپؐ کے ہاتھ میں  
ہوگی) (تمام ہوا کلام اسعاف)

کلام مصنف : بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پایا کہ آپؐ کی سلطنت  
مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ (اسعاف الراغبین - ص ۱۳۲)  
بیانج المودۃ میں خواہرا العتدین سے اور وہ حضرت علیؑ سے نقل کرتے ہیں کہ  
آپؐ (علیؑ) نے فرمایا : جب قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کرے گا

تو خدا اس کے لئے تمام اہل مشرق و اہل مغرب کو اکٹھا کر دے گا۔ (حدیث ملاحظہ ہو)

### حضرت مہدی کی اصلاحات (REFORMS)

ابوداؤد اپنی کتاب صحیح جلد ۴ صفحہ ۸۷ پر حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ : اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تب بھی خدا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو دنیا کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جیسے وہ ستم سے بھر چکی ہوگی۔ (حدیث ملاحظہ ہو)

نوالابصار صفحہ ۳۳۷ پر حضرت علی ابن ابی طالبؑ سے منقول ہے کہ : میں (علی علیہ السلام) نے رسول اللہؐ سے پوچھا کہ : آیا مہدیؑ ہم آل محمدؑ ہی سے ہے یا کسی اور سے؟ آپؐ نے جواب دیا : ہم ہی سے ہے۔ جس طرح خدا نے ہمارے ہاتھوں دین کی ابتداء کی اسی طرح خدا اسکے ہاتھوں انتہاء کرے گا۔ ہماری بدولت ہی لوگوں نے فتنہ سے اس طرح نجات پائی جس طرح شرک سے۔ اور یہ ہم ہی تھے کہ جن کی بدولت خدا نے فتنہ سے پیدا ہونے والی عداوت کو اس طرح دور کر کے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت و محبت ڈالی جس طرح شرک سے پیدا ہونے والی عداوت کو دور کر کے ان کے دلوں میں الفت و محبت کو جاگزیں کیا۔ اور ہماری برکت سے ہی لوگ فتنہ سے پیدا ہونے والی عداوت سے دینی اخوت کے رشتے میں منسلک ہوئے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

بعض اہل علم و فضل کا کہنا ہے کہ مذکورہ حدیث کی سند نہایت عمدہ اور

مستحکم ہے۔ حفاظ کرام نے اس کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ طبرانی نے معجم الاوسط میں، ابو نعیم نے حلیہ الاولیاء میں، اور عبدالرحمن نے عوالی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

کلام مصنف : مذکورہ بالا اصلاحات کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خوش آئند اور خوشگوار تبدیلیاں ہیں، جو آئندہ صفحات میں پیش کی جائیں گی۔

### حضرت مہدی علیہ السلام کی بیعت

عقد الدرر باب چہارم فصل اول صفحہ ۶۷ میں امام باقرؑ سے روایت ہے کہ آپؑ نے فرمایا :

”مہدی روز عاشورہ ظہور کرے گا اور یہ وہ دن ہے کہ جب امام حسین بن علیؑ قتل ہوئے۔ گویا ہفتہ کا دن ہو گا اور ماہ محرم۔ رکن و مقام کے درمیان جلوہ افروز ہو گا۔ جبرائیل دائیں جانب اور میکائیل بائیں جانب موجود ہوں گے۔ خدا اس کے تمام شیعوں کو دنیا کے کونے کونے سے زمین کے تمام فاصلے سنا کر، اس کی خدمت میں لے آئے گا۔“

(حدیث ملاحظہ کریں)

ایضا اسی باب کی فصل دوم صفحہ ۷۷ میں ابو عبد اللہ حاکم کی کتاب مستدرک سے اور وہ حضرت ام سلمہؓ سے اور وہ رسول اکرمؐ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا :

۱۔ یعنی حضرت مہدیؑ کے ہاتھوں رونما ہونے والی تبدیلیاں اور اصلاحات۔

”اہل بدر کی تعداد کے برابر لوگ، میری امت کے ایک شخص کی رکن و مقام کے درمیان بیعت کریں گے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً عقد الدرر باب ہفتم صفحہ ۱۵۶ میں نعیم بن حناد کی کتاب الفتن سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ :

”مہدی کی بیعت رکن و مقام کے درمیان کی جائے گی نہ سوتے ہوئے شخص کو اٹھایا جائے گا نہ ہی خون بہایا جائے گا۔“

فتوحات مکیہ باب ۳۶۳ پر حضرت مہدی کے ذکر کے بعد اور آپ کے حضرت فاطمہؑ کی نسل سے ہونے کی نشاندہی کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آپ رسول اللہؐ کے ہم نام ہیں اور آپ کے جد حسن بن علی بن ابی طالبؑ ہیں۔ آخر میں یہ تحریر ہے کہ :

”آپ کی بیعت رکن و مقام کے درمیان کی جائے گی۔“ (تمام ہوا کلام فتوحات)

### مہدی منتظر فقط ایک ہی ہیں

کتاب ہذا کی فصل اول میں جن علمائے کرام کی تصریحات کا ذکر گزرا، اس کے ذیل میں ابن حجر کی کتاب القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر کا اقتباس بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں ابن حجر قیطان ہیں کہ :

”مہدی منتظر فقط ایک ہی شخص ہے اور ایک سے زیادہ ہرگز نہیں۔“

کلام مصنف : (مذکورہ بالا جملہ) یہ جملہ کس قدر گراں گھا ہے کہ جس نے



دعوے کو ثابت اور حقیقت کو آشکار کیا۔

اب چاہے کتنے ہی لوگ اپنے آپ کو 'مہدی کے نام سے موسوم کریں یا مہدی کا لقب انتخاب کریں۔ لیکن پھر بھی وہ مہدی منتظر اور قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کی طرف رب العزت نے قرآن مجید میں اشارہ کیا، رسول اللہ نے جس کے ظہور کی بشارت دی، اور اہل بیت علیہم السلام بے شمار صحابہ، تابعین اور علماء نے جس (مہدی کے) کے بارے میں خبر دی وہ صرف اور صرف ایک شخص ہے، 'مہین ہے' ایک کے بعد دوسرا کوئی نہیں۔

اسکے علاوہ جو روایات ہم نے اس مقام سے پہلے پیش کیں، نیز آئندہ ابواب میں بھی نقل کریں گے، وہ تمام روایات اس بات کی نہایت واضح اور روشن انداز سے نشاندہی کرتی ہیں نیز اس بارے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات رکھنے والے ذہن سے، ان شبہات کو دور کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ مہدی منتظر فقط ایک ہی ہے اور اس بات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو حضرت مہدی منتظر کی خصوصیات، امتیازات، صفات اور ملکات (نفسانیہ) کی نشاندہی کرتی ہیں یہ امر نہایت مشکل بلکہ ناقابل تصور اور محال ہے کہ حضرت مہدی منتظر کا مصداق ایک سے زیادہ اشخاص ہوں۔

آپ کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) آپ کے گھرانے اور خاندان کا تعین۔

(۲) آپ کے آیاء و اہداج کا تعین۔

(۳) آپ کے والدین اور ان کے اسماء کا تعین۔

- (۳) آپ کے نام، لقب اور کنیت کا تعین۔
- (۵) آپ کی ممتاز صفات کا تعین۔
- (۶) آپ کے اخلاق و کمالات نفسانیہ کا تعین۔
- (۷) آپ کی نعیت اور اسکے طولانی ہونے کا تعین۔
- (۸) آپ کا ظہور آخری زمانے میں ہونے کا تعین۔
- (۹) ظہور کے وقت رونما ہونے والے واقعات کا تعین۔
- (۱۰) ظہور کے ایام میں سفیانی اور دجال کا خروج۔
- (۱۱) آپ کی بیعت کے مقام کا تعین (رکن و مقام کے درمیان، بیت اللہ کا پاس)
- (۱۲) حضرت عیسیٰ کا نزول اور آپ کے پیچھے حضرت عیسیٰ کا نماز پڑھنا۔
- (۱۳) آپ کے منفرد اصلاحی اقدامات۔
- (۱۴) آپ کے ظہور کے نتیجے میں برکتوں کا نزول۔
- (۱۵) جس انداز سے آپ لوگوں کے درمیان نپٹے کریں گے۔
- (۱۶) آپ کی جنگیں اور فتوحات۔
- (۱۷) آپ کی سلطنت اور حکومت کی وسعت۔
- (۱۸) آپ کی امامت اور خلافت کی مدت۔
- (۱۹) آپ کی وفات اور قتل کی کیفیت۔
- (۲۰) آپ کے بعد ائمہ علیہم السلام کی رجعت۔

حسب نسب، ذصال و کمال، صفات و علامات، خدا کی نعمتیں و الطاف، حادثات و مشکلات، اور زندگی کے دیگر تشیب و فراز کے لحاظ سے عقل عموماً ان امور کے دو اشخاص میں مشترک طور پر پائے جانے کو بعید از قیاس گردانتی ہے

چہ جائیکہ کوئی شخص دو سے زیادہ اشخاص میں ان تمام امور کے اجتماع و اشتراک کا دعویٰ کرے۔

ہاں ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اختتام کے بعد دوبارہ ایک نئی دنیا کی ابتداء ہو اور پھر اسی طرح کے امور کسی دوسرے شخص میں جمع ہو جائیں۔ یہ بات خداوند تعالیٰ کی قدرتِ لایزال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہی تو جا سکتی ہے لیکن احادیث کے مطالب و مضامین اس بات کے وقوع کی صراحت سے نفی کرتے ہیں۔ کیونکہ احادیث کے مطابق مہدی مختصر کا زمانہ روز قیامت کے ساتھ ہی ختم ہو جائیگا۔ (یعنی نہ پھر کوئی دنیا ہوگی اور نہ ہی دنیا میں مہدی مختصر چونکہ جب قیامت آگئی تو دنیا کے وجود کا سوال ہی نہیں)

اور آخری بات جو ان احادیث کے بارے میں ہمارے مقابلہ میں ہمارے مقابلہ کہہ سکتا ہے وہ یہ کہ مذکورہ احادیث میں موجود حضرت مہدی کوئی ایک معین شخص نہیں بلکہ اس میں موجود مہدی سے مراد مہدویتِ نوعیہ ہے۔ یعنی مذکورہ بالا صفات و خصوصیات کئی افراد میں جمع ہو جائیں کہ جن کا نام مہدی ہو، جس کے نتیجے میں متعدد افراد روایات میں موجود مہدی مختصر کا مصداق قرار پائیں گے۔

اور اس صورت میں ہمارے سامنے کئی مہدی ہونگے اور ہر مہدی میں مذکورہ خصوصیات موجود ہونگی۔ یہ نظریہ اتنا بے بنیاد اور بے ڈھب ہے کہ نہ عقل اس کو ماننی ہے اور نہ دل اسکی گواہی دیتا ہے۔

۱۔ البتہ ان تمام امور میں سب سے اہم حسب و نسب صفات و علامات کا یکجا و یکساں ہونا ہے جو کسی بھی طور دو اشخاص میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

۲۔ یعنی حضرت مہدی کے بارے میں روایات میں مذکور صفات (بقیہ اگلے صفحے پر)

توریت اور انجیل کے دونوں عہد (عہد قدیم و عہد جدید) میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوصاف، صفات، اخلاق اور حالات مذکور ہیں۔ نیز آپ کے خاندان اور گھرانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام امور کے ذکر کے بعد مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی شخص بھی یہ خیال تک اپنے ذہن میں نہیں لاتا کہ یہ تمام صفات، اخلاق اور عادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد نوعیہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کہ جس کے نتیجے میں محمد نام کی ذات متعده ہو جائے گی۔ (یعنی ان صفات و عادات کا مصداق، دسیوں لوگ قرار پائیں گے)۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول اکرم کی صفات اور علامات، اور حضرت مہدی کی صفات و علامات میں کیا فرق ہے؟ کہ ایک طرف تو

(بقیہ پچھلے صفحے کا حاشیہ) و خصوصیات کسی ایک معین شخص کی طرف اشارہ نہیں کرتیں بلکہ ایک نوع کی جانب اشارہ کرتی ہیں، ایسی نوع کہ جو متعدد افراد پر مشتمل ہے۔ مثلاً۔۔۔ انسان ایک نوع ہے۔ ایسی نوع کہ اسکی کچھ مخصوص صفات ہیں جو اس کو دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ یعنی انسان ایک ایسا جاندار ہے جو مدنی الطبع (ANIMAL SOCIAL) ہونے کے ساتھ ساتھ 'تفکر'، تدبر اور تعقل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ مذکورہ اوصاف کسی ایک معین انسان، جیسے 'زید'، 'بکر'، عمرو سے مخصوص نہیں بلکہ ہر انسان ان صفات کا مالک ہے۔ پس اس انسان کی جو ایک نوع ہے، کچھ مخصوص صفات ہیں مہدویت نوعیہ بھی اسی طرح سے ہے۔ یعنی روایات میں موجود 'مہدی منتظر کی صفات بھی کسی معین مہدی منتظر کے لئے نہیں بلکہ متعدد افراد ان صفات کے مالک ہو سکتے ہیں، اور سب مہدی ہی کا مصداق قرار پائیں گے۔ اور یہ بات قطعاً غلط ہے۔ گزشتہ صفحات میں جو اب دیا جا چکا اور آئندہ بھی یہ بات واضح کر دی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

توریت و انجیل میں رسول اللہ کی بیان کردہ صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے محمدیت نوعیہ کے تصور کو غلط اور باطل گردانا جائے، مگر مہدی موعود کے بارے میں مہدویت نوعیہ کے امکان کو مستحکم جانا جائے! کم از کم ہماری سمجھ سے تو یہ بات بالاتر ہے۔

ہم یہ گمان کرتے ہیں۔ اگرچہ گمان، حقیقت کا نعم البدل نہیں کہ مہدویت نوعیہ کے بے بنیاد عقیدے کو عرصہ و جود میں لانے والے ان تین درج ذیل گروہوں سے ہیں۔

(۱) ریاست و امارت کے بھوکے اور خلافت کے لالچی : کہ جنہوں نے اس نظریہ کو پھیلا یا تاکہ ان کے قیام اور جنگ و جدال کی قانونی اور شرعی حیثیت پیدا ہو سکے۔ اور وہ اپنے کاموں کو مہدی کے نام سے انجام دے سکیں۔

(۲) بعض صوفی فرقوں کے پیروکار : کیونکہ جب مذکورہ فرقے کے ماننے والے، غیبت امام زمانہ میں آپ (مہدی) کی نیابت خاصہ کو حاصل نہ کر پائے تو انہوں نے مہدویت نوعیہ کے من گھڑت عقیدے کو اپنایا۔

(۳) بنی امیہ کے بعض کارندے : جب ان کارندوں کی توجہ ان احادیث کی طرف گئی کہ جن میں حضرت مہدی کا ذکر موجود ہے اور آپ کی شخصیت کو معین کیا گیا ہے۔ تو اس مقام پر انہوں نے اپنے آپ کو بری طرح پھنسا پایا، کیونکہ لا محالہ ان کو مذکورہ احادیث کی روشنی میں مہدی کے وجود کا اقرار کرنا پڑے گا، پھر احادیث کے تحت یہ بھی کہنا پڑے گا کہ وہ (مہدی) اہل بیت علیہم السلام سے ہیں، حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کے فرزند حسین علیہ السلام کے توسط



سے گردانا جائے گا۔ لہذا احادیث پر مذکورہ اعتراض کی صورت میں 'حضرت مہدی پر ایمان رکھنے والوں کو' ان احادیث کے علاوہ کوئی اور دلیل و برہان لانا پڑے گی۔ جس کی رو سے ثابت ہو سکے کہ احادیث میں مذکور مہدی آپ ہی ہیں' اور اس طرح ہمارا دعویٰ ثابت ہو سکے۔

### اعتراض کا جواب :

جب حضرت رسول اللہؐ نے امام مہدی کا تعارف کرایا تو متعدد وجہات کے ذریعے، جن میں آپ کا نام، حسب نسب، آپ کا معصومہ کو عین کی نسل سے ہونا اور حضرت عبدالملک کی نسل سے ہونا، شامل ہے۔ نیز آپ کا حلیہ بھی بتایا کہ جسکے مطابق پیشانی روشن اور ناک ستواں ہے۔ اسکے علاوہ وہ متعدد صفات کہ جو چند طور قبل مذکورہ معتبر احادیث کے ضمن میں بیان ہوئیں۔ ان تمام بیان شدہ صفات کو مہدی معتظر نامی شخصیت کے لئے قرار دیتی ہیں۔ اور تمام احکامات کو اسی شخصیت سے مخصوص کرتی ہیں جو ان صفات و خصوصیات کا مالک ہو۔ ادھر دوسری طرف ہم ان صفات و علامات کو صرف اور صرف حضرت ابوالقاسم محمد خلف صالح میں ہی پاتے ہیں، کسی دوسرے میں نہیں۔

پس اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ ماننا پڑے گا کہ مذکورہ احکام امام زمانہؑ سے ہی مخصوص ہیں اور آپ ہی ان تمام امور کے مالک ہیں۔ ورنہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ، ایک شخصیت کی علامات اور نشانیاں تو ذکر کر دی جائیں، لیکن ان علامات کا مالک اور نشانوں کا حامل سرے سے موجود ہی نہ ہو، تو اس صورت میں رسول اکرمؐ کا ان علامات و صفات (بغیر اسکے کہ صاحب صفات اور حامل

علامات موجود ہو) کی نشاندہی (نعوذ باللہ) لغو اور غیر منطقی ہے جو شانِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔

اب اگر کوئی اعتراض کرتے ہوئے کہے کہ بات صرف علامات و صفات کے ذکر کرنے سے نہیں بنے گی بلکہ اس شخص کی شناخت بھی ضروری ہے کہ جس سے یہ صفات و علامات مخصوص ہیں اور اس میں پائی جاتی ہیں۔

لیکن جس شخص سے یہ صفات مخصوص ہیں اگر اس شخص میں مذکورہ صفات پائے جانے کے بارے میں علم ہی نہ ہو تو پھر اس شخص کو ان صفات کا حامل اور خصوصیات کا مالک ہرگز نہ کہا جائے۔

ہم یہ بات بسرو چشم قبول کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ کے زمانے سے خلف صالح مہدی علیہ السلام کی ولادت تک اولادِ جنابِ فاطمہؑ میں سے حضرت مہدی کے علاوہ ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس میں یہ صفات و علامات جمع ہوئی ہوں۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور اور آپ کی حکومت اور ولایت کا دور دنیا کے آخری ایام کے ہمراہ ہو گا۔ یعنی ظہورِ دجال اور نزولِ عیسیٰ بن مریم کے وقت۔ اور یہ موقع نہایت طویل عرصے کے بعد آئے گا اور زمان ہذا سے اس طویل عرصے تک کتنے ہی برس گزر جائیں گے اور اس دورانِ عترتِ اطہار و نسلِ فاطمہؑ زہراؑ سے کتنی ہی افراد آئیں گے اور کتنے گزر جائیں گے۔ لہذا اس بات کا امکان ہے کہ عترتِ اطہار اہل بیت میں سے کوئی شخص اس دوران پیدا ہو جائے کہ جس میں مذکورہ صفات موجود ہوں اور روایات میں جس مہدی کی جانب اشارہ کیا ہے وہی ان کا مصداق قرار پائے۔ (ن کہ وہ مہدی کہ جس کا دعویٰ امامیہ اثنا عشری کرتے ہیں اور جو شخصیت اس دور میں پس پردہ



غیبت ہے) اب اس امکان کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تمام روایات محمد یعنی حضرت امام صاحب الزمان کے وجود کو ثابت کرتی ہیں اور ان سے مخصوص ہیں؟

### جواب :

اب جبکہ خود آپ کے کہنے کے مطابق یہ امر واضح ہے کہ خلف صالح (حضرت مہدی) کی ولادت تک اور پھر اسکے زمانہ ہذا تک حضرت مہدی کے علاوہ کسی بھی ایسے شخص نے عرصہ وجود میں قدم نہیں رکھا ہے کہ جس میں یہ صفات تمام کی تمام موجود ہوں۔ اور یہی بات کافی ہے کہ روایات میں مذکور احکام و صفات حضرت مہدی منتظر کے لئے ثابت ہو جائیں۔ اسکے علاوہ آپ نے جو آئندہ زمانے میں کسی ایسے شخص کے وجود میں آنے کا امکان پیش کیا ہے کہ جس میں مذکورہ صفات موجود ہوں تو محض یہ امکان ان روایات کی دلالت اور مضامین کو (ہمارے دعویٰ شدہ) حضرت مہدی کے حق میں ثابت ہونے کے سلسلے میں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور نہ ہی روایات کے تحت ثابت شدہ حکم پر عمل کرنے سے روک سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس موجود دلائل کی دلالت معنی کے واضح ہونے کی وجہ سے مضبوط و مستحکم ہے۔ اور آئندہ زمانے میں کسی ایسے امر کے وجود میں آنے کا امکان جو موجودہ دلائل سے متضاد اور متصادم ہو

۱۰ یعنی تمام روایات انہی حضرت مہدی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جن کا دعویٰ امامیہ اثنا عشری کرتے ہیں، یہ کیسے ثابت ہے؟ بلکہ جو سکتا ہے کہ بعد میں ایک شخص پیدا ہو کہ جو ان تمام صفات کا مالک ہو اور وہی حقیقی مہدی منتظر ہو۔

نہایت ضعیف اور مرجوح ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہے کہ مضبوط و مستحکم معنی کو، ضعیف اور مرجوح معنی کے امکان کی خاطر ترک نہیں کیا جاسکتا۔

لیکن اگر ہم یہ بات مان لیں تو اس صورت میں ہم کو ان تمام دلائل سے دست بردار ہونا پڑے گا کہ جن کی رو سے ہم دیگر احکام شرعیہ کو ثابت کرتے ہیں، تب بھی ہر لحظہ یہ امکان اپنی جگہ پر قائم ہے کہ شاید مستقبل میں مذکورہ دلیل کے مضمون سے متضاد اور برعکس معنی وجود میں آئیں۔ لیکن پھر بھی ہم اس متضاد معنی کے وجود میں آنے کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام دیگر روایات و دلائل کے مضامین پر عمل کرتے ہیں اور ان کو ترک نہیں کرتے۔ اور اس مسئلہ میں علماء کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ۱۔

اور جو بات ہمارے مدعی کو ثابت اور مطمع نظر کو مستحکم کرتی ہے وہ رسول اللہ کی وہ حدیث ہے کہ جس کو امام مسلم بن حجاج نے اپنی کتاب صحیح میں مع ذکر سند نقل کیا ہے۔

آنحضرتؐ نے جناب عمر بن خطاب سے فرمایا کہ :

۱۔ یعنی ہر روایت، حدیث یا شرعی حکم کی دلیل کے بارے میں یہ امکان دیا جاسکتا ہے کہ شاید مستقبل میں اس شرعی حکم سے متضاد کوئی اور حکم ثابت ہو جائے یا اس روایت یا حدیث کے برخلاف مستقبل میں کوئی اور روایت پیدا ہو جائے، اس امکان کے باوجود ہم سر دست ثابت شدہ حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ قاعدہ مان لیا جائے تو تمام احکام شرعیہ میں یہ امکان جاری ہو سکتا ہے اور پھر کوئی حکم شرعی بھی اس تزلزل اور لڑکھڑاہٹ سے محفوظ نہ ہوگا۔

”تمہارے پاس یمن سے ایک قافلہ آئے گا، جس میں اولیس بن عامر مرادی قرنی (اولیس قرنی) نام کا ایک شخص ہوگا۔ وہ میروص ہو گا لیکن پھر شفا پا جائے گا۔ سوائے ایک درہم کی مقدار کے برابر گولائی میں برص کا نشان باقی رہے گا، اس کی ایک ماں بھی ہوگی، اور وہ ایک نیکو کار اور پارسا شخص ہے۔ اگر خدا کو قسم دے، تو خدا اس درہم کے برابر برص کے نشان کو بھی اس کے جسم سے منادے گا۔ پس (اسے عمر) اگر تم اس سے اپنے لئے استغفار کرو اسکو، تو کرو لینا۔“

یہاں پر رسول اللہ نے اس شخص کے نام، حسب نسب اور صفت کا ذکر کرتے ہوئے ان تمام امور کو اس شخص کی علامات اور نشانیوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس نام کا کوئی شخص، ان صفات کا حامل ہو اور خدا کو قسم دے کر دعائے شفا یا ب ہو جائے گا۔

نیز وہ شخص اس بات کی بھی اہلیت رکھتا ہے کہ اس سے انسان اپنے لئے طلب مغفرت کی دعا کرائے۔ اور خدا کی بارگاہ میں یہ مقام نہایت اعلیٰ اور عظیم ہے۔

اسکے بعد ’رسول اللہ‘ اور حتی جناب ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ ہمیشہ یمن سے آنے والے قافلوں کے بارے میں دریافت کرتے کہ مذکورہ قافلہ کب آئے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن یمن سے ایک وفد آیا تو آپ نے اس شخص کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ ان نشانیوں کا حامل ایک شخص موجود ہے۔

یعنی اولیس بن عامر مرادی قرنی، حضرت عمر کے گناہ بخشوانے کے لئے، خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرے۔

جیسے ہی حضرت عمر کو یہ اطلاع ملی آپ فوراً اس کے پاس پہنچے، اس سے ملاقات کی اور رسول اکرم کی حدیث کے مطابق اس سے اپنے لئے دعا کروائی۔ نیز جیسے ہی خلیفہ ثانی کو علم ہوا کہ حدیث نبوی میں بتائی گئی صفات اس شخص میں موجود ہیں، بغیر کسی حیل و حجت اور تردد کے آپ نے فوراً یقین کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے۔

جب کہ اس بات کا امکان اپنی جگہ پر قائم تھا کہ شاید مستقبل قریب یا بعید میں یمن سے کوئی اور وفد آئے اور اس وفد میں رسول اکرم کی بتائی ہوئے صفات کا حامل موجود ہو۔ (نو کہ اس وفد میں کہ جو آچکا ہے)

کیونکہ یہ امر نہایت واضح اور روشن ہے کہ قبیلہ مراد سینکڑوں افراد پر مشتمل تھا، لہذا پیدائش کی شرح بھی اسی نسبت سے تھی۔ اس لئے جو امکان (اعتراض کرنے والے نے) حضرت مدنی کے حلقے میں ذکر کیا، وہ امکان یمن سے آئے ہوئے اس وفد پر بھی صادق آتا ہے۔

خوارج کا قصہ بھی اسی طرح ہے۔ جب رسول اللہ نے مکہ کوہ خوارج کی صفات کی نشاندہی کی اور ان صفات کی بنا پر جو سلوک ان کے ساتھ کیا جانا چاہئے تھا، بتایا، اور اسکے بعد جب حروراء اور نمرود کے مقام پر حضرت علی نے ان خوارج سے مقابلہ کیا تو آپ نے بغیر کسی تردد اور ہچکچاہٹ کے اس بات پر یقین محکم پیدا کر لیا کہ یہ وہی افراد ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ لہذا آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کا قلع قمع کیا۔

یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی بیان کردہ صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جب خوارج کو ان صفات کا مصداق پایا تو اس

حدیث نبوی کے تحت عمل کیا۔ جب کہ اس موقع پر یہ امکان موجود تھا کہ رسول اللہؐ کی بیان کردہ صفات کا مصداق بعد میں آنے والا کوئی اور گروہ ہو۔

اور ایسی ہی دسیوں مثالیں اور بھی ہیں کہ جن میں روایت کی دلالت اور معنی کے مطابق عمل کیا گیا ہے۔ جبکہ مستقبل میں اسی طرح کی دلالت اور معنی کا مصداق وجود میں آنے کا امکان اپنی جگہ پر قائم تھا۔

پس ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ راجح اور مستحکم دلالت کو ایک ضعیف اور مرجوح امکان کی خاطر ترک نہیں کیا جاسکتا۔ مزید وضاحت کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ کسی بھی صفات کی حامل چیز یا شخص کے لیے ان صفات سے مربوط حکم اس وقت لاگو ہوتا ہے کہ جب وہ صفات اس چیز یا شخص میں پائی جائیں اور یہ قانون ناقابل انکار ہے۔ اب اگر کوئی اس قانون کا ہی انکار کر بیٹھے اور کہے کہ ان صفات کا حامل شخص کہ جس کے لئے کوئی حکم لاگو ہونا ہے وہ یہ شخص نہیں بلکہ اس شخص کے بعد آنے والا کوئی اور شخص ہے تو ایسی بات کہنے والا صراط مستقیم سے منحرف ہے اور جگ ہنسائی کا مرکز۔

نیز یہ بات بھی مذکورہ قانون کو ثابت کرتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی تو یہ بھی بتایا کہ میں آخری زمانے میں ایک نبی عربی مبعوث کرونگا جو خاتم الانبیاء ہوگا۔ اور پھر آنحضرتؐ کی تمام صفات اور علامات بھی بیان کیں۔ اور ان علامات کو حضورؐ کی شناخت کا ذریعہ بھی بتا دیا۔ یعنی ایسا شخص اور ان صفات کا حامل آخری زمانے میں نبی ہوگا۔

پھر اسکے بعد حضرت موسیٰؑ کی قوم میں آپؐ کے ذکر کا چرچا عام ہو گیا۔ اور

لوگ یہ جان گئے کہ آخری زمانے میں ایسی صفات کا مالک نبی مبعوث ہوگا۔ اور جب آپؐ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو یہودی، مشرکین کو وہمکنی آمیز لہجے میں ڈرانے لگے کہ اب بہت جلد ایک نبی مبعوث ہوگا جس کی فلاں فلاں صفات ہوں گی ہم اس کی مدد سے تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔

پھر جب رسول اکرمؐ مبعوث برسات ہوئے اور یہودیوں نے توریت میں موجود تمام کی تمام صفات کو حضورؐ کے وجود مبارک میں پایا، تو آپؐ کا انکار کر بیٹھے۔ اور کہنے لگے کہ یہ وہ نبی نہیں (کہ جس کا وعدہ توریت نے دیا ہے۔) بلکہ وہ کوئی اور ہے اور بعد میں آئے گا۔

جب یہودیوں نے اپنے سیاہ اعمال پر پردہ ڈالنے کے لئے اس ”امکان“ کے سائے میں پناہ لی اور توریت میں بیان شدہ صفات کے مطابق عمل کرنے سے روگردانی کی تو خدا تعالیٰ کی مذمت کے حقدار ٹھہرے۔ کیونکہ انہوں نے اس حکم کے مطابق عمل نہیں کیا تھا جو ان کو توریت میں بیان شدہ صفات کے حامل نبی کے ساتھ کرنا چاہئے تھا۔ (یعنی رسول اللہؐ پر ایمان نہ لائے) اور توریت میں بیان شدہ صفات کے حامل شخص (رسول اکرمؐ) کو نظر انداز کیا اور خواہ مخواہ بعد میں آنے والے کسی اور نبی کے امکان کو تراشا۔

یہ قصہ اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل اور مستحکم برہان ہے کہ جب بھی کچھ صفات و علامات کسی حکم کے لاگو ہونے کے لئے وضع کی جائیں، تو جہاں اور جس شخص میں بھی وہ صفات اور علامات پائی جائیں گی، مربوط حکم بغیر کسی حیل و حجت کے لاگو ہوگا۔

(اب ذرا اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں اب جب کہ وہ تمام صفات جو

علامت اور نشانی کے طور پر ذکر ہوئیں اور جن کے ذریعے مہدی مختصر کے شناخت کی جا سکتی ہے، خلف صالح حجت محمد علیہ السلام (حضرت مہدی) میں موجود ہیں لہذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ احادیث میں مذکور مہدی، آپ ہی ہیں۔ اسکے ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آئندہ زمانے میں کسی اور مہدی کے ان صفات کے ساتھ وجود میں آنے کا امکان بھی درست نہیں۔



---

---

حضرت مہدیؑ کا مقام و منزلت

---

---



اس فصل میں بارگاہ رب العزت میں حضرت مہدیؑ کا مقام و منزلت اور آپؑ کے بعض فضائل و مناقب کا بیان ہو گا۔ آپؑ کے خلیفہ اللہ اور برگزیدہ ہونے کا بھی ذکر ہے۔ آپؑ کی اطاعت واجب اور بیعت لازم ہے۔ حق آپؑ ہی کے ساتھ ہے، اصحاب کف آپؑ پر سلام بھیجیں گے۔ نیز آپؑ جنت کے سردار اور بارہویں خلیفہ ہوں گے۔

### حضرت مہدیؑ کا مقام و منزلت

عقد الدرر باب اول صفحہ ۲۵ میں ابو ایوب انصاری سے اور وہ رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؑ نے حضرت فاطمہؑ سے فرمایا :

”ہمارا شیخ انبیاء میں سب سے افضل، یعنی تمہارے والد، ہمارا شہید، شہداء میں سب سے افضل، یعنی تمہارے والد کے چچا، حمزہؑ ہم ہی سے



وہ ہے کہ جو اپنے دو پروں کی مدد سے جنت میں جہاں چاہے پروا کرتا ہے  
یعنی تمہارے والد کا نعم زاد اور ہم ہی میں سے اس امت کے دونوں سے  
ہیں یعنی حسن و حسین جو ہمارے فرزند ہیں۔ اور ہم ہی میں سے مہدی  
ہے۔

صاحب عقد الدرر لکھتے ہیں کہ : اس حدیث کو حافظ ابو القاسم طبرانی نے  
اپنی کتاب المعجم الصغیر (ج ۱- ص ۷۳) میں نقل کیا ہے۔

کلام مصنف : اس شرف اور منزلت کے کیا کہنے جو خداوند تعالیٰ نے  
حضرت مہدیؑ منتظر کو عطا کیا۔ یہاں تک کہ آپؑ (مہدی) کو آپ کے جد  
بزرگوار صادق و امین (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے مفاخر اہل بیت سے شمار کیا  
ہے 'وہ اہل بیت کے جن کے لئے قرآن کریم نے آواز دی کہ :

”انما یرید اللہ لینهب عنکم الرجس اہل البیت و  
یطہرکم تطہیراً“ (سورہ احزاب - آیت ۳۳)

### رفعت حضرت مہدیؑ

عقد الدرر باب اول میں ابو عبد اللہ نعیم بن حماد سے اور وہ ابن عباس سے  
روایت کرتے ہیں کہ :

”جناب عیسیٰ بن مریمؑ نے جب ان مقامات عالیہ اور نعمتوں کی جانب  
دیکھا جو قائم آل محمدؑ کو عطا ہوگی تو آپ نے دنیا کی اے پالنے والے!  
مجھے قائم آل محمدؑ قرار دے۔ جواب آیا : یہ زیرت احمد (مصطفیٰ) میں  
سے ہوگا۔ دوبارہ آپ نے نگاہ کی پھر انہی مقامات اور نعمتوں کا مشاہدہ

کیا اور وہی دعا مانگی، پھر وہی جواب آیا، تیسری مرتبہ نظر کی انہی مقامات کا مشاہدہ کیا، پھر وہی دعا مانگی، بارگاہ خداوندی سے پھر وہی جواب آیا۔

اسی طرح سے ایک روایت میں سالم اشل سے منقول ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی الباقری علیہا السلام کو یہ کہتے سنا اور پھر یہی حدیث نقل کی ہے لیکن امام باقر سے منقول اس حدیث میں 'بجائے حضرت عیسیٰ' حضرت موسیٰ بن عمران ہے۔

کلام مصنف : میری جان آپ پہ خدا ہواے مہدی فخرؑ اے قائم آل محمدؑ اس عظیم الشان منزلت اور بلند و بالا مقام کے کیا کہنے جو رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور آپ ہی سے مخصوص کیا یہاں تک کہ موسیٰ بن عمران کلیم اللہ اور عیسیٰ بن مریم روح اللہ (علیہما السلام) اپنی اس شان اور منزلت کے باوجود آپ کے عظیم الشان اور ناقابل وصف مقام تک پہنچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ لیکن تب بھی خداوند تعالیٰ کو یہ مقام 'سوائے آپ کے (مہدی) کسی اور کو عطا کرنا منظور نہیں۔

ان دونوں (عیسیٰ و موسیٰ) نے جب آپ کے بلند مرتبے کو دیکھا تو بارگاہ رب العزت میں آپ کے مقام و منزلت سے آگاہ ہوئے۔ آپ کی اس شان و رفعت کو دیکھا جو خدا نے آپ سے ہی مخصوص کر دی ہے۔ لہذا یہ بات ان دونوں کو نہایت مسرور کن اور قابل رشک دکھائی دی، اس لئے انہوں نے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ہم کو یہ مقام و منزلت عطا ہو، تو جواب آیا کہ : یہ مقام صرف قائم آل محمد سے مخصوص ہے۔

جب ان دونوں نے کہہ ارض کے مشرق اور مغرب میں اعلیٰ کلمہ حق،

قیام عدل و انصاف، بریادی ظلم و جور اور دیگر بہت سے اثرات اور نتائج جو امام مہدی مختصر کے وجود اور ظہور پابریکت کے سائے میں حاصل ہونگے، کو دیکھا، تو خدا کی بارگاہ میں التجاء کی کہ یہ تمام اثرات ان کے وجود سے تسلسل کر دے اور انہی کی دعوت اور تبلیغ میں سموے۔ تو ان دونوں کو یہ جواب ملا کہ لکم حتی قضاء و قدر نے اس عظیم الشان اور ناقابل بیان منزلت کو قائم آل محمد مہدی مختصر کے لئے رقم کر دیا ہے۔

### حضرت مہدیؑ و حضرت عیسیٰؑ

صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۵۸ پر جناب ابو ہریرہ سے نقل ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا : تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہو گا جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم نزول کریں گے۔ اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہو گا۔

کلام مصنف : مسلم نے اسی طرح کی روایت ابو ہریرہ سے اور انہوں نے رسول اللہؐ سے نقل کی ہے۔

عقد الدرر باب اول صفحہ ۲۵ میں حافظ اصفہانی کی کتاب مناقب المہدی سے اور وہ ابو سعید خدری سے اور وہ رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا : وہ ہم ہی میں سے ہے کہ جسکی امامت میں عیسیٰ بن مریم نماز ادا کریں گے۔

اس مضمون پر مشتمل متعدد روایات نقل ہوئی ہیں۔

کلام مصنف : حضرت مہدیؑ کی فضیلت اور تقدم رتبہ کے ثبوت کے

لئے یہی ایک روایت کافی ہے کہ جس میں آپ کی امامت (جماعت کا امام بننا) اور اس میں موجود نکتے کو بیان کیا گیا ہے۔

عینی نے اپنی کتاب البیان میں نماز کی احادیث نقل کرنے کے بعد ذریعہ ذیل عبارت تحریر کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ :

"صحیح و معتبر احادیث کے مطابق، حضرت عیسیٰ، امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور آپ ہی کی رکاب میں جہاد کریں گے، اور حضرت عیسیٰ ہی امام مہدی کی کمان میں جہاد کے دوران وصال کو واصل جہنم کریں گے۔" اور دوسری طرف نماز کے رتبے کا تقدم شناخت شدہ امر ہے، نیز جہاد کا مرتبہ بھی ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسکے علاوہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی نظر میں ان احادیث کی سند صحیح اور راوی موثق ہیں، لہذا ان احادیث پر اجماع بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے علاوہ جتنے بھی دوسرے فرقے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں ان کے نظریات بے قیمت، فاسد اور بے نکتے ہیں۔ پس ان احادیث پر اجماع طے شدہ امر ہے۔ آپ اس اجماع کے قیام اور اسکو صحیح مانتے ہوئے، نیز مذکورہ بالا روایات کی صحت کو قبول کرتے ہوئے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ وہ کہ جو جہاد اور نماز دونوں میں امام ہے؟ یا وہ کہ جو نماز اور جہاد دونوں میں

ماہوم ۹۹۔۱

۱۰۔ اعتراض اور سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں اور حضرت (بتیہ اگلے صفحہ پر)

اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں ہستیاں 'نبی اور امام ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ کامل ہیں۔ اور اگر یہ دونوں اکٹھا ہوں تو ان میں سے کوئی ایک 'دوسرے کے لئے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور وہ نمونہ اور اسوہ 'امام (مدنی) ہیں۔

کیونکہ ان دونوں کو 'کسی بھی قسم کی ملامت و مذمت خدا کی راہ میں قدم اٹھانے سے ہرگز نہیں روک سکتی۔ نیز یہ دونوں بزرگ ہستیاں 'تمام قبیح افعال' کلمہ حلیلہ 'ریاء اور نفاق سے پاک ہیں۔ اسکے علاوہ کوئی بھی شئی ان دونوں کو شریعت کے دائرے سے باہر خدا اور اسکے رسول کی مرضی و رضایت اور خوشنودی کے خلاف کوئی اکم انجام دینے پر ہرگز اکسا نہیں سکتی۔

جب حقیقت حال اس طرح ہو تو یقیناً 'امام' ماموم سے افضل ہے کیونکہ صاحب شریعت محمدیہ 'حضرت ختمی مرتبت' کا فرمان ہے کہ :

'لوگوں کی امامت وہ شخص کرے گا جو تم میں سب سے بہتر ہو اور بیشتر کتاب اللہ کی قرأت کرتا ہو۔ اگر قرأت میں مساوی ہیں تو پھر تم میں

(گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ) مدنی امام، جناب حجتی کے عقیدے کے مطابق 'نبی امام سے افضل ہے' لیکن چونکہ حضرت مدنی نماز اور جہاد دونوں میں امام ہیں اس لئے وہ افضل ہیں، کیونکہ نماز و جہاد ایک رجب 'جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے' تمام چیزوں سے افضل ہے، اب حضرت عیسیٰ افضل ہیں کیونکہ نبی ہیں 'امام مدنی افضل ہیں کیونکہ نماز و جہاد میں امام ہیں؟ لہذا دونوں بیک وقت افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟

سے عالم تر، اگر علم میں بھی مساوی ہیں تو پھر فقہ کو زیادہ جاننے والا، اگر فقہ میں بھی مساوی ہیں تو پھر ہجرت میں پیش قدم کرنے والا، اگر ہجرت میں بھی مساوی ہیں تو پھر جس کا چہرہ زیادہ پر کشش ہو وہ امامت کرے گا۔“

بنا برائے امام (مہدی) کے شریعت کے علم پر دسترس کامل رکھنے اور خدا کا ان کو (مہدی) ہر قبیح فعل سے منزه کر دینے کے بعد، یہ ان کے لئے ہرگز صحیح نہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ پر اپنے کو برتری اور فوقیت دیں۔

اور اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو امام مہدی سے افضل سمجھتے تو ان کے لئے امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کرنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ خدا نے جناب عیسیٰ کو بھی ریاء، نفاق، ذاتی منفعت، خود پسندی اور دیگر تمام کی تمام قبیح صفات سے منزه قرار دیا ہے۔

لہذا جب امام مہدی کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں تو ان کے لئے صحیح اور جائز ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ پر مقدم رکھیں۔

اسی طرح جب حضرت عیسیٰ کو اس امر کا علم ہو گیا کہ امام مہدی ان سے افضل و اولیٰ ہیں تو ان پر لازم ہو گیا کہ وہ حضرت مہدی کو مقدم کریں اور انہی کو فوقیت دیں۔ نیز ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔

اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی تو حضرت عیسیٰ کا امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کرنا صحیح نہ ہوتا۔

یہ تو تھی نماز کے لحاظ سے امام مہدی کی فضیلت۔ اب جہاں تک جہاد کا

سوال ہے تو جہاد کے معنی ہیں ”کسی ایسے شخص کی رکاب میں جان کی بازی لگانا جو اس جنگ کے ذریعے خدا کی طرف دعوت دے۔“ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی بھی شخص کے لئے رسول اکرمؐ یا رسول اکرمؐ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی رکاب میں جہاد کرنا صحیح نہ ہوتا۔

اور ہماری اس بات کی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان ہے :

”ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن و من اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم النبي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم“  
(سورہ توبہ - آیت ۱۱۱)

”بلاشبک خدا نے مومنین سے انکی جانیں اور انکے اموال اس بات پر خرید لئے ہیں کہ (ان کی قیمت) ان کے لئے ہمیشہ ہے۔ اسی وجہ سے

۱۔ حضرت مہدیؑ کی فضیلت حضرت عیسیٰؑ پر درج ذیل عبارت میں ’اوپر کی عبارت کے خلاصے کے طور پر پیش ہے۔ (۱) حضرت مہدیؑ نماز اور جہاد میں امامت اور سربراہ کے عہدے پر ہیں۔ (۲) حضرت مہدیؑ اور حضرت عیسیٰؑ دونوں میں سے کوئی بھی کسی بری اور معیوب صفت کا مالک نہیں کہ جسکے تحت وہ اپنے مقام کے علاوہ کسی اور مقام پر جا بیٹھے۔ (۳) حضرت مہدیؑ رسول اکرمؐ کے نائب ہیں، رسول اکرمؐ تمام انبیاء سے اعلیٰ اولیٰ اور افضل ہیں لہذا ان کا قائم مقام بھی اسی منصب کا مالک ہے اور حضرت عیسیٰؑ ’تمام انبیاء میں سے ایک نبی ہیں۔ لہذا امامت اور قیادت حضرت مہدیؑ علیہ السلام کا حق ہے۔



یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو (کفار کو) مارتے ہیں (اور خود بھی) مارے جاتے ہیں۔ (یہ) پکا وعدہ ہے (جس کا پورا کرنا) خدا پر لازم ہے (اور ایسا پکا ہے کہ) تورات، انجیل اور قرآن (سب) میں (لکھا) ہے اور اپنے عہد کا پورا خدا سے بڑھ کر کون ہے؟ تو تم اپنی (خرید) فروخت سے جو تم نے خدا سے کی ہے خوشیاں مناؤ۔ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔“

اسکے علاوہ امام مہدی، رسول اللہ کی امت میں، رسول اللہ کے نائب اور قائم مقام کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا جس طرح حضرت عیسیٰ کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ نبی اکرم پر اپنے آپ کو مقدم کریں اور فوقیت دیں، اسی طرح رسول اکرم کے قائم مقام اور نائب پر بھی آپ مقدم نہیں ہو سکتے۔

### حضرت مہدی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

عقد الدرر باب سوم میں ابو عمرو المقرئ سے اور وہ حذیفہ بن الیمان سے اور وہ رسالتاب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سخانی اور اسکی کارستانیوں، فشق و فجور اور قتل و غارتگری کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: اس موقع پر منادی آسمان سے ندا دے گا کہ ”ایہا الناس یا“ خدا نے ظالموں، جاہلوں اور منافقین سے تم کو نجات دی، ان کے کارندوں سے چھٹکارا دلایا اور امت محمدی کے بہترین شخص کو تمہارے امور کا نگران بنایا، پس سر زمین مکہ پر اس سے جا ملو، وہی مہدی ہے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت اسلامیہ کی اس بہترین اور

اعلیٰ انداز سے تعریف کی، اور ایسی صفات بیان کیں کہ ہر صفت اور ہر تعریف کو اگر جانچا جائے اور بدقت نظر دیکھا جائے تو بجائے خود فخر کا باعث ہے۔ چہ جائیکہ تمام کی تمام صفات۔

پہلی خصوصیت ”وکنلک جعلنا کم امة وسطا“ اور دوسری خصوصیت ”کنتم خیر امة اخرجت للناس“ تیسری خصوصیت ”ونکو نواشہداء علی الناس“ چوتھی خصوصیت ”هو اجنباکم“ پانچویں ”هو سماکم المسلمین من قبل“

اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث اور روایات کہ جو امت اسلامیہ کی تعریف و تحسین کے سلسلے میں منقول ہیں۔

ان تمام فضائل سے قطع نظر اگر صرف اور صرف امت اسلامیہ کا جناب رسالتیاب خاتم النبیین سے منسوب ہونا ہی نہ نظر رکھا جائے تو یہی ایک خصوصیت بجائے خود قابل فخر ہے۔

امت اسلامیہ میں شہداء کربلا، شہدائے بدر و احد ہیں۔ اسی امت میں سید الشہداء جناب حمزہ بھی ہیں۔ نیز وہ افراد بھی کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ہم رکاب جنگوں میں حصہ لیا اور خدا کی راہ میں جان و مال کی بازی لگادی، اسی امت میں سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ اور سعد بن وقاص جیسے افراد بھی ہیں۔ اور مذکورہ بالا حدیث کے مطابق ”مدنی“ امت محمدی کے بہترین شخص ہیں۔ اور حضرت مدنی کے مقام کی عظمت سمجھنے کے لئے یہی ایک فضیلت کافی ہے۔

عقد الدرر باب ہفتم صفحہ ۱۳۶ میں امام احمد کی کتاب مسند اور حافظ ابو نعیم کی

کتاب عوالی سے اور وہ عبد اللہ بن عباس سے اور وہ رسول اکرمؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا : وہ امت کبھی ہلاک نہ ہوگی کہ جس کی ابتداء مجھ سے 'انتہا عیسیٰ پر اور مہدی درمیان میں ہو۔

اسعاف الراغبین صفحہ ۱۲۸ پر اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔  
عقد الدرر باب ہفتم صفحہ ۱۳۸ پر نسائی کی سنن سے اور انس بن مالک سے اور وہ رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا : وہ امت کبھی ہلاک نہ ہوگی کہ جس کی ابتداء میں میں 'مہدی درمیان میں اور عیسیٰ اختتام پر ہوں۔

عینی اپنی کتاب البیان میں 'مہدی کو نقل کرنے کے بعد' یہ تحریر کرتے ہیں کہ : یہ حدیث حسن ہے۔ اس کو حافظ ابو نعیم نے عوالی، اور احمد بن حنبل نے مسند میں ذکر کیا ہے 'مجھے کہ ہم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور روایت میں موجود جملہ کہ "عیسیٰ اس امت کی انتہاء (یا اختتام) ہیں" تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ حضرت عیسیٰؑ حضرت مہدی کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ چند وجوہات کی بنا پر یہ ممکن نہیں۔

(۱) روایت میں ملتا ہے کہ مہدی کے بعد حیات میں کوئی خوبی اور بھلائی باقی نہ رہے گی۔

(۲) ایک اور روایت میں ہے مہدی کے بعد حیات میں کوئی اچھائی نہ رہے گی۔

(۳) اب جب کہ یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت مہدی ہی امام آخر الزمان ہیں 'اور آپ کے بعد کسی اور امام کی آمد کا' ائمہ حدیث نے سرے سے ذکر ہی

نہیں کیا، تو پھر اس بات کے تناظر میں یہ امر ناممکن ہے کہ خلاق خدا بغیر کسی امام کے باقی رہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ، آپ کے بعد بطور امام، اس امت کی امامت کریں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات سرے سے ممکن ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث میں یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ مہدی کے بعد خیر و بہتری ہرگز باقی نہ رہے گی۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ کسی قوم میں موجود ہیں (البتہ بطور امام) تو یہ بات کتنا قطعاً غلط ہوگی کہ اس امت میں خیر و بھلائی موجود نہیں۔ (یعنی حدیث کے مطابق مہدی کے بعد کوئی خیر حیات میں باقی نہ رہے گی، دوسری طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ خود مہدی کے بعد امام بنیں گے تو یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ خیر و بھلائی ختم ہوگئی۔)

اسی طرح سے یہ بات بھی ہرگز نہیں کہی جاسکتی کہ حضرت عیسیٰ، آپ کے بعد، آپ کے نائب بن کر رہیں گے، کیونکہ آپ کا مقام اس سے اعلیٰ و ارفع ہے (یعنی حضرت عیسیٰ کا مقام) کہ آپ قائم مقام بن کر رہیں۔ نہ ہی یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ آپ باقاعدہ جداگانہ طور پر امت کے امام بن کر رہیں گے کیونکہ یہ اس بات کا لازمہ ہے کہ امت محمدیہ، امت محمدیہ سے ملت محسوسہ کی طرف پلٹ جائے۔ اور یہ کفر ہے۔ پس لازم ہے کہ اس روایت کا بغور جائزہ لیا جائے اور صحیح تجزیہ کیا جائے اور وہ یہ ہے کہ :

لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے والے پہلے شخص رسول اکرم ہیں اور جناب مہدی اسلام کی طرف لوٹانے والے درمیانی (یعنی درمیان میں واقع ہیں) شخص ہیں اور ہمارے خیال میں یہی معنی صحیح ہیں۔

ایک اور معنی ہے وہ یہ کہ مہدی اس امت کے اوسط (درمیانی) ہیں۔ یعنی بہترین شخص اور یہ معنی اس مشہور جملہ سے اخذ کئے گئے ہیں جس کے مطابق ”خیر الامور اوسطها“ (ہر چیز کا متوسط ہونا بہترین امور سے ہے) نیز آپ اس امت کے امام بھی ہیں اور آپ کے ظہور کے بعد ہی جناب عیسیٰ بن مریم آپ کی امامت کی تصدیق کے لئے آسمان سے نزل کریں گے آپ کے ناصر و معین ہوں گے۔

اور جس چیز کا حضرت مہدی دعویٰ کریں گے جناب عیسیٰ امت محمدیہ کے لئے اس کی تصدیق و وضاحت و بیان کریں گے۔ پس اس لحاظ سے جناب عیسیٰ آخری مصدق اور داعی قرار پائے۔ (تمام ہوا کلام گنجی کتاب البیان) صاحب کشف الغمہ کتاب البیان کے اس اقتباس کو جو ہم نے چند سطر پہلے پیش کیا، نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ :

مہدی اس امت کے اوسط یعنی بہترین شخص ہیں۔ اس سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ جناب مہدی حضرت علی علیہ السلام سے بھی افضل و بہتر ہیں۔ جب کہ اس کو کوئی بھی نہیں مانتا ہمارے خیال میں صورتحال دراصل اس طرح ہے کہ رسول اکرمؐ چونکہ دین اسلام کے اولین دعوت کنندہ ہیں اور جناب مہدی آپؐ کے پیرو اور تابع۔ نیز آپؐ کی امت اور ملت سے بھی ہیں اسی بنا پر آپؐ کو رسول اکرمؐ کی قرہت اور آپؐ کی شریعت پر کاربند ہونے کی وجہ سے وسط قرار دیا گیا ہے۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ ایک دوسری امت کے فرد ہیں نیز آخری زمانے میں آپؐ (عیسیٰ) بجائے اپنی شریعت کے ایک دوسری شریعت یعنی اسلام کی طرف دعوت دیں گے اس لئے آپؐ کو آخر انتہا یا اختتام قرار دینا ہی مستحسن ٹھہرا۔

واللہ اعلم۔ (ختم ہوا کلام کشف الغم)

کلام مصنف : مذکورہ بالا دونوں احادیث کی اگر وضاحت کی جائے تو اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ : حدیث میں وارد ہوا ہے کہ وہ امت کبھی ہلاک نہ وہ گی۔ کیونکہ حدیث میں حرف لن موجود ہے جس کے معنی ابدی نفی کے ہیں۔ یعنی جس فعل سے قبل یہ حرف موجود ہو تو وہ فعل کبھی واقع نہ ہوگا۔

اب امت کی ہلاکت سے یا تو عذاب و نبوی مراد ہے، جیسا کہ گزشتہ امتیں ہلا ہوئیں۔ (عاد، ثمود، لوط، بنی اسرائیل) یا ہلاکت سے مراد ہدایت کے بعد گمراہی کا شکار ہو جانا اور ایمان کے بعد کفر کی وادیوں میں سرگرداں ہونا ہے، جیسا کہ گزشتہ زمانوں میں بعض افراد کو یہ چیزیں درپیش ہوئیں، یا ہلاکت سے مراد امت کا اپنی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کا گنا اور بنا ہے، جس طرح انسان اپنی زندگیاں اپنے ہی ہاتھوں گنوا کر مرتے ہیں، امتیں بھی اپنی زندگیاں گنوا کر موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں فرمان رب العزت ہے "ولکل امہ اجل"۔ حدیث میں مذکور کلمہ وسط اور اوسط سے ان کلمات کے ظاہری اور لغوی معنی مراد ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو کسی شے یا امر کی ابتداء اور انتہاء کے درمیان میں ہو۔ اس وسط اور اوسط سے اس امت کا بہترین فرد ہونا مراد نہیں۔ کیونکہ دوسری روایت میں یہ جملہ کہ "مہدی اسکے وسط میں ہونگے" سب سے آخر میں

۱۔ حدیث میں یہ ہے کہ : "لن تہلک۔ لن۔" کبھی نہیں "تہلک"۔ ہلاک ہوگی۔ لہذا "لن تہلک" کبھی ہلاک نہ ہوگی۔

۲۔ سورہ اعراف۔ آیت ۳۴۰۔ "اور ہر امت کے لئے وقت مرگ معین ہے۔"

آیا ہے اور پہلی روایت میں کلمہ ”وسطھا“ سے پہلے ”فسی“ آیا ہے جو اس ”وسطھا“ کو ظرفیت کے معنی دے رہا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کی ابتداء اور اول ہونا تو روشن ہے۔ حضرت مہدی کا درمیان اور وسط میں ہونا اس طرح ہے کہ آپ ۲۵۶ھ میں متولد ہوئے اور ابھی تک زندہ ہیں۔ یہاں تک کہ باذن خدا ظہور کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ کا آخر، انتہاء یا اختتام ہونا اس لئے ہے کیونکہ آپ امام مہدی کے ظہور کے بعد آسمان سے زمین کی جانب نزول کریں گے (غور کیجئے امام مہدی کے ظہور کے بعد)

پس ان تمام باتوں کے پیش نظر حدیث میں موجود کلمہ اول وسط اور آخر کا ان تینوں مبارک ہستیوں کے لئے استعمال ہونا اپنے ظاہری اور لفظی معنوں کے ہمراہ ہے۔

اب بات کے واضح ہونے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ رسول اکرمؐ اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں (واللہ العالم) کہ جس امت کی ابتداء وسط اور انتہاء ایسے افراد پر مشتمل ہو، تو وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین مقدس ہستیوں کی برکت سے عذاب و عوی کو نازل نہ کرے گا۔ یا یہ کہ ان تین افراد کی بلا واسطہ یا بالواسطہ تعلیمات کے سبب یہ

---

کلمہ ”فسی“ کے معنی روایت میں ظرفیت کے ہیں۔ یعنی کوئی چیز کسی چیز میں موجود ہو۔ لہذا اس وسط کے معنی حضرت مہدی کا رسول اکرمؐ کے بعد اور حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے ظہور ہونا، اب چاہے یہ زمانہ رسول اکرمؐ کے کتنے ہی بعد اور جناب عیسیٰ کے کتنے ہی پہلے کیوں نہ ہو۔

امت گمراہ نہ ہوگی۔ یا یہ کہ امت اسلام اپنی معاشرتی اور اجتماعی زندگی کو ان افراد کی تعلیمات اور اصلاحی پیغامات کی بنا پر ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ گنوائے گی۔

### حضرت مہدی اور بہشت

عقد الدرر باب ہفتم پر ابن ماجہ، طبرانی نیز سیوطی نے حاکم کی کتاب المستدرک اور ابو نعیم وغیرہ کے علاوہ دوسرے بہت سے راویوں سے اور وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: "بنو عبدالمطلب کے ہم سات افراد سرداران جنت ہیں۔ میں، میرا بھائی، میرے چچا حمزہ، جعفر، حسن، حسین اور مہدی (علیہم السلام) (حدیث ملاحظہ کریں)

ابن حجر صواعق کے صفحہ ۱۱۳ پر راقم ہیں کہ ابن ماجہ نے انس بن مالک سے اور انہوں نے رسول اللہؐ سے روایت نقل کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: "ہم اولاد عبدالمطلب، اہل جنت کے سردار ہیں۔ میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن و حسین اور مہدی (علیہم السلام) (حدیث ملاحظہ ہو)

نسخ البلاغہ کے خطبہ ۱۸۲ میں امیرالمؤمنینؑ فرماتے ہیں کہ:

"جان لو! جو بھی خوفِ خدا اختیار کرے گا، پروردگار عالم اسکو فتوں سے نجات اور اندھیروں سے رہائی کا راستہ دکھلائے گا۔ اور جس چیز کی (بہشت) اسکو آرزو تھی اسیں جاویداں رکھے گا، اسکو اپنی بارگاہ میں اس مقام پر کہ جو اس نے اپنے (دوستوں کے) لئے اختیار کیا ہے داخل کرے گا، اس کا سایہ عرشِ الہی اور روشنی خوشنودیٰ خدا ہوگی، فرشتے اسکی زیارت کریں گے اور انبیاء اسکے مونس ہوں گے۔"



دار جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے مطہج بندوں کے لئے آراستہ کیا ہے۔ پس اہل جنت بہترین افراد اور اسکے مکین بہترین مکین ہیں۔ انہی (اہل جنت میں) میں انبیاء، رسل، صدیقین اور شہداء بھی شامل ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مہدی جنت کے سات سرداروں میں سے ہیں۔ سردار کے معنی (بزرگ) کے ہیں البتہ سن و سال کے اعتبار سے نہیں بلکہ منزلت و درجے کے لحاظ سے۔

نور الابصار صفحہ ۳۳۶ پر تحریر ہے کہ : ابن شیریب نے اپنی کتاب القرووس کے باب الف ولام میں ابن عباس سے اور انہوں نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا : مہدی اہل جنت کے طاؤوس (مور) ہیں۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

بیانج المودۃ میں کنوز الدقائق سے اور وہ احمد بن حنبل سے اور وہ رسول اللہ سے ایسی ہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

کلام مصنف : حضرت مہدی کو اہل بہشت کے درمیان طاؤوس یعنی مور سے تشبیہ دینا (جبکہ بہشت میں وہ تمام افراد موجود ہیں کہ جو چند سطور پہلے نہ گور تھے) ایک ایسی فضیلت اور منزلت کی نشاندہی کرتا ہے جو فقط آپ ہی سے مخصوص ہے، حتیٰ حضرت آدم اور اسکے علاوہ دیگر لوگ بھی اس فضیلت کے مالک نہیں۔

امر مسلم ہے کہ آپ کے ظہور اور وجود مبارک کے سبب جو اثرات و نتائج حاصل ہوں گے (جیسے جلال و جمال الہی کا ظاہر ہونا، خداوند تعالیٰ کی عظمت و عزت کا آشکار ہونا، وہ کسی بھی نبی یا رسول کے ذریعے حاصل نہ ہوئے اور کیونکر

حاصل ہوتے؟ جبکہ روایات مستفیضہ اس بات کو صراحت سے بیان کرتی ہیں کہ کہہ ارض کو عدل و انصاف سے بھر دینا آپؐ ہی سے مختص ہے۔ اور زمین (آپؐ ہی کے ظہور کے وقت) اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اور آپؐ کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔

یہ تمام آثارِ جلال و جمال صرف جناب مہدی منتظرؑ کی ذات سے ہی مخصوص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل جنت کے درمیان 'آپؐ کی مثال مور کی سی ہے۔ کیونکہ مور ہی ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی خوبصورتی اور دلنرمی کی بناء پر دوسرے تمام پرندوں سے منفرد ہوتا ہے۔

### حضرت مہدی اور اطاعت

عقد الدرر باب سوم صفحہ ۳۹ میں ابو عبد اللہ نعیم بن حماد سے اور وہ جابر بن عبد اللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور عرض کی :

”یہ پانچ سو درہم میں اپنے مال کی زکوٰۃ کی بابت آپؑ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔

امام نے فرمایا : یہ تم اپنے پاس رکھو اور اپنے مسلمان پڑوسیوں اور مفلس بھائیوں میں تقسیم کر دو۔

پھر امامؑ نے فرمایا : جب ہم اہل بیت کا مہدی قیام کرے گا تو اموال کو مساوات سے تقسیم کرے گا۔ اور رعایا سے عدل برتے گا۔ اب جس نے اس کی اطاعت کی تو گویا خدا کی اطاعت کی اور جو ان کے حکم سے

سرتابی کرے گا گویا خدا کے حکم سے سرتابی کا مرتکب ہوا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

عقد الدرر باب چہارم صفحہ ۱۰۲ میں حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد سے رسول اللہ کی حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا : ماہ محرم میں منادی آسمان سے ندا دے گا کہ خدا کی مخلوق میں سے ایک شخص خدا کا پسندیدہ اور برگزیدہ ہے، پس اس کے فرمان کو غور سے سنو اور بجا لاؤ۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسی طرح کی ایک حدیث کو باب ہفتم صفحہ ۱۵۶ میں بھی نقل کیا ہے، جس کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ ”وہ شخص مہدی ہے۔“

بیانج المودودہ صفحہ ۲۳۵ پر ابن ماجہ سے اور وہ عبد اللہ بن عمر سے اور وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا : ایک فرشتہ آسمان سے ندا دے گا اور لوگوں کو آپ کی طرف رغبت اور اشتیاق دلانے گا اور کہے گا یہی مہدی ہے، پس اس کی دعوت پر لبیک کہو۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

### حضرت مہدی اور حق

عقد الدرر باب چہارم صفحہ ۱۰۶ میں ابو القاسم طبرانی کی کتاب معجم صحیح ابو نعیم اصفہانی کی کتاب مناقب المہدی سے اور حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد سے اور یہ سب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا :

”جب منادی آسمان سے ندا دے گا کہ حق صرف آل محمد ہی میں موجود ہے تو اس وقت مہدی ظہور کرے گا۔“

ایضا باب چہارم کی فصل سوم صفحہ ۱۰۶ میں امیر المؤمنین علی ابن ابیطالبؑ سے منقول ہے کہ : ”جب آسمان سے منادی یہ ندا دے گا کہ حق آل محمد میں ہے تو اس وقت مہدی ظہور کرنے لگا۔“

الدرر الموسویہ میں احمد بن موسیٰ بن مردیہ سے اور وہ راویوں کے مختلف سلسلوں سے روایت کرتے ہیں کہ زوجہ رسولؐ حضرت عائشہؓ کا کہنا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا :

”حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ‘ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہونگے یہاں تک حوض (حوض کوثر) پر دوبارہ مجھ سے آئیں۔“

### حضرت مہدی اور امر خلافت

عقد الدرر باب ششم صفحہ ۱۳۵ میں، حافظ ابو نعیم کی کتاب مناقب المہدی سے اور وہ عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا :

”مہدی اس شان سے خروج کرے گا کہ اس کے سر پر ایر کا ایک نکلوا (بطور سائبان) ہوگا، اس میں ایک فرشتہ ندا دے گا کہ یہی مہدی ہے جو خلیفہ اللہ ہے، پس اس کی پیروی کرو۔“

نور الابصار صفحہ ۲۳۱ پر ابو نعیم اصفہانی سے اور وہ عبد اللہ بن عمر سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

نیز اور بھی دوسرے راویوں نے عبد اللہ بن عمر سے ایسی ہی حدیث نقل کی

اسعاف الراغبین صفحہ ۱۲۹ پر مرقوم ہے کہ : روایات میں مذکور ہے کہ آپ کے ظہور کے وقت آپ کے سر کے اوپر ایک فرشتہ ندا دے گا کہ یہی مہدی خلیفہ اللہ ہے۔ پس اس کی پیروی کرو۔ جس کے بعد لوگ اس بات پر یقین کر لیں گے۔ (تمام ہوا کا امام اسعاف)

بیانج المودہ صفحہ ۴۴۸ پر فرائد السمطین سے اور فرائد میں ابو نعیم اصفہانی سے اور وہ ابو عمر سے اور وہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ مہدی اس شان سے خروج کرے گا کہ اس کے سر پر ایک فرشتہ یہ ندا دے رہا ہو گا کہ یہی مہدی خلیفہ اللہ ہے پس اس کی پیروی کرو۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

### حضرت مہدی اور امر بیعت

عقد الدرر، فصل سوم باب نہم صفحہ ۲۲۶ میں ابو عمرو عثمان بن سعید مقلبی کی کتاب سنن سے اور حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد اپنی کتاب الفتن میں اسحاق بن عوف سے نقل کرتے ہیں کہ مہدی کے پرچم پر تحریر ہے کہ : "البيعة لله" (بیعت خدا کے لئے ہے۔) (ملاحظہ کریں حدیث)

بیانج المودہ صفحہ ۳۳۵ پر کتاب لصل الحجاب سے اور اس میں نوف سے منقول ہے کہ مہدی کے پرچم پر تحریر ہے کہ : "البيعة لله" (بیعت اللہ کے لئے ہے)

### حضرت مہدی اور فرشتے

عقد الدرر باب ششم صفحہ ۱۳۶ میں ابو عمرو عثمان بن سعید مقلبی کی کتاب

سنن سے اور وہ حذیفہ بن الیمان سے اور وہ رسول اللہ سے آپ کے رکن و مقام کا قصہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اٹکل آپ کے چلو میں اور میکائیل آپ کے دائیں طرف چل رہے ہوں گے۔ اہل آسمان و زمین پرندگان، درندگان، حتیٰ مچھلیاں تک آپ کے وجود مبارک سے مسرور و تازاں ہونگی۔

اسعاف الراغبین صفحہ ۱۳۰ پر مذکور ہے کہ : روایات میں ملتا ہے کہ خداوند تعالیٰ حضرت مہدی کی نصرت کی لئے تین ہزار فرشتے نازل کرے گا، نیز اصحاب کف بھی آپ کے انصار میں سے ہیں۔ (تمام ہوا کلام اسعاف)

### حضرت مہدی اور اصحاب کف

عقد الدرر باب ہفتم صفحہ ۱۳۱ میں مرقوم ہے کہ : امام ابوالمحق مٹھلی اپنی تفسیر قرآن مجید میں قصہ اصحاب کف کے ذیل میں رقمطراز ہیں کہ : وہ (اصحاب کف) اپنی آرامگاہ میں اس انداز سے محو خواب ہیں کہ آخری زمانے میں، خروج مہدی کے وقت ہی بیدار ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب مہدی ان کو سلام کریں گے۔ پس خدا ان کو زندہ کرے گا پھر وہ لوگ دوبارہ روز قیامت تک کے لئے اپنی نیند میں ڈوب جائیں گے۔

کلام مصنف : مذکورہ بالا تفسیر میں اس آیت مبارکہ ”ام حسبت ان الکھف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا“ کے ذیل میں رسول اکرم سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا : مہدی اصحاب کف کو سلام کرے گا، جس کے نتیجے میں اصحاب کف آپ کے سلام کا جواب دیں گے اور پھر اسی طرح سے محو خواب ہو جائیں گے یہاں تک کہ روز قیامت آپ نہیے گا۔ (تمام ہوا کلام

مصنف کتاب عقد الدرر

### مصنف کتاب ہذا

یہ بات ممکن ہے کہ اصحاب کف کا ازسرنو زندہ کرنا، حضرت مہدیؑ کی بیعت کی خاطر ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی صاحب أسعاف الراغبین کا وہ قول نقل ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض روایات کے مطابق، اصحاب کف امام مہدی کے انصار و اعوان میں سے ہیں۔

### حضرت مہدیؑ حجت خدا ہیں

بیانج المودۃ صفحہ ۳۳۸ پر فرائد السمطین سے اور وہ حسن بن خالد سے نقل کرتے ہیں کہ جناب علی بن موسی الرضا نے فرمایا : جس کے پاس تقویٰ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ تم میں سے زیادہ با تقویٰ ہی خدا کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے۔ یعنی تقویٰ کے ساتھ عمل کرنے والا۔ پھر فرمایا کہ : میری نسل سے میرا چوتھا فرزند، کنیزوں کی ملکہ کا بیٹا ہے جس کے ہاتھوں خدا زمین کو ہر ظلم و ستم سے پاک کر دے گا۔ اور وہی ہے کہ جس کی ولادت کے بارے میں لوگ شک میں مبتلا ہیں۔ وہی پس پردہ نقیبت میں ہے جب ظہور کرے گا تو زمین اپنے پردہ دگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ لوگوں کے درمیان عدل کو میزان قرار دے گا۔ اور پھر کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے گا اسی کے لئے زمین کے فاصلے سنا دیئے جائیں گے۔ اس کا سایہ نہ ہو گا۔ وہی ہے کہ جس کے لئے

آسمان سے منادی ندا دے گا کہ خدا کی جنت بیت اللہ کے قریب ظاہر ہو چکی ہے، اسی کی اطاعت کرو، حق اسی کی ذات میں مفسر اور اسی کے ساتھ ہے۔ اس ندا کو تمام اہل دنیا سنیں گے۔ (تمام ہوا کلام بتایا)

## حضرت مہدی اور اختتام دین

ابن حجر صواعق کے صفحہ ۷۹ پر ابو القاسم طبرانی سے اور وہ رسول اللہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ :

”مہدی ہم میں سے ہے۔ اس کے ہاتھوں اختتام دین اسی طرح ہوگا، جس طرح ہمارے ہاتھوں شروع ہوا۔“

اسعاف الراغبین صفحہ ۳۶ پر اسی طرح کی حدیث نقل ہے۔

نور الابصار صفحہ ۳۳ پر حضرت علی ابن ابیطالب سے منقول ہے کہ : میں نے رسول اللہ سے پوچھا : کیا مہدی ہم آل محمد سے ہے یا کسی اور سے؟ فرمایا ہم ہی میں سے ہے، جس طرح ہمارے ہاتھوں دین شروع ہوا اسی طرح خدا اس کے ہاتھوں تمام کروائے گا۔ (حدیث ملاحظہ ہو)

اس امر پر روایات مستفیضہ کثرت سے دلالت کرتی ہیں کہ دین اس وقت ختم ہوگا جب تک کہ بارہ خلفاء نہ گزر جائیں۔ اور اس سے قبل قارئین نے ابن ابی الحدید کا وہ کلام بھی ملاحظہ کیا جس میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ شرع (شرعی احکام اور ذمہ داریاں جو ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہیں) اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ مہدی کا ظہور نہ ہو جائے۔ بنا پر اس آپ ہی خاتم الاوصیاء جس طرح آپ کے



جد امجد خاتم الانبیاء ہیں۔ دین آپ ہی کے ہاتھوں اختتام پذیر ہوگا جس طرح آپ کے جد امجد نبی اکرم کے ہاتھوں شروع ہوا۔

### حضرت ممدی بارہویں خلیفہ ہیں

بیانج المودہ صفحہ ۳۳۸ پر فرائد السعوطین سے اور اس میں سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عباس سے اور وہ رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”میرے بعد میرے بارہ اوصیاء اور خلفاء لوگوں پر خدا کی حجت ہیں۔ ان میں پہلا علی اور آخری میرا فرزند ممدی ہے۔“

کلام مصنف: مذکورہ امر پر وہ تمام روایات دلالت کرتی ہیں کہ جگے مطابق رسول اللہ کے بعد خلفاء کی تعداد بارہ ہے اور تمام کے تمام قریش یا بنی ہاشم سے ہوں گے۔ ان احادیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں نقل کیا ہے۔

نیز امام حنبل کے علاوہ اور بہت سے ائمہ حدیث اور حفاظ کرام نے بھی اسکی روایت کی ہے۔ اور یہ عقیدہ (رسول اکرم کے بارہ خلیفہ) صرف اور صرف ہم شیعہ اثنا عشری کے عقائد سے مطابقت رکھتا ہے۔ کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ کے بارہ خلفاء ہیں ان میں پہلے جناب علی ابن ابیطالب

۱۰۔ دین کا اختتام پذیر ہونا، اتمام ہونا یا ختم ہونا، ان تمام کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ممدی کے ظہور کے بعد دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے بعد قیامت آجائے گی اور جب قیامت آجائے گی تو وقت عمل ختم ہو جائے گا اسی کے ساتھ تمام شرعی ذمہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔

علیہما السلام اور آخری (یعنی بارہویں) محمد بن الحسن المہدیؑ ہیں۔ اے  
 "روز قیامت تک ان پر خدا کا درود و سلام ہو" اور ہمیں اسکے شیعوں  
 اور پیروکاروں میں سے قرار دے۔

### حضرت مہدیؑ یا رہویں وصی ہیں

بیانج المودۃ صفحہ ۳۸۶ پر، مناقب خوارزمی سے اور وہ محد ذکر سند حضرت علی  
 بن موسی الرضا سے اور امام رضا اپنے اجداد سے اور وہ رسول اللہؐ سے ایک  
 روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہؐ نے اپنی اور اپنے اہل بیت کی  
 فضیلت بیان کی ہے "نیز حدیث معراج کا بھی کچھ ذکر ہے" پھر رسول اللہؐ فرماتے  
 ہیں کہ میں نے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اے میرے پالنے والے  
 ! میرے اوصیاء کون لوگ ہیں؟ تو ندا دی گئی کہ اے محمد! تمہارے اوصیاء کے اسماء  
 میرے عرش کے سراقق، ۲ پر تحریر ہیں۔ اب جو میں نے نگاہ ڈالی تو بارہ نور پائے  
 اور ہر نور میں ایک سبز لکیر تھی کہ جس پر میرے وصی کا نام لکھا تھا۔ جس میں  
 سب سے پہلے علی اور آخری مہدی قائم تھے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً بیانج صفحہ ۳۸۶ پر رسول اللہؐ کے خادم ابو سلیمان سے مروی ہے کہ

۱۔ بعض روایات سے بنی ہاشم اور بعض روایات قریش سے خلفاء کی تعداد بارہ بتاتی ہیں۔  
 اور دونوں صحیح ہیں کیونکہ ائمہ علیہم السلام قریش کی شاخ سے ہیں جو بنی ہاشم سے۔ اس  
 لئے مذکورہ متن میں بنی ہاشم یا قریش کہا گیا ہے۔

۲۔ سراقق کے معنی شامیات کے ہیں اور کنگرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مخاطب کے وزن

پر ہے۔

میں نے رسول اللہؐ کو فرماتے سنا کہ۔

”جس رات مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔۔۔“ (اور پھر پوری حدیث کا ذکر کیا ہے۔ جس کے درمیان میں مذکور ہے کہ) خداوند تعالیٰ نے فرمایا اے محمدؐ! کیا تم ان کو (اپنے خلفاء کو) دیکھنے کے مشتاق ہو؟ جواب دیا۔ ہاں اے میرے پالنے والے! پروردگار نے فرمایا : عرش کے دائیں طرف دیکھو۔ اب جو میں نے نظر ڈالی تو کیا دیکھا ہوں کہ علیؑ، حسنؑ، حسینؑ، علی بن حسینؑ، محمد بن علیؑ، جعفر بن محمدؑ، موسیٰ بن جعفرؑ، علی بن موسیٰؑ، محمد بن علیؑ، علی بن محمدؑ، حسن بن علیؑ اور محمد مدنی ابن الحسنؑ عسکری اور ان سب کے درمیان محمد مدنی (امام زمان) ایک روشن اور منور ستارے کی مانند میرے اوصیاء کے درمیان درخشاں ہے۔ پھر خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔

اے محمدؐ! میرے بندوں پر یہی لوگ میری حجت ہیں۔ جو کہ تمہارے اوصیاء بھی ہیں۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً بیابغ المودۃ صفحہ ۴۸۷ پر فرائد السمعتین سے اور فراغہ میں سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عباس سے اور وہ رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا۔

”میرے بعد میرے اوصیاء اور خدا کے بندوں پر خدا کی حجت بارہ ہیں۔ ان میں کا پہلا میرا بھائی اور آخری میرا فرزند ہے۔ سوال کیا گیا : یا رسول اللہؐ! آپ کا بھائی کون ہے؟ فرمایا علیؑ، پوچھا گیا : اور آپؐ کا فرزند کون ہے؟ فرمایا مدنی۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

## حضرت مہدیؑ بارہویں امام ہیں

بیانج المودۃ صفحہ ۳۹۲ پر مناقب خوارزمی سے اور وہ حضرت امام حسینؑ سے نقل کرتے ہیں کہ۔

”میں (امام حسین) ایک روز اپنے نانا رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا : خدا نے تمہارے حلق میں سے نوا افراد کو امامت کے لئے چنا۔ جن میں سے نواں قائم ہے اور سب کے سب فضیلت اور منزلت کے لحاظ سے خدا کی بارگاہ میں مساوی ہیں۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

بیانج المودۃ صفحہ ۳۹۳ پر جناب علی علیہ السلام سے۔ معذو کر سند۔ رسول اللہؐ کی حدیث منقول ہے کہ رسالتاب نے فرمایا : میرے بعد امام بارہ ہونگے۔ اے علیؑ ان میں سب سے پہلے تم ہو اور آخری قائم۔ وہی قائم کہ جس کے ہاتھوں اللہ عزوجل زمین کے مشرق و مغرب کو فتح کروائے گا۔ (حدیث ملاحظہ ہو)

## حضرت مہدیؑ امام عصر ہیں

نیج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں : یقیناً خدا کی زمین حجت و خدا سے خالی نہیں رہتی اب چاہے یہ امام ظاہر و مشہور۔ اہویا خائف اور مستور۔

نیز گفتارانی سے اس طرح یہ جملہ نقل ہوا ہے کہ آپ (علی علیہ السلام) نے فرمایا : خدا کی زمین ایک امام اور خدا کی حجت سے خالی نہیں ہوتی، آپ چاہتے یہ امام ظاہر و مشہور، اہویا خاکف اور مستور۔ ۲۔ (تمام ہوا کلام شیخ ابیلاہ اور گفتارانی)

نیز ایک اور حدیث ہے جو فریقین کے درمیان مشہور و معروف ہے یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اس حدیث میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں۔ نیز یہ حدیث اہل سنت کے یہاں بھی مروی ہے اور اثنا عشری کے درمیان معتبر مانی جاتی ہے اور وہ یہ حدیث ہے کہ۔

”جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا تو گویا جاہلیت کی موت مرا۔“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے کا امام کون ہے؟

یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب دینے بغیر چارہ نہیں۔ دوسری طرف ہمارے عقیدے کے مطابق صرف اور صرف ”ممدی مختصر“ کا نام ہی ایسا ہے کہ جو اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ نیز یہ نام دلائل کی رو سے ثابت ہے اور احادیث و روایات بھی اسی نام کی شہادت دیتی ہیں۔

ثبوت کے طور پر چند دلائل پیش خدمت ہیں۔

اول : وہ روایات جو صراحتاً اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ ہی خلیفہ

۱۔ مشہور۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے مشہور ہو لیکن مشہور نہ ہو کیونکہ مشہور شہود سے نکالا ہے جو غیب کا متنازعہ ہے غیب یعنی پوشیدہ، مشہور یعنی مرئی جو دیکھائی دیتا ہو۔ ظاہر ہو۔

۲۔ مستور۔ پنہاں

اللہ اور حجت خدا ہیں۔

مذکورہ بالا دونوں صفات (خلیفہ اللہ، حجت خدا) کا مالک وہی شخص ہو سکتا ہے جو امام ہو۔ بالفاظ دیگر رسول اللہ کا نائب اور جانشین ہو۔

کیونکہ ہمارے نظریے کے مطابق امامت، بجز اقلیم دین و دنیا کی سربراہی اور رسول اللہ کی تیابت اور جانشینی کے کچھ نہیں۔

گزشتہ صفحات پر ان کثیر اور متعدد روایات کی روشنی میں ایک سیر حاصل بحث و استدلال اور تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جناب ابوالقاسم محمد بن الحسن العسکری ہی، امام مہدی منتظر ہیں۔

اب جبکہ آپ کا ظہور کے وقت خلیفہ اللہ اور حجت خدا ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر حال حاضر میں بھی خلیفہ اللہ اور حجت خدا ہونا ثابت اور طے شدہ امر ہے۔ اور ہم بھی امام مہدی کو انہی اوصاف و صفات کا حامل امام مانتے ہیں۔ کیونکہ مسلمین کے درمیان کوئی بھی اس مسئلے کا قائل بالفصل نہیں ہے۔

۱۔ قائل بالفصل۔ یعنی دو شتوں میں سے کسی تیسری شق کا اختیار کرنا۔ مذکورہ بالا مسئلہ میں تمام مسلمین یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی جب ظہور کریں گے تو خدا کی حجت اور خلیفہ اللہ ہوں گے۔ اور مسلمین یہ بھی کہتے ہیں کہ اجماعاً جناب مہدی اپنے والد کی وفات کے وقت پانچ یا چھ برس کے تھے اور پھر انتقال بھی نہیں کیا لہذا مسلمانوں کے اسی ”اجماعی قول“ کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی دوسری شق کو اختیار کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بنا براین یہ کہنا اور ماننا بڑے گا کہ جناب مہدی حال و حاضر میں بھی خدا کی حجت اور خلیفہ اللہ ہیں۔ نیز بقید حیات ہیں۔

بالفاظ دیگر، جو شخص ”مہدی منتظر“ کو امام عصر ماننے پر تیار نہیں تو ضروری ہے کہ وہ درج ذیل دو امور میں سے کسی ایک کا انکار کرے (یا ان کو غلط ثابت کرے)

(۱) مہدی منتظر، محمد بن الحسن العسکری ضعیف ہیں۔ (بلکہ کوئی اور ہیں)

(۲) مہدی منتظر روزِ ظہور، نہ خلیفہ اللہ ہیں اور نہ ہی خدا کی حجت۔

لیکن روایات و احادیث ان دونوں باتوں کو ثابت کرتی ہیں، لہذا (روایات کے تحت) ان دونوں میں سے کسی ایک بات کے بھی انکار کی گنجائش نہیں۔ چہ جائیکہ ان دونوں باتوں کا انکار کیا جائے (یا ان کو غلط گروانا جائے)

دوم : وہ روایات اور متعدد احادیث کہ جو گزشتہ صفحات پر قارئین کی نظر سے گزریں اور جن میں آپؑ کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا گیا اور نافرمانی و مخالفت سے منع کیا گیا۔

بلکہ بعض روایات میں تو یہ موجود ہے کہ جس نے آپؑ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے آپؑ کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔

آپؑ کی بلاقید و شرط اطاعت کا حکم اور اسی طرح نافرمانی کی ممانعت واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ آپؑ امام معصوم ہیں نیز خطاؤں سے بچنے اور بھول چوک کا بھی آپؑ کی ذات میں قطعاً کوئی امکان ہی نہیں۔

اسکے علاوہ آپؑ کی بلاقید و شرط اطاعت کا حکم اور اسی طرح نافرمانی کی مخالفت ہمیں درج ذیل دو امور سے آگاہ کرتی ہے۔

الف : حضرت مہدی معصوم ہیں، وگرنہ آپؑ کی اطاعت کا حکم (بلاقید شرط

اور بے چوں چرا) بعض اوقات خدا کی نافرمانی کا سبب اور اطاعت الہی کی ممانعت کا باعث ہو سکتا تھا۔

کیونکہ حضرت مہدی کے معصوم نہ ہونے کی صورت میں۔ یہ بات یقیناً ممکن ہے کہ آپؑ معصیت خدایا نافرمانی کا حکم دیں۔ اور اطاعت خدا سے منع کریں۔ جسکے نتیجے میں وہی امور پیش آئیں گے جن کا چند سطور پیشتر ذکر گزرا ہے۔

اسی طرح امام مہدی کے معصوم نہ ہونے کی صورت میں، امام کی اس حدیث سے کہ جس میں آپؑ (امام ابو جعفر علیہ السلام) نے فرمایا کہ۔ جس نے مہدی کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی تو اس نے خدا کی نافرمانی کی۔۔۔۔۔ یہ لازمی مشہوم نکلتا ہے کہ خدا کی مخالفت اور نافرمانی بعض اوقات خدا کی اطاعت اور بندگی کا مصداق قرار پائے اور خدا کی اطاعت و بندگی اسکی (خدا کی) مخالفت و نافرمانی میں تبدیل ہو جائے۔ جبکہ واضح ہے کہ یہ امر عقلاً محال اور ناممکن ہے۔ (یعنی نماز، خطا خدا کی اطاعت ہو اور وہی نماز اسی وقت خدا کی مخالفت اور نافرمانی بھی)

ب : آپؑ کی بلاچوں و چرا اطاعت کا حکم اور مخالفت کی ممانعت تمام لوگوں پر عائد ہے۔ یعنی آپؑ کی بلا قید و شرط اطاعت تمام لوگوں پر واجب اور مخالفت

۱۔ کیونکہ ہمیں روایات کی رو سے امام مہدی کی بے چوں و چرا اور بلا قید و شرط اطاعت کرتا ہے۔

۲۔ اگرچہ آپؑ کا یہ حکم دینا از روئے خطایا نسیان یا نادانی ہو، لیکن بہر صورت خدا کی نافرمانی ہوگی، جو ظہور حضرت مہدی کے خلاف اور اس ظہور کے مقاصد سے متضاد ہے۔



تمام لوگوں پر حرام ہے۔

اب اگر آپ (مہدیؑ) کے علاوہ ”امام“ کوئی اور ہے تو روایات و احادیث میں آپ کی اطاعت کو بلا قید و شرط اور بغیر جوں و چرا کے واجب قرار دینا سراسر غلط ہے، کیونکہ مذکورہ صورت میں اس اصلی اور حقیقی امام کی اطاعت سے روکا اور مخالفت پر اکسایا جا رہا ہے۔

سوم : وہ کثیر روایات بھی شواہد کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ جن کے مطابق مہدی منتظرؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہویں خلیفہ، بارہویں وصی، بارہویں امام یا بارہویں حجت ہیں۔ اور یہ تمام روایات گزشتہ صفحات پر موجود ہیں۔ اور یہی تمام روایات آپ کی خلافت، وصایت، امامت اور بندگان خدا پر خدا کی حجت ہونے کی صراحت اور واضح انداز سے نشاندہی کرتی ہیں۔

یہ تمام مذکورہ روایات، جناب مہدی منتظرؑ کے لئے ان تمام صفات اور مناصب، کو آپؑ کی ولادت سے وفات تک ثابت کرتی اور بتاتی ہیں کہ آپؑ گوارہ سے لحد تک ان تمام صفات و مناصب کے مالک اور حامل تھے۔ آپؑ فقط اپنے والد جناب امام حسن عسکریؑ کے زمانے میں اپنے والد کے مطیع اور فرمانبروار رہے (کیونکہ امام عسکریؑ اپنے وقت کے امام تھے)؛ لیکن ان کی شہادت کے بعد آپؑ خلیفہ اللہ اور وصی رسول اکرمؐ قرار پائے۔ اور آپؑ ہی اپنی زندگی کے آخریں ایام تک امام اور حجت خدا ہیں۔ نیز اسی بیان سے آپؑ کا حال حاضر میں بھی امام ہونا لازم آتا ہے۔ (یعنی یہ دونوں امر لازم و ملزوم ہیں)

۸۔ مناصب۔ منصب کی جمع ہے۔ منصب۔ مقام۔ عہدہ

چہارم۔ : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریقین نے روایات مستفیضہ بلکہ متواترہ نقل کی ہیں کہ جن کے مطابق آپ کے بعد ائمہ خلفاء اور اوصیاء کی تعداد بارہ ہے۔

اور بعض دیگر روایات میں ملتا ہے کہ ان کا تعلق قریش سے ہے اور بعض کے مطابق بنی ہاشم سے ہے۔ اور بعض روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان میں کے پہلے علیؑ اور آخری مہدیؑ ہیں۔ کچھ اور روایات ان تمام ائمہ کے اسماء بھی بتاتی ہیں۔

اب اگر کوئی ان تمام احادیث کا مطالعہ کرنا چاہے تو کتب احادیث کا رخ کرے، خصوصاً مسند احمد بن حنبل، اور مستدرک ابی عبد اللہ الحاکم، نیز کتب مناقب جیسے مناقب خوارزمی، فرائد السمعتین، اور ینایع المودۃ وغیرہ میں بھی یہ احادیث موجود ہیں۔

اپنے اس دعویٰ کی تائید اور اثبات کے لئے مذکورہ کتب میں منقولہ بعض روایات بطور نمونہ پیش خدمت ہیں۔ با مطابق نقل از کتاب الدرر الموسویہ فی شرح العقائد الجعفریہ۔

صحیح مسلم میں جابر بن سمیرہ سے اور وہ رسول اللہؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ قیامت نہ آجائے اور اس امت پر بارہ خلفاء (ایک کے بعد ایک) آکر نہ گزر جائیں۔ جو تمام کے تمام قریش سے ہوں۔

اسی حدیث کو علی بن محمد نے معہ ذکر شدہ نقل کیا ہے جس کے آخر میں یہ

جملہ بھی ہے کہ:

”ان (بارہ) میں سے نو حسین کے صلب سے ہونگے اور مہدی انہی نو میں سے ہے۔“

ایسی ہی ایک اور حدیث عبدالرحمن بن سمرہ سے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی

یا رسول اللہ: مجھے نجات کی طرف ہدایت کریں۔ تو آپ نے فرمایا: ”اے سمرہ! جب آراء و افکار تفرقہ اور پراگندگی کا شکار ہوں اور ہوئی و ہوس کے سبب اختلاف رونما ہو چکا ہو، تو علی کا دامن تھام لینا کیونکہ میرے بعد میری امت کا امام اور میرا خلیفہ علی ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا: اور انہی میں سے میری امت کے امام اور جو انان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، اور ان میں سے نو حسین کی اولاد سے ہیں، انہی میں نواں میری امت کا قائم ہے۔ (یعنی امام مہدی)“

ایک اور روایت ابن مغازلی سے نقل ہے، جو انہوں نے ابو امامہ سے اور انہوں نے رسول اللہ سے نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”میرے بعد بارہ امام ہونگے، تمام کے تمام قریش سے، ان میں نو حسین کے صلب سے ہیں اور مہدی انہی میں سے ہے۔“

ایک اور روایت ابو صالح نے زید بن ثابت سے اور انہوں نے رسول اللہ سے نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے تمام امور

حسین کے صلب سے ایک شخص کے ہاتھ میں نہ آجائیں کہ جو دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔“  
 زید کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا : وہ کون شخص ہے؟ فرمایا : وہ حسین کے صلب سے نواں امام ہے۔

ایک اور روایت میں حسن بن علی الرازی سے اور وہ رسول اللہؐ سے نقل کرتے ہیں جس کے آخر میں آپؐ نے فرمایا:

”ائمہ معصومین اطہار، یقیناً حسین کی نسل سے ہی ہونگے کہ انہی میں سے ایک ”مہدی“ ہے۔ وہی کہ جس کی اقتداء میں عیسیٰ بن مریم نماز ادا کریں گے۔ اور وہ (مہدی) حسین کی نویں پشت سے ہے۔“

پہچم۔ : وہ روایات جو امام مہدی کی نیت اور لوگوں کی نظر سے پنهان ہونے کے بارے میں نقل ہوئی ہیں۔ یہی روایات ظاہری بلکہ واضح اور صریح انداز سے اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپؐ (مہدی) ہی واجب الطاعت امام ہیں چاہے حاضر ہوں یا غائب، خواہ ظاہر ہوں یا مخفی۔ نیز ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آپؐ کو اسی صفت اور خصوصیت کے ساتھ پہچانے (اور آپؐ پر ایمان رکھے)

ایک اور روایت ینابیع المودة صفحہ ۳۳۸ پر سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے اور انہوں نے رسول اللہؐ سے نقل کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:  
 ”علیؑ میرے بعد میری امت کا امام ہے۔ اور اسی کی اولاد میں سے قائم مختلر ہے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اسی طرح، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے

بالحقی 'بشیر و نذیر' بنا کر بھیجا کہ اس (مہدی) کی غیبت میں اسکی امامت پر استوار اور قائم رہنے والے لوگ کبریت احمرہ سے بھی کم مقدار میں ہوں گے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً بیابح صفحہ ۴۹۳ پر مناقب خوارزمی سے اور وہ ابو جعفر محمد الباقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:

"خوشا نصیب کہ جس نے میرے اہل بیت کے قائم کو پایا اور اس کے قیام سے پہلے 'اسکی غیبت کے دوران' اسکی امامت پر ایمان رکھا، اس کے دوستوں سے محبت کی اور دشمنوں سے عداوت۔ اور یہی لوگ میرے مونس، میری مودت کے حامل اور روز قیامت میری امت کے باعزت ترین افراد ہوں گے۔"

ایضاً بیابح المودۃ صفحہ ۴۹۳ پر مناقب خوارزمی سے اور وہ جابر بن عبد اللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"اے جابر! میرے بعد میرے اوصیاء اور مسلمین کے امام آئیں گے اور ان میں سب سے پہلے علیؑ، پھر حسنؑ اسکے بعد حسینؑ اسکے بعد علی بن الحسینؑ اسکے بعد محمد بن علیؑ کہ جو باقر کے لقب سے معروف ہو گا، اور تم جلد ہی اس کو پاؤ گے۔ جب تم اس سے ملاقات کرنا تو اس تک میرا سلام پہنچانا، پھر اسکے بعد جعفر بن محمد، پھر موسیٰ بن جعفر، پھر علی بن

۱۰۔ کبریت۔ گندھک کبریت اگر سونے چاندی کے ساتھ استعمال ہو تو خالص سونے یا چاندی کے مٹوں میں ہے۔ اور بہت کم مقدار میں زرد کبریت یا سبز کبریت پایا جاتا ہے اور سب سے کم کبریت احمر یعنی سرخ کبریت پایا جاتا ہے۔

موسیٰ، پھر محمد بن علی، پھر علی بن محمد، پھر حسن بن علی، پھر القاسم کہ جس کا نام میرے نام کی طرح اور کنیت میری کنیت سے مشابہ ہے۔ (یعنی ہم کنیت و ہم نام ہے) حسن بن علی کا فرزند ہے۔ یہ وہی ہے کہ جسکے ہاتھوں خدا کرہ ارض کے مشارق و مغارب کو فتح کروائے گا۔ وہی ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کی نگاہوں سے ایک انوکھے اور عجیب انداز سے پنہاں ہے۔ اس کی امامت پر وہی ثابت قدم رہے گا کہ جس کے قلب کا خداوند تعالیٰ نے ایمان کے راہ میں امتحان لے لیا ہو۔ (یعنی آزمایا ہو) (حدیث ملاحظہ کریں)

الدرر الموسویہ میں اس طرح مذکور ہے کہ محمد بن محمد بن محمود الخافظ البخاری کہ جو ثوابہ پارما کے نام سے معروف ہیں اپنے تعلقیقہ میں جو انہوں نے کتاب فصل المخطاب پر تحریر کیا ہے، حضرت مہدی کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے ان الفاظ میں رقمطراز ہیں کہ:

آپ کی ولادت کے سلسلے میں بے شمار احادیث مروی ہیں کہ جن کے مطابق آپ مہدی صاحب الزمان ہیں اور خالق خدا کی آنکھوں سے پنہاں لیکن پھر بھی ہر عصر اور زمانے میں موجود ہیں۔ آپ کے مناقب و فضائل بے حدو حساب ہیں کہ جن کو لاتعداد روایات بیان کرتی ہیں۔ آپ کے ظہور کی برکت اور وجود کی نورانیت نیز آپ کا شریعت محمدی کو از سر نو زندہ کرنا، خدا کی راہ میں جہاد و قتال اور تمام کرہ ارض کو برائیوں سے پاک کرنا یہ سب یقینی اور ناقابل انکار حقائق ہیں۔ اسکے علاوہ آپ کے اصحاب شک و تردید سے دور، عیوب سے پاک اور راہ ہدایت کے

مالک ہیں۔ نیز حق کی راہوں کو خوب اطمینان اور مصمم ارادے کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ آپؐ ہی کے وجود پر خلافت و امامت تمام ہوگی۔ اور آپؐ اپنے والد ماجد کی وفات سے لے کر روز قیامت تک امام ہیں۔ عیسیٰؑ آپؐ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ آپؐ کی تصدیق کریں گے۔ اور لوگوں کو حضرت مہدیؑ کی امت و ملت میں شمولیت کی دعوت دیں گے، جو درحقیقت حضرت رسالتؐ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت و ملت ہے۔“ (تمام ہوا کلام خواجہ پارسا)

آیت اللہ سید حسن صدر کاظمی مرحوم اپنی کتاب استفتاء الافہام میں لکھتے ہیں کہ:

کتاب کا وہ نسخہ کہ جس پر حافظ بخاری خواجہ پارسا کا تعلیقہ تھا، وہ خود ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا اور آپؐ ہی کے سامنے اس کی تصحیح کی گئی۔ (کلام استفتاء الافہام)

### کمسن بچے کا نبی یا امام ہونا

ایک اہم اور قابل ذکر امر یہ ہے کہ جب حضرت مہدیؑ نے مسند امامت سنبھالی اور اس منصب جلیلہ پر رونق افروز ہوئے تو آپؐ کی عمر مبارک پانچ برس تھی اور آپؐ ابھی مرحلہ بلوغ کو بھی نہ پہنچے تھے۔ اب آیا یہ بات ممکن ہے؟ یا نہیں۔ اور کیا ضروری ہے کہ نبیؐ رسول اور خلیفہ ایک مخصوص سن و سال کے مالک ہوں اور پختہ عمر کی حدود میں قدم رکھ چکے ہوں؟

ذکورہ بالا سوال علم کلام (عقائد) سے تعلق رکھتا ہے اور یہی علم اس سوال

کا جو ایہ ہے، جس پر یہاں تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں۔ محضراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں (نیز حقیقت امر ہے بھی یہی) کہ امر رسالت، امامت اور نبوت صرف خداوند تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور بنی نوع انسان میں کسی کو بھی اس امر میں دخل اندازی کا حق نہیں۔

نیز یہ بات عقلی طور پر بھی ممکن ہے اور اس امر کے واقع ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک کسب پچے میں رسالت اور امامت کی شرائط کو اکٹھا کر دے۔ نیز دلائل اور روایات بھی اس امر کی گواہی دیتی ہیں۔

اسکے علاوہ عقل کی رو سے یہ امر خداوند تعالیٰ کی ذات سے ہرگز بعید از قیاس نہیں کہ وہ کسی کو اپنا ولی قرار دیتے ہوئے اس کو رسالت یا نبوت کی خلعت فارغہ پہنائے اور امام یا وصی کے منصب جلیلہ پر فائز کرے۔ دراصل حالیکہ وہ کسب بچہ ابھی سن بلوغ کو بھی نہ پہنچا ہو۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی اور خامی نہیں۔ نیز حضرت عیسیٰ و حضرت یحییٰ کا گوارے میں بات کرنا (ہمارے مدعی کا) بہترین شاہد اور منہ بولتا نبوت ہے۔

بصائر الدرجات میں علی بن اسباط سے روایت ہے کہ:

”میں نے امام جعفر کو اس وقت دیکھا کہ جب وہ میری طرف آئے، پس میں نے خوب نظریں گاڑ کر ان کے قدموں کا جائزہ لیا تاکہ اپنے ہم وطن دوستوں کو ان کے چلنے کے بارے میں بتا سکوں، معاً آپ (ابو جعفر) سجدے میں گئے اور فرمایا کہ خدا نے جس طرح نبوت پر اپنی دلیل



رحمت قائم کی اسی طرح امامت پر بھی قائم کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:  
 ”وَاتَيْنَاهُ الْحَكْمَ صَبِيًّا“ اور فرماتا ہے کہ ”وَلَمَّا بَلَغَ  
 أَشُدَّهُ“ اور فرمایا کہ ”وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً“ ۳۔

بس یہ ممکن ہے کہ کسی کو حکمت عطا ہو درآں حالیکہ وہ کم سن بچہ ہو یا کسی  
 کو حکمت عطا ہو اور وہ عمر کے چالیسویں برس میں قدم رکھ چکا ہو۔ ۴۔  
 بیابیع المروۃ صفحہ ۵۲ پر کتاب فصل الخطاب سے حضرت مہدی کی ولادت  
 کا قصہ نقل کرنے کے بعد تحریر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت مہدی کو  
 حکمت اور فصل الخطاب سے عہد طفلی ہی میں سرفراز کیا اور آپ کو عالمین کے  
 لئے آیت اور نشانی قرار دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ: ”یا یحییٰ  
 خذنا الكتاب بقوه وواتیناه العاکم صبیاً“ ۵۔

۱۔ سورہ مریم آیت ۱۲۔ ”اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں اپنی بارگاہ سے نبوت عطا  
 فرمائی۔“

۲۔ سورہ یوسف آیت ۲۲۔ ”اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم  
 (نبوت) اور علم عطا کیا۔“ سورہ قصص آیت ۱۳ میں بھی ایسا ہی مضمون ہے۔

۳۔ سورہ انفصاف آیت ۱۵۔ ”یہاں تک کہ جب وہ چالیس برس کے سن تک پہنچتا  
 ہے۔“

۴۔ کیونکہ امام ابو جعفر محمد تقی الجواد نہایت کم سنی میں امام بنے جب آپ کی عمر تقریباً  
 آٹھ برس تھی۔ اسی لئے راوی حدیث کو اس انداز سے بیان کر رہا ہے۔

۵۔ سورہ مریم۔ آیت ۱۲۔ ”اے یحییٰ! کتاب مضبوطی کے ساتھ تمام لو اور ہم نے  
 انہیں بچپن ہی میں نبوت عطا کی۔“

ایضاً قرآن مجید میں موجود ہے کہ: "قالوا کیف نكلم من كان في  
المهد صبياً قال انى: عبدالله آنانى الكتاب وجعلنى  
نبياً"۔ (تمام ہوا کلام فصل الخطاب)

ابن حجر، صواعق کے صفحہ ۱۱۴ پر امام حسن عسکری کی وفات کا واقعہ نقل  
کرنے کے بعد راقم ہیں کہ: اور ان (حسن عسکری) نے پسماندگان میں سوائے  
ابوالقاسم محمد الحجیر کے کوئی اور فرزند نہیں چھوڑا۔ اور آپ کی عمر آپ کے والد  
کے انتقال کے وقت پانچ برس تھی۔ لیکن خدا نے آپ کو اس عمر میں بھی حکمت  
عطا کی۔ (تمام ہوا کلام ابن حجر)




---

۱۔ سورہ مریم۔ آیت ۲۹-۳۰۔ "وہ لوگ بولے کہ (بھلا) ہم جسولے میں پڑے بچے  
سے کیسے بات کریں؟ اس پر وہ بچہ بولا کہ میں بے شک خدا کا بندہ ہوں۔ مجھ کو اسی نے  
کتاب (انجیل) عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی بنایا۔"

حضرت مہدیؑ کی ولادت کے بارے میں

---



---

اس فصل میں حضرت مہدیؑ کی ولادت، آپؑ کی طول عمر اور روزِ ظہور تک کی زندگی، آپؑ کا بحکمِ خدا خروج کرنا، آپؑ کے نام، لقب کتیت اور والدین کے اسماء کا تعین جیسے امور زیر بحث آئیے۔

### حضرت مہدیؑ کی ولادت

علماء کی ایک بڑی تعداد نے کہ جن میں محدث، عالم و عارف محمد خواجہ بخاری بھی شامل ہیں اپنی کتاب فصل الخطاب میں (جیسا کہ نتائج السورہ ص ۳۸۷ پر مرقوم ہے) تحریر کرتے ہیں کہ:

”امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی حکیمہ بنت امام بنو اہ علیہ السلام آپؑ (حسن عسکری) سے والہانہ محبت کرتی تھیں اور بارگاہِ خداوندی میں ہمیشہ با تضرع و دست بہ دعا تھیں کہ خدا آپؑ (عسکری) کو انکی (حکیمہ خاتون) کی زندگی میں ایک فرزند عطا کرے۔ شبِ ندر“

شعبان ۲۵۵ھ آن پہنچی تو جناب حکیمہ خاتون اپنے بھتیجے حسن عسکری سے ملنے آئیں۔ آپ نے فرمایا : اے پھوپھی! آج کی شب ہمیں ایک امر درپیش ہے اس لئے ہمیں قیام فرمائیے لہذا جناب حکیمہ نے وہیں قیام کیا، جب فجر کا وقت قریب آیا تو ایک ایکی جناب زہرا خاتون پر حالت اضطراب طاری ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر جناب حکیمہ خاتون آپ کی مدد کے لئے بڑھیں اور پھر اس وقت جناب زہرا خاتون سلام اللہ علیہا نے ایک مبارک اور بابرکت بچے کو جنم دیا۔

جناب حکیمہ نے نومولود کو دیکھا تو امام حسن عسکری کی خدمت میں لے کر آئیں، امام نے اس نومولود کو، جو مثنون بھی تھا، گود میں لیا، اپنے دست مبارک کو اسکی پشت اور آنکھوں پر پھیرا، اپنی زبان دہان میں رکھی اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔

پھر فرمایا : اے پھوپھی! اس نومولود کو اسکی ماں کے پاس لے جائیے۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں بچے کو اسکی ماں کے پاس لے گئی اور پھر اپنے گھر سے دوبارہ ابو محمد حسن عسکری کے پاس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ نومولود زرد کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے اس ایک ولفریب، جاذب نظر اور خیرہ کنندہ نور سایہ گلن ہے، اور اسی حالت میں امام عسکری کے سامنے موجود ہے۔ یہ دیکھ کر اس نومولود کی محبت میرے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ اور میں نے پوچھا : اے میرے آقا! آپ اس نومولود کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ جواب دیا کہ اے پھوپھی! یہ وہی مہدی منتظر ہے کہ جسکی ہم لوگوں کو بشارت دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بارگاہ

خداوندی میں سجدہ شکر بجالائی۔ (تمام ہوا کلام فصل الخطاب، بمطابق نقل از نتائج المودة)

کلام مصنف : جو روایات آپؐ کی ولادت کے بارے میں بتاتی ہیں ان میں اگر گزشتہ اور آئندہ ذکر ہونے والی احادیث کو پیش نظر رکھا جائے تو ان روایات کو ہم چند اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

ایک قسم تو ان احادیث کی وہ ہے کہ جو آپؐ کو بارہواں خلیفہ بتاتی ہیں۔ کچھ دوسری روایات آپؐ کے بارے میں بارہویں وحی ہونے کے بارے میں خبر دیتی ہیں۔ کچھ اور احادیث کا بیان یہ ہے کہ آپؐ بارہویں امام ہیں۔ بعض احادیث کے مطابق آپؐ امام حسین کی نوں اور امام رضا کی چوتھی پشت سے ہیں۔ نیز آپؐ ہی امام حسن عسکری کے اکلوتے فرزند ہیں۔

بعض روایات آپؐ کی غیبت کی اطلاع دیتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ آپؐ مخفی ہیں اور پہچانے نہیں جاتے۔

مذکورہ بالا احادیث مستفیضہ بلکہ متواترہ، اس امر پر یا تو صریحاً یا کنایہء دلالت کرتی ہیں کہ مہدی منتظر امام حسن عسکریؑ کے بلا فصل، اکلوتے فرزند ہیں۔ اور اس میں نہ تو کسی کو شک ہے اور نہ ہی انکار کی گنجائش۔

نیز درج ذیل چند امور میں سے کسی ایک کو ماننا ناگزیر ہے۔

۱۔ یعنی ان روایات میں کسی کو شک یا انکار کی گنجائش نہیں لیکن اگر پھر بھی کوئی شک و شبہ کا شکار ہو جائے یا ان روایات کا انکار کر بیٹھے تو پھر اسکے لئے لازمی طور سے ان پانچ امور میں سے کسی ایک کو ماننا ناگزیر ہو گا۔ اور سوائے پانچویں امر کے، اگر کسی اور امر کو مانے تو یا عقل سلیم کی مخالفت کرے گا یا قرآن و سنت سے سر تابی۔

(۱) : ان تمام روایات کو غیر معتبر اور بطلان مانا جائے۔ اور ان کی سند کو ضعیف اور معنی کو غیر واضح سمجھا جائے۔ بالفاظ دیگر سند اور معنی کے لحاظ سے ان روایات پر اعتراض کیا جائے۔

لیکن فن حدیث کا ماہر ہرگز اس بات کو نہ مانے گا، کیونکہ ائمہ حدیث کی ایک بڑی تعداد نے ان روایات کی صحت کا صراحتاً اعتراف کیا ہے اور ان کے معتبر اور مستند ہونے کی شہادت دی ہے۔ بلکہ حاکم نیشاپوری کہ جو علم حدیث کے امام اور اس فن کے ماہر ہیں انہوں نے بعض روایات کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق بھی صحیح اور معتبر ہیں۔ اب رہی بات ان روایات کی دلالت اور معنی پر اعتراض کی، تو یقیناً جیسا کہ ظاہر ہے عقل سلیم اس بات کی ہرگز اجازت نہ دے گی۔

(۲) : ان تمام روایات کو ترک کرتے ہوئے ان پر عمل نہ کیا جائے۔ اگر کوئی یہ کام کرے تو وہ رسول اللہ کی صحیح اور صریح نص کی مخالفت کرتے ہوئے، اسکے مقابلے میں من مافی کر رہا ہے اور ذاتی رائے کو بروئے کار لاتا ہے۔

نیز اس سے پیشتر یہ بات قارئین کی نظر سے گزر چکی ہے کہ ایک بڑی تعداد نے ان روایات کو تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور ان روایات کا رسول اللہ سے منقول اور منسوب ہونا یقینی اور حتمی امر ہے۔ لہذا ان روایات کو ترک کرتے ہوئے ان پر عمل نہ کرنے والا، حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مرتابی کر رہا ہے اور اس بات کو رد کر رہا ہے جو یقیناً آپ سے نقل ہوئی ہے۔ جبکہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے بارے میں فرمایا کہ: "وما یَنطِقُ عَنِ السَّوْءِ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوحِی" (سورہ نجم - آیت ۴)

۱۔ سورہ نجم - آیت ۴ "وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں۔ وہ جو بولتے ہیں سوائے وحی کے جو بھیجی جاتی ہے کچھ نہیں۔"

(۳) : یا اس بات کو مانے کہ ابو محمد حسن عسکری زندہ ہیں اور آخری زمانے تک زندہ رہیں گے یہاں تک کہ آپ کے فرزند مہدی منتظر متولد نہ ہو جائیں۔ بلکہ یہ بات کہنا اور اسکو تسلیم کرنا صحیح نہیں، کیونکہ فریقین (اہل سنت و اہل تشیع) کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام ۳۶۰ھ میں وفات پا گئے۔ اس کے علاوہ اگر آخری زمانے تک امام حسن عسکری کے زندہ رہنے (بالفاظ دیگر طول عمری کو) کو مان لیا جائے، تو حضرت مہدی کے بارے میں یہ کہنے اور تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے کہ آپ بھی ابھی تک زندہ اور باقی ہیں۔ کیونکہ دو مساوی چیزوں کے درمیان حکم لاگو ہونے اور لاگو نہ ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ البتہ جس لحاظ اور پہلو سے یہ دونوں چیزیں مساوی ہیں۔

(۴) : اس بات کو مانا جائے کہ امام حسن عسکری کی وفات واقع ہو چکی ہے۔ البتہ اس امر پر اجماع بھی قائم ہو چکا ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو آخری زمانے میں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ حضرت مہدی منتظر کی

۱۔ یہ ایک عقلی قاعدہ ہے یعنی حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد۔ کہ جو مندرج بالا متن میں ذکر ہوا۔ یعنی اگر دو چیزیں کسی ایک پہلو سے مشابہت اور مماثلت رکھتی ہیں تو اسی مشابہ اور مماثل پہلو کے لحاظ سے جو حکم ایک پر لاگو ہو سکتا ہے تو وہ حکم دوسری چیز پر بھی لاگو ہو گا۔ اور اگر کوئی حکم پہلی چیز پر لاگو نہیں ہو سکتا تو دوسری چیز پر بھی لاگو نہ ہو گا۔ یعنی امام عسکری پر تو یہ حکم لاگو ہو جائے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں اور آخری زمانے تک زندہ رہیں گے۔ لیکن اسی زندگی کا حکم امام مہدی پر لاگو نہ ہو سکے۔ جب کہ امام عسکری اور امام مہدی دونوں امامت کے لحاظ سے مشابہ اور مماثل ہیں اور اس طرح اس قاعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔



ولادت کے اسباب فراہم ہو سکیں۔

خود اس بات کے قائل کے پاس کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی برہان۔ اگرچہ یہ امر خداوند تعالیٰ کی قدرت لایزال کے پیش نظر ممکن ہے، کیونکہ خدا تمام اشیاء پر قادر ہے۔

اس امر کے فقط الوکھے پن اور حیرت انگیز ہونے کی بناء پر ہمارا مد مقابل یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں کہ حضرت مہدیؑ ابھی تک زندہ اور باقی ہیں۔ کیونکہ کسی شخص کی زندگی معمولاً اتنی طویل نہیں ہوتی۔

بلکہ امام حسن عسکریؑ کا وفات پا کر از سر نو زندہ ہونا اور فناء کے بعد دوبارہ اعادہ، امام مہدیؑ کی طولانی زندگی سے بھی زیادہ انوکھی تعجب آور اور عجیب و غریب بات ہے۔

اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ امام حسن عسکریؑ کا رحلت کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا عقیدہ رجعت کے موافق و مطابق ہے جو ہم شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے اور ہمارا فریق اور مد مقابل اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا۔

(۵) : یہ بات مانی جائے کہ حضرت ابوالقاسم محمد مہدیؑ منکھر متولد ہو چکے ہیں اور حال حاضر میں زندہ ہیں۔ نیز خداوند تعالیٰ آپ کو، آپ کا رزق و پتلا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بنی نوع انسان کے دوسرے افراد زندگی گزار رہے ہیں یہاں تک کہ جب زمین پر ظلم و ستم کی حکمرانی ہوگی تو خداوند تعالیٰ اپنے ارادے سے آپ کو ظاہر ہونے کا حکم دے گا۔ اور آپ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نیز اس وقت خداوند تعالیٰ آپ کو اصلاح کامل اور امن کے دور دورہ کی خاطر ظاہر کرے گا۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کے ہم امامیہ اثنا عشری قائل

ہیں۔

نیز حائے و حاضر میں آپ کے زندہ ہونے کے دلائل و براہین بھی عنقریب پیش کریں گے۔

ان دلائل میں سے کہ جو آپ کی ولادت پر صریحاً یا کنایہً دلالت کرتے ہیں، علماء اہل سنت کے اقوال ہیں کہ جن میں مورخین، محدثین اور دوسرے علمی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ ان علمائے اہل سنت کے اسما و درج ذیل ہیں۔

○ الفتحوحات المکیہ میں محی الدین ابن عربی۔ بمطابق نقل از اسعاف الراغبین

- شیخ عبدالوہاب شعمرانی، کتاب الیوقیت والجواہر میں
- مورخ، ابن الوروی، کتاب التاریخ میں۔ بمطابق نقل از نور الایصار
- شیخ محمد بن یوسف حنفی، کتاب الہدیان فی اخبار صاحب الزمان میں
- شیخ ابن حجر عسقلانی، صواعق محرقة میں
- سبط ابن جوزی، تذکرہ الامت میں
- شیخ محمد طہر، مطالب السنول میں
- شیخ نور الدین علی، الفصول الخمسة میں
- سید شریف ابو عبد اللہ محمد سراج الدین، صحاح الاخبار میں
- مشہور مورخ ابن خلکان، وفيات الاعیان میں
- ابن الاثیر، کتاب تاریخ میں۔ بمطابق نقل از ابن خلکان
- شیخ عارف جناب حسن العراقی۔ بمطابق نقل از الیوقیت والجواہر

- جید عالم و عارف محمد خواجہ، فصل الجلاب میں۔ بمطابق نقل از ینایع المودۃ
- سید حسن بن حسن موسیٰ شبلنجی، کتاب نور الابصار میں
- شیخ عالم عارف و اصل فاضل محقق جناب القندوزی الحنفی، ینایع المودۃ میں
- شیخ عارف جناب علی الخواص بمطابق نقل از الیوائت والجواہر
- فاضل محقق ماہر علم انساب ابو الفوز محمد اشہن بغدادی سویدی کتاب سائیک الذہب میں
- سید محقق ماہر انساب سید حسین رفاعی کتاب نور الانوار میں
- فاضل محقق جناب رفاعی اپنے زمانے کے زہرست عالم انساب تھے نیز جامعہ ازہر کے استاد بھی۔
- ینایع المودۃ میں، شیخ احمد جامی کے اشعار۔
- ینایع المودۃ میں، شیخ عطارد نیشاپوری کے اشعار۔
- ینایع المودۃ میں، مولانا جلال الدین رومی مولانا روم کے اشعار
- نیز ان کے علاوہ دوسرے محدثین، مورخین اور شعراء کے یہاں بھی امام مہدیؑ کی ولادت کا ذکر ملتا ہے۔
- بلکہ یہ بات با آسانی کہی جا سکتی ہے کہ ولادت حضرت مہدیؑ اور آپؑ کا متولد ہو جانا ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر فریقین متفق ہیں۔
- جہاں تک ہمارے علمائے شیعہ امامیہ کی بات ہے، تو ان کے درمیان نہ صرف رتی برابر بھی اختلاف وجود نہیں رکھتا بلکہ اس پر اتفاق و اجماع اظہر من الشمس ہے۔

اور ہمارے برادران اہل سنت کے درمیان کہ جس میں محمد ثین، مورخین، اور علم الانساب کے ماہر شامل ہیں، اگر کوئی ان کی کتب پر تحقیق کرے تو ان تمام کو اس بات پر متفق پائے گا کہ ابو محمد حسن عسکریؒ کا صرف ایک اکلوتا فرزند تھا کہ جس کا نام محمد لقب مدی اور کنیت ابو القاسم تھی۔ (ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں) اگرچہ چند انگشت شمار مقامات پر آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے (اہل سنت کے درمیان) جیسا کہ ابن خلکان کے کلام سے یہ عندیہ ملتا ہے اور بعض لوگ آپ کی ولادت کا ذکر کرنے کے بعد ابن خلکان کی یہ بات بھی نقل کرتے ہیں کہ: ”شیعوں کے خیال میں یہی مدی منتظر ہے۔“ اور پھر آپ کے سینکڑوں برس سے زندہ رہنے کو انوکھا، تعجب آور اور بعید از قیاس گروانتے ہیں۔ اب جبکہ حضرت ابو القاسم محمد مدی بن حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ثابت ہو چکی۔ اور گزشتہ صفحات پر مستفیضہ بلکہ متواترہ احادیث نبویؐ یا رسول اللہؐ کے صاحبان عصمت و طہارت (گھروالوں کے اقوال اور گھروالے ہی گھرانے کے بارے میں بہتر جانتے ہیں) نیز متعدد علماء کی تصریحات و اعترافات سے بھی یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ مبارک نومولود ہی مدی منتظر ہے جو آئندہ متولد نہ ہو گا۔ بلکہ متولد ہو چکا ہے۔

آپ کی صحیح تاریخ ولادت، شب نیر شعبان بوقت فجر ۲۵۶ھ ہے۔

اس حساب سے آپ کی عمر، آپ کے والد کی وفات کے وقت تقریباً پانچ برس تھی۔

## حضرت مہدی کا نام، لقب اور کنیت

ترمذی اپنی کتاب صحیح ترمذی میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔

”دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام شخص زمین پر اپنی حکومت قائم نہ کر لے۔“

ترمذی کا کہنا ہے کہ: یہ حدیث صحیح و حسن ہے اور اسی باب میں حضرت علیؑ بن ابی طالب ابو سعید، ام المومنین ام سلمہ اور جناب ابو ہریرہ سے اسی مضمون پر مشتمل روایات موجود ہیں۔

ایضا اسی صفحہ پر عبد اللہؓ سے اور وہ رسول اللہؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”زام امور کو میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام شخص ہاتھ میں لے گا۔“ (حدیث ملاحظہ ہو)

ایضا اسی صفحہ پر ابو ہریرہ سے اور وہ رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام شخص زمام امور کو ہاتھ میں لے چکے۔

ترمذی نے کہا کہ۔ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔

ابن حجر، صواعق صفحہ ۹۸ میں رقمطراز ہیں کہ: احمد، ابوداؤد، اور ترمذی نے رسول اللہؐ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپؐ فرماتے ہیں کہ: دنیا ختم نہ ہوگی یا فنانہ ہوگی، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص دنیا پر حکومت

تاقم نہ کرے جو میرا ہم نام بھی ہے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف الراغبین صفحہ ۱۲۶ پر بھی اسی طرح کی حدیث نقل ہے۔

عقد الدرر باب دوم صفحہ ۳۰ میں امام ابو بکر مقلی کی کتاب سنن سے اور وہ عبد اللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے میرے نام کا مواطات شخص دنیا پر حکومت تاقم نہ کرے۔ راوی نے ابو عبد الرحمن سے پوچھا کہ مواطات کے کیا معنی ہیں؟

جواب دیا: مشابہت اور ہم نام ہونا۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضا اسی باب صفحہ ۳۶ میں حافظ ابو نعیم کی کتاب صفحہ المہدی اور امام ابو عمرو مقلی کی کتاب سنن سے اور یہ دونوں عبد اللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خروج کرے گا جو میرا ہم نام 'اور ہم کردار ہو گا' زمین کو عدل و انصاف سے بھروے گا۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضا اسی باب میں عبد اللہ بن عمر سے رسول اللہؐ کی روایت نقل ہے کہ آپؐ نے فرمایا: آخری زمانے میں 'میری نسل سے ایک شخص خروج کرے گا جو میرا ہم نام ہے، اسکی کنیت میری کنیت کی طرح ہے۔ زمین کو عدل سے اس طرح بھروے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسی باب صفحہ ۳۱ میں حافظ ابو نعیم کی کتاب صفحہ المہدی سے اور وہ حدیثہ بن ایمان سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا ہو تب بھی خدا میرے ہم نام و ہم کردار شخص کو ظاہر کرے

گا کہ جس کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔

ایضا اسی باب صفحہ ۳۲ میں عبد اللہ بن عمر سے رسول اللہ کی ایک روایت نقل ہے کہ آپ نے فرمایا: آخری زمانے میں میری نسل سے ایک شخص خروج کرے گا کہ جو میرا ہم نام ہے، اسکی کنیت میری کنیت کی طرح ہے۔ زمین کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

یہ تھیں ان کثیر روایات میں سے کچھ روایتیں جو بطور نمونہ پیش کی گئیں، کہ جن میں آپ کے نام اور کنیت کا تعین کیا گیا ہے۔

اور عقد الدرر میں تو باقاعدہ ایک باب اس موضوع سے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اسکے علاوہ اگر بعض روایات کو بعض دوسری روایات کے ساتھ ضم کیا جائے اور مجمل وغیر واضح روایات کو صریح واضح اور مفصل روایات کے مضامین کی روشنی میں جانچا اور پرکھا جائے (جس طرح کہ گزشتہ صفحات پر احادیث نظر سے گزریں اور عنقریب دوبارہ ذکر ہوگا) تو نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کا نام مبارک محمد لقب ہمدی اور کنیت ابو القاسم ہے۔ اور یہی بات معروف و مشہور ہے۔ بعض احادیث میں (البتہ ان بعض کی تعداد ایک یا دو سے زیادہ نہیں) آپ کا نام احمد ملتا ہے۔ لیکن یہ راوی کا اپنا اجتہاد معلوم دیتا ہے۔ اور اجتہاد میں غلطی اور خطا کا امکان قرن قیاس ہے۔

اب اگر راوی کے اجتہاد کو قبول بھی کر لیا جائے تب بھی یہ ایک روایت ان بے شمار اور متعدد روایات کا مقابلہ نہیں کر سکتی (کہ جن کے مطابق آپ کا نام محمد ہے) جیسا کہ یہ بات گزشتہ صفحات میں گزری اور آئندہ بھی زیر بحث

آئے گی۔

کتاب تذکرہ الامتہ میں امام ابو محمد حسن عسکریؑ کی اولاد کے ذکر کے ذیل میں تحریر ہے کہ:

”آپ کی اولاد سے محمد امام ہیں، اور وہ محمد بن الحسن بن علی (علیہم السلام) والسلام) ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور ابو القاسم ہے اور آپ ہی خلف، حجت صاحب الزمان قائم منتظر ہیں اور آٹھویں امام ہیں۔“ (تمام ہوا اقتباس از تذکرہ الامتہ)

مطالب السؤل میں آپ کی ولادت اور حسب و نسب کا ذکر کرنے کے بعد رقمطراز ہیں کہ: ربی بات آپ کے نام کی تو نام محمد، کنیت ابو القاسم، لقب حجت اور خلف صالح ہے، نیز منتظر بھی کہا گیا ہے۔“ (تمام ہوا کلام مطالب السؤل) صواعق محرقتہ میں ابن حجر امام حسن عسکریؑ کے ذکر کے بعد تحریر کرتے ہیں کہ:

”امام حسن عسکریؑ نے اپنے اکلوتے فرزند ابو القاسم محمد حجت کے علاوہ کوئی اولاد نہ چھوڑی۔ ان کی عمر اپنے والد کے انتقال کے وقت پانچ برس تھی۔ لیکن تب بھی خداوند تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا کی۔ اور آپ کو قائم منتظر کہا جاتا ہے۔“ (تمام ہوا کلام صواعق)

نور الابصار صفحہ ۳۳۲ پر امام مدنیؒ کے احوال کے بارے میں مرقوم ہے

کہ:

”آپ کا نام محمد، کنیت ابو القاسم اور فرقہ اثنا عشری امامیہ آپ کو حجت، مدنی، خلف صالح، قائم منتظر صاحب الزمان جیسے القاب سے یاد کرتا



ہے کہ جن میں لقب مہدی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ (تمام ہوا کلام نور الابصار)

اگر ہم یہ قبول نہ کریں کہ بطور اتفاق یہ چیز رونما ہوئی ہے۔ تو نہایت الحف کی بات اور دلچسپ امر ہے کہ ائمہ کی بلا فصل اور بلا واسطہ اولادوں میں ایک بھی شخص سوائے قائم آل محمد کے ایسا نہ تھا کہ جو مہدی کے لقب سے لقب ہو۔ یقیناً ایک ایسا خاندان کہ جس کو وجود میں آئے ہوئے دو سو چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو اور جن کی اولاد ذریت کثرت سے پائی جاتی ہو اور انہوں نے اس لقب (مہدی) کو سینکڑوں بار سنا بھی ہو اسکے باوجود ان کی بلا فصل اولاد میں کسی بھی ایسے شخص کا سرے سے ناپایا جانا کہ جس کا لقب مہدی ہو ایک انوکھی اور حیرت انگیز بات ہے۔

یہ بات ممکنہ طور پر کسی جا سکتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ان لوگوں کو حضرت مہدی کے مقام و منزلت کی خاطر ایسا کرنے سے باز رکھا۔ (یعنی لوگ لا شعوری طور پر اپنا لقب مہدی نہ رکھیں)۔

### حضرت مہدی کے والدین اور ان کے اسماء

فصل چہارم میں مذکور روایات سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت مہدی مقتدر امام ابو محمد الحسن العسکری کے فرزند ہیں اور آپ کے والد کا نام حسن ہے۔ اس امر پر فرقہ شیعہ اثنا عشری کا اجماع ہے۔ نیز اہل سنت کے متعدد علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ اور ان کی منقولہ روایات بھی اسی قول کو مانتی ہیں۔ ہاں ایک آوہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت مہدی کے والد رسول اللہ کے والد کے ہم

نام ہیں۔

صحیح ابوداؤد میں ابوداؤد زر بن عبد اللہ سے اور وہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو۔۔۔۔۔ پھر روایت کے بیچ میں (زائدہ) کے یہ جملہ ہیں کہ: یقیناً خدا اس دن کو اس قدر طویل کرے گا یہاں تک کہ میری نسل سے ایک شخص کو ظاہر کرے۔

پھر اسکے بعد رسول اللہ کا یہ جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا: وہ میرا ہم نام ہو گا۔ اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہو گا۔ (ہم نام) (حدیث ملاحظہ کریں)

اس حدیث کو عقد الدرر باب دوم میں علماء کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے کہ جن میں ترمذی، ابوداؤد، اور بیہقی شامل ہیں۔

صاحب عقد الدرر رقمطراز ہیں کہ: اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ جملہ موجود ہے کہ مہدی کے والد کا نام میرے والد کی طرح ہے۔ (ہم نام)۔۔۔۔۔ سلسلہ حدیث جاری ہے۔

کلام مصنف: بعض روایات ہماری نظر سے بھی گزر چکی ہیں جن میں یہ جملہ موجود ہے کہ ”مہدی کے والد میرے والد کے ہم نام ہیں۔“

جو بات واضح ہے وہ یہ کہ اس حدیث کے نقل کا ماخذ اور منبع ابوداؤد ہی ہیں، کیونکہ ان کا دور ان تمام محدثین سے پہلے کا ہے۔

اور اسی بنا پر ہمارا کہنا یہ ہے کہ: نور الابصار صفحہ ۳۳۸ میں شبلنجی نے اس روایت کو ابوداؤد سے اور ابوداؤد نے زر بن عبد اللہ سے اور انہوں نے رسول

اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر مذکورہ جملے کے نقل کیا ہے۔ اور پھر روایت نقل کرنے کے بعد ایک جملہ اپنی طرف سے تحریر کیا ہے کہ:

”ایک روایت کے مطابق آپ (مندی) کے والد ’رسول اللہ‘ کے والد کے ہم نام ہیں۔“

جناب شیخ کا ’ابوداؤد‘ سے اس روایت کو بغیر مذکورہ جملے کے نقل کرنا اور خود ابوداؤد کا اپنی کتاب صحیح میں مذکورہ روایت کو صحیح اس جملے کے نقل کرنا، اس روایت کے صحت نقل میں اختلاف کو جنم دیتا ہے۔ اور اس روایت کے بارے میں شک و تردید میں مبتلا کرتا ہے۔ نیز اس بات کا بھی عندیہ ملتا ہے کہ ابوداؤد کی نقل کردہ اس روایت میں کمی بیشی واقع ہوئی ہے۔

لیکن اگر صحیح ابی داؤد میں منقول اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، تب بھی یہ ان متعدد اور لاتعداد روایات مستفیضہ کی مخالف اور متضاد ہے۔ جو اس ایک روایت سے مستحکم تر سند اور واضح تر معنی کی حامل ہیں۔

اسی بنا پر یہ ایک اکیلی روایت کسی توجہ کی مستحق نہیں۔

علی بن عیسیٰ اربلی اپنی کتاب کشف الغمہ میں اسی عنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ: ہمارے برادران شیعہ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے، کیونکہ ان کے نزدیک امام مندی اور ان کے والد کا نام ثابت اور شناخت شدہ ہے (کہ جو ابوداؤد کی اس روایت کے برعکس ہے۔) لیکن جمہور (مراد برادران اہل سنت ہیں)

۱۔ متعلقہ علوم میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ متواتر یا مستفیضہ روایات کا مقابلہ کوئی غیر معتبر حدیث ہرگز نہیں کر سکتی۔ اور یہ امر اہل سنت و اہل تشیع دونوں کی کتب میں ثابت شدہ ہے۔

کے مطابق زائدہ (ذکورہ حدیث کا راوی) اپنی جانب سے احادیث میں کمی جیسی یا رد و بدل کر دیا کرتا تھا۔ لہذا یہ بات ماننی پڑے گی کہ مذکورہ متنازعہ جملے کو زائدہ نے اضافہ کیا ہے۔ اور اسی بات کے ذریعے ہم اس باب کی روایات کے آپس میں ٹکراؤ اور تضاد کو ختم کر سکتے ہیں۔ (تمام ہوا کلام عیسیٰ اربلی)

کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان میں بناب ابو عبد اللہ حنفی راقم ہیں کہ:

”مجھے ابو العباس بن ابوالکرم الخشعمی نے خبر دی اور انہوں نے عمر بن معرف بغدادی سے اور انہوں نے ابوالفتح ابن ابوالقاسم ابن ابوسہیل کروشخی سے اور انہوں نے ابو عامر بن القاسم اور دیگر افراد سے اور انہوں نے ابو محمد المروری سے اور انہوں نے ابو العباس بن مرزبانی سے اور انہیں خبر دی حافظ ابو عیسیٰ نے اور ان کو عبد الیہار بن علاء عطار نے اور انہیں سفیان بن عیینہ نے خبر دی کہ میں عاصم سے اور وہ زر بن عبد اللہ سے اور وہ رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں کہ: زمام امور کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص اپنے ہاتھ میں لے گا کہ جو میرا ہم نام بھی ہو گا۔ عاصم کہتے ہیں کہ مجھے ابو صالح نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ نے کہ: اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تب بھی خدا اس دن کو اس قدر طوائفی کر دے گا جیساں تک کہ وہ شخص تمام امور کی زمام کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔“

جناب حنفی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حافظ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب جامع صحیح میں اس حدیث کو اسی انداز سے نقل کیا ہے۔ پھر جناب

عجیبی تحریر کرتے ہیں کہ:

”علامہ حسن بن الحسن لغوی نے مجھے خبر دی اپنے و مشق کی طرف  
فرستادہ مراسلے میں اور پھر جب بغداد میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو  
انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے خبر دی نصر بن ابوالفرج الخسری نے اور انکو  
ابوطالب محمد بن محمد بن ابو زید طلوی نے خبر دی کہ وہ روایت کرتے ہیں  
ابو علی تستری سے اور وہ ابو عمر ہاشمی سے اور وہ ابو علی محمد بن عمرو لوئی  
بصری سے اور ان کو خبر دی حافظ ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے  
اور ان کو مسدد نے کہ ان کو بتایا یحییٰ بن سعید نے اور انہوں نے سفیان  
سے روایت کی اور وہ عاصم سے اور وہ زہر بن عبداللہ سے اور وہ رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا: دنیا اس وقت تک  
ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی پورے  
عرب پر حکومت قائم نہ ہو جائے۔ جو میرا ہم نام ہے۔“

صاحب البیان عجیبی شافعی کا کہنا ہے کہ: میں اس حدیث کو صحیح اور حسن  
مانتا ہوں۔ نیز ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں اس حدیث کو اسی انداز میں نقل  
کیا ہے جس طرح ہم نے یہاں (البیان) پر کیا ہے۔

ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھے عثمان بن ابی شیبہ نے خبر دی اور ان کو فضل ابن  
دکین نے اور ان کو قطر نے اور قطر نے روایت کی قاسم ابن ابو مرہ سے اور  
انہوں نے ابو الطفیل سے اور انہوں نے علی سے اور انہوں نے رسول اللہ سے  
کہ آپ نے فرمایا: اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تب بھی  
خدا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اس طرح

عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔

صاحب البیان، تلمیحی شافعی کا اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ:

ابوداؤد نے اپنی کتاب سنن میں اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

ابو الحافظ ابراہیم بن محمد ازہرصر ریفینسی نے دمشق میں اور حافظ محمد بن عبد الواحد المقدسی نے جبل قاسیون میں ہمیں خبر دی کہ ان کو ابو الفتح نصر اللہ بن عبد الجامع ابن عبدالرحمن الفامی نے ہرات میں اور ان کو محمد بن عبداللہ بن محمود الطائی نے خبر دی کہ ان کو عیسیٰ بن شعیب بن اسحاق شجری نے بتایا کہ انہیں حافظ ابوالحسن محمد بن الحسن بن ابراہیم بن عاصم ابری نے خبر دی کہ یہ حدیث کتاب مناقب الشافعی میں مذکور ہے۔ نیز یہ بھی بتایا کہ زاکہ (راوی) نے اپنی جانب سے حدیث میں کچھ اضافہ کیا ہے۔ حدیث درج ذیل ہے۔

”اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تب بھی خداوند عالم اس

دن کو اتاٹھوانی کرے گا یہاں تک کہ میری نسل یا میرے اہل بیت سے

ایک شخص کو ظاہر کرے، جو میرا ہم نام ہوگا۔ اور جس کے والد کا نام

میرے والد کے نام ما ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر

کردے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔

صاحب البیان کہتے ہیں کہ: اس حدیث کو ترمذی نے نقل کیا ہے لیکن یہ

جملہ ترمذی کی حدیث میں موجود نہیں کہ ”اس کے والد کا نام میرے والد کے نام

سا ہوگا۔“ اور ابوداؤد نے بھی اسی طرح سے روایت کی ہے۔

حفاظ کرام اور معتبر راویوں کی بیشتر احادیث میں فقط یہی جملہ موجود ہے کہ وہ

میرا ہم نام ہوگا۔ اور جس راوی نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ ”اس کے والد کا نام

میرے والد کے نام سا ہو گا" وہ صرف "زائدہ" ہے، اور یہ راوی اپنی جانب سے روایات میں اضافہ کر دیتا تھا۔

اب اگر مذکورہ حدیث کو مان بھی لیا جائے، تب بھی اس کے معنی اس طرح لئے جاسکتے ہیں کہ مہدی کے والد کا نام میرے بیٹے حسین کی طرح ہے۔ کہ جس کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ گویا اس مقام پر کنیت کو نام قرار دیتے ہوئے بطور کنایہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ (مہدی) امام حسین کی نسل سے ہیں، امام حسن کی نسل سے نہیں۔

یہ بات بھی ممکن ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ: اسکے والد کا نام میرے بیٹے حسن کی طرح ہے۔ (ام نام ہے) اور حضرت مہدی کے والد کا نام بھی حسن تھا۔ تو راوی نے یہ سننے کے بعد میرے بیٹے کے بجائے والد لکھ دیا ہو، اور صرف اسی غلطی کی بنا پر بجائے میرے بیٹے، میرے والد لکھ دیا ہو جس کی وجہ سے میرا بیٹا، میرے والد پڑھا جانے لگا، اور صرف ایک نقطے کے اضافے نے معنی کو بدل کر رکھ دیا۔

لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ایک روایت کے معنی اس انداز سے کئے جائیں کہ اس روایت کا دوسری بے شمار روایات سے ٹکراؤ اور تضاد ختم ہو سکے۔ لیکن اس طرح کی توجیہ و تاویل، حدیث کے مضمون اور معنی میں غیر ضروری اور از حد و نقل اندازی ہونے کے ساتھ ساتھ بے تکلی بھی ہے۔

اس سلسلے میں سب سے مدلل اور مستحکم بات امام احمد بن حنبل کی ہے، ہمہ جن کی وقت نظر اور حدت بھر سب پر عیاں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب "مسند" کے متعدد مقامات پر تحریر کیا ہے کہ:

”اس (مہدی) کا نام میرے نام کی طرح ہے۔“ (ہم نام ہے)  
 (یعنی حدیث کو صرف اسی جملے کے ساتھ نقل کیا ہے اور متنازعہ جملہ  
 موجود نہیں)۔

نیز کتاب البیان میں صاحب کتاب رقمطراز ہیں کہ ہمیں خیردی جنتاب علامہ  
 حیدر العریب استاد الاساتذہ ابو محمد عبدالعزیز بن محمد الحسن الانصاری نے، اور وہ  
 کہتے ہیں کہ ہمیں خیردی ابو محمد عبداللہ احمد بن ابوالجہد الحمہلی نے، اور ان کو خیردی  
 ابوالقاسم بن الحصین نے، اور ان کو خیردی ابن المذہب نے اور ان کو خیردی  
 ابن حمدان نے، اور ان کو خیردی عبداللہ بن احمد ضہبل نے، اور ان کو خیردی یحییٰ  
 بن سعید نے اور ان کو سفیان بن عاصم نے اور انہوں نے روایت کی زہر بن  
 عبداللہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے  
 فرمایا: دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یا فائدہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں  
 سے ایک شخص کی حکومت پورے عرب پر نہ چھا جائے۔

حافظ ابو نعیم نے اس حدیث کے طرق رواۃ کی ایک جمع غیر تعداد کو اپنی  
 کتاب مناقب المہدی میں اکٹھا کیا ہے۔

یہ تمام طرق عاصم سے روایت کرتے ہیں۔ اور عاصم بن ابوالنجد نے زہر بن  
 عبداللہ سے اور انہوں نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے۔

انہی طرق میں سے ایک سفیان بن عیینہ ہیں (جیسا کہ پہلے بھی نقل ہوا)  
 سفیان کے طرق متعدد ہیں۔

انہی میں سے قطر بن خلیفہ ہیں، انکے طرق بھی متعدد ہیں۔

انہیں میں سے اعمش ہیں، طرق متعدد ہیں۔



انہی میں سے ابو اسحق سلیمان بن فیروز شیبانی ہیں، طرق متعدد ہیں۔

انہی میں سے حفص بن عمرو اور سفیان ثوری ہیں، طرق متعدد ہیں۔

انہی میں شعبہ ہیں، طرق متعدد ہیں۔

انہی میں سے واسط بن الحارث اور یزید بن معاویہ ابو شیبہ ہیں، ان کے

طرق دو ہیں۔

انہی میں سے سلیمان ثمرم ہیں، طرق متعدد ہیں۔

انہی میں جعفر الاحمر، قیس بن الربیع، سلیمان بن قرم اور اسباط ہیں۔

مندرجہ بالا چار افراد، ایک ہی سلسلہ سند میں واقع ہیں۔

انہی میں سے سلام ابو المنذر اور ابو شہاب محمد بن ابراہیم الکنانی ہیں، ان کے

کے طرق رواۃ بھی متعدد ہیں۔

انہی میں سے عمر بن عبید طنا فسی ہیں، ان کے طرق بھی متعدد ہیں۔

انہی میں سے ابو بکر بن عیاش ہیں، ان کے طرق بھی متعدد ہیں۔

انہی میں سے ابو الحجاج داؤد بن ابو العوف ہیں، طرق متعدد ہیں۔

انہی میں سے عثمان بن شرمہ بھی ہیں، ان کے سلسلہ رواۃ متعدد ہیں۔

انہی میں عبد الملک بن ابو عینہ ہیں۔

انہی میں محمد بن عیاش ہیں جو عمرو العامری سے روایت کرتے ہیں، طرق

متعدد ہیں۔

پھر ایک سند کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ: ہمیں خبر دی ابو عثمان نے اور ان

کو قیس نے (لیکن قیس کے نسب اور ولدیت کا ذکر نہیں کیا)

انہی میں سے عمرو بن میس الملای ہیں۔



کتاب البیان کی عبارت سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ترمذی نے اس اضافی جملے کو روایت میں نقل نہیں کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ صاحب عقد الدرر کا کلام گزشتہ صفحات پر نظر سے گزرا۔ اور جو بات عقد الدرر 'مطالب السؤل' اور الفصول المہمہ میں ذکر ہوئی ہے، جس کے مطابق ابو داؤد، ترمذی، بیہقی، ابو عمرو الحقری اور ابو نعیم نے مذکورہ روایت کو اس اضافی جملے کے ساتھ نقل کیا ہے۔

لیکن اس جملے کی حقیقت چند سطور پہلے قارئین کی نظر سے گزر چکی ہے

### کتاب مطالب السؤل میں تحریر اعتراض:

اب اگر کوئی اعتراض کرتے ہوئے یہ کہے کہ ہم آپ کی یہ بات ماننے لیتے ہیں کہ اگر کسی کے لئے کچھ صفات کو علامت اور نشانی کے طور پر بتایا جائے تو ان علامات اور نشانیوں کا حامل جب بھی پایا جائے گا، اس سے انہی صفات کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا۔ نیز اس شخص کو مذکورہ صفات کا مالک بھی گردانا جائے گا، (یہ قانون صحیح ہے) لیکن ہم مہدی موعود کے لئے روایات میں ذکر شدہ علامات و صفات کو خلف صالح یعنی (امام عصر) میں ہمیں پاتے۔ کیونکہ حضرت مہدی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کے والد اور رسول اللہ کے والد ہم نام ہیں۔۔۔ جیسا کہ حدیث نبوی میں صراحتاً ذکر ہے اور بعض راویوں نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔۔۔ لیکن یہ نشانی حضرت مہدی میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ آپ کے والد کا نام حسن ہے، جبکہ رسول اللہ کے والد کا نام عبد اللہ

۱۰ "اسم ابیہ اسم ابی" : انکے والد اور میرے والد دونوں ہم نام ہیں۔

ہے۔ اب تارمین خود فیصلہ کریں کہ حسن اور عبد اللہ میں کتنا واضح فرق ہے۔  
(یعنی لفظی شبہات بھی نہیں چہ جائیکہ ہم نام ہوں)

لہذا جب یہ صفت ہی آپ میں نہیں پائی جاتی تو آپ پر مہدی موعود ہونے کا حکم بھی لاگو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حکم اس وقت لاگو ہوتا ہے جب اسکی تمام شرائط موجود ہوں۔

اب اگر کوئی دیگر صفات اور نشانیوں کی بات کرے کہ وہ تو موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جس شخص کو مہدی مظلوم کا مصداق قرار دیا تھا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس میں یہ تمام کی تمام صفات موجود ہوں۔ اگر ایک صفت موجود نہ ہو (اور بقیہ موجود ہوں) تو مذکورہ شخص کو مہدی کا مصداق نہیں کہا جا سکتا۔ اور انہی صفات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی 'رسول اللہ اور خلف حجت کے والد کا ہم نام ہونا ہے۔ جبکہ یہ نشانی حضرت مہدی میں نہیں پائی جاتی۔ (رسول اکرم کے والد اور خلف حجت کے والد ہم نام نہیں)۔ لہذا آپ مہدی کا مصداق نہیں ہو سکتے، نیز مہدی موعود کے احکام بھی آپ پر لاگو نہ ہوں گے۔ اور یہ اعتراض بجائے خود ایک مضبوط اعتراض ہے۔

### جواب اعتراض:

اس اعتراض کا تفصیلی اور مدلل جواب دینے سے قبل ضروری ہے کہ دو نکات کو واضح کر دیا جائے۔

اول: عربی زبان میں باپ کے لفظ کو 'جد امجد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اسی انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ "ملة ابیکم

ابراہیم" ایک اور مقام پر حضرت یوسف کی داستان کے ذیل میں فرمایا کہ:  
 "وانبعت ملة آباءى ابراهيم واسحق ويعقوب"۱۰

ایسا اسی طرح حدیث اسراء (معراج) میں بھی اسی لفظ "اب" (یعنی باپ) کو رسول اللہؐ نے جد اعلیٰ کے لئے استعمال کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جو اب ملایہ تمہارے "اب" ابراہیم ہیں۔

پس ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو چلی ہے کہ "اب" (باپ) کو جد امجد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ جد کتنی ہی نسلوں قبل گزرا ہو اور کتنی ہی پشتوں کا فاصلہ ہو۔ یہ تو ہوا پہلا نکتہ۔

دوم : دوسرا نکتہ یہ ہے کہ عربی زبان میں فصاحت سے گفتگو کرنے والے افراد کی زبان اس امر سے بخوبی آشنا ہے کہ کنیت اور صفت دونوں بطور نام بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ نیز روایات میں بھی اس بات کے شواہد موجود ہیں۔ اسکے علاوہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے سہل بن سعد ساعدی کے ذریعے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہؐ نے آپ کا نام ابو تراب رکھا۔ اور آپ کو اپنے ناموں میں سب سے اچھا نام ابو تراب ہی لگتا تھا۔ پس اس روایت میں کنیت بطور نام استعمال ہوئی ہے۔

اور اسی طرح شاعر نے کہا ہے کہ:

"اجل قدرک ان تسمى مونته  
 ومن کناک فقد سماک للعرب"

۱۰۔ سورہ یوسف - آیت ۳۸: "میں (یوسف) نے تو اپنے باپ ابراہیم اور یعقوب کی پیروی کی ہے۔"

تمہاری شان و منزلت نہایت اعلیٰ ہے کہ تمہارا نام موندتہ رکھا گیا ہے۔ اور جس نے تمہاری کنیت رکھی تو اس نے لوگوں کے لئے تمہارا نام رکھا۔

اور یہ شعر اس طرح بھی بیان ہوا ہے کہ:

”ومن یصفک فقد سماک للعرب“

یعنی جس نے تمہاری صفت بیان کی یا صفت کا انتخاب کیا تو گویا اس نے لوگوں کے لئے تمہارا نام رکھا۔ (یعنی لوگ تمہیں اس نام سے پکاریں)

پس اس شعر میں نام کو کنیت اور صفت کی جگہ استعمال کیا ہے۔ اور اس

طرح کا استعمال زبان عربی میں بہت زیادہ ہے۔

اب جب کہ یہ دونوں نکتے واضح ہو چکے ہیں تو یہ بات جان لو (خدا تمہاری اپنی توفیق کے ذریعے مدد کرے) کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نواسے تھے۔ ابو محمد الحسین اور ابو عبد اللہ الحسین۔ اب چونکہ خلف صالح محمدؐ ابو عبد اللہ الحسین کی نسل سے ہیں نہ کہ ابو محمد الحسین سے، اور امام حسین کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ اور اسی کنیت کو رسول اللہؐ نے بطور نام استعمال کیا ہے۔ اور جد اعلیٰ کو بعنوان اب (باپ) استعمال کیا ہے۔ پس گویا کہ آپؐ نے فرمایا: وہ میرا ہم نام ہے۔ کیونکہ وہ (مددی) بھی محمد ہے اور میرا نام بھی محمد ہے۔ اسکے جد کا نام (ابو عبد اللہ) میرے والد کے نام سے مشابہ ہے (اور ہم نام ہے)

کیونکہ اس کا جد ابو عبد اللہ (امام حسینؑ) ہے اور میرے والد عبد اللہ ہیں۔ یہ بات آپؐ نے اس لئے حدیث میں اس انداز سے فرمائی تاکہ مختصر سے مختصر عبارت میں حضرت مددیؑ کی زیادہ سے زیادہ علامات اور نشانیوں کو بیان کریں۔

نیز اس مختصر اور جامع انداز سے امام مہدیؑ کے، امام حسینؑ کی نسل سے ہونے کی نشاندہی کریں۔

اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں اور علامات حضرت مہدیؑ میں پائی جاتی ہیں۔

اور یہ عبارت، اعتراض کا کافی و شافی جواب ہے۔ پس اسکو اچھی طرح سمجھ لو۔ (تمام ہوا اعتراض اور جواب اعتراض)

کلام مصنف : کتاب البیان میں عتجی شافعی نے اور مطالب السؤل میں محمد بن طلحہ نے اسی اعتراض کے جوابات دیئے ہیں۔ ان دونوں کی طرف سے دیئے گئے جوابات کے علاوہ چند ایک جوابات اور بھی ہیں جو ذیل میں پیش خدمت ہیں۔

(الف) : علامہ مجلسی بحار الانوار کی تیرہویں جلد میں رقمطراز ہیں کہ : ”ہمارے بعض ہم عصر علماء کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث کے ایک اور طرح سے بھی معنی کئے جا سکتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ :

امام حسن عسکریؑ یعنی حضرت مہدیؑ کے والد کی کنیت ابو محمد تھی اور رسول اللہؐ کے والد حضرت عبد اللہؐ کی کنیت بھی ابو محمد تھی۔ پس دونوں کے والد ہم کنیت تھے۔ لہذا اس حدیث میں کنیت کو نام کی جگہ استہان کیا گیا ہے۔ (تمام ہوا کلام بحار الانوار)

(ب) : بعض ہم عصر فضلاء کتاب البیان کے حلیتہ پر رقمطراز ہیں کہ : مذکورہ حدیث کے بسترین معنی اس طرح کئے جا سکتے ہیں کہ : (در حقیقت روایت اس طرح تھی۔ ”وہ میرا اور میرے والد کا ہم نام ہے۔“)

نیز کتاب الغیبہ میں منقول متعدد روایات اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت مہدی کے تین نام ہیں۔ ان میں سے ایک عبد اللہ ہے کہ جو رسول اللہ کے والد ماجد کا نام تھا۔ اور بعض گزشتہ روایات میں یہ موجود ہے کہ وہ میرے والد کا نام ہے۔

لہذا اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ دراصل حدیث اس طرح تھی: ”وہ (مہدی) میرا اور میرے والد کا نام ہے۔“  
لیکن راوی کے لئے اس حدیث کے معنی قابل فہم نہ تھے اس لئے اس نے اپنی جانب سے اس جملے کا اضافہ کر دیا کہ: ”اس کے والد کا نام“ جس کے نتیجے میں عبارت اس طرح پڑھی جانے لگی کہ ”اس کا نام میرے نام کی طرح اور میرے والد کی طرح اس کے والد کا نام ہے۔“

لیکن راوی اس حدیث کے معنی نہ سمجھ پایا اور اس بات کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کہ حضرت مہدی کے دو نام بھی ہو سکتے ہیں، راوی نے حدیث میں اپنی جانب سے اس جملے کا اضافہ کر دیا کہ: ”اس کے والد کا نام میرے والد کی طرح ہے۔“

مختصر یہ کہ اگر اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ حضرت مہدی کے تین نام ہیں تو روایت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ نیز اس طرح معنی کرنے سے دوسری روایات کے ساتھ اس کا ٹکراؤ اور تضاد بھی ختم ہو جاتا ہے۔

ہماری نظر میں ’بہترین جواب یہی ہے‘ اور ہم نے کہیں اور اس جواب کو نہیں پایا۔

(ج) : ایضا فاضل مذکور نے اس حلیقہ میں تحریر کیا ہے کہ اس بات کا امکان



بھی ہے کہ روایت و اصل اس طرح رہی ہو:

”وہ (مدنی) میرا ہم نام اور اس کا فرزند میرے والد کا ہم نام ہے۔“

کیونکہ بعض روایات کے مطابق حضرت مدنی غنظہ کی اولاد میں سے ایک کا نام عبد اللہ ہے۔ نیز کتاب ہذا (البیان) کی فصل سوم میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ لیکن غلطی سے حدیث میں تصحیف واقع ہو گئی اور بجائے اس کا فرزند اس کے والد پڑھا جائے گا۔ (تمام ہوا کلام کتاب البیان کا معلقہ)

(۱) : قاضی محقق جناب محمد رضا امامی المدرس خاتون آبادی اپنی کتاب جنات الخلود (کے جس میں ذوقِ علمی کی تسکین اور طرفانہ مطالب کو ڈھونڈنے والی آنکھوں کی ٹھنڈک موجود ہے) میں فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا جناب ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کے دو نام ہیں۔

پہلا حسن، دو سرا عبد اللہ

اب اگر جناب خاتون آبادی کی اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو مسئلہ سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ نیز ابو داؤد کی روایت کردہ حدیث، دیگر احادیث کی ہم معنی ہو جاتی ہے۔

کتاب ”جنات الخلود“ میں اگرچہ منفرد مطالب درج ہیں، لیکن یہ بات روشن ہے کہ جناب خاتون آبادی اہل تحقیق اور مطلع شخص ہیں۔ اور اگر خدا کی مدد شامل حال رہی تو انشاء اللہ ہم ان کے اس قول کے ماخذ اور منبع کو ضرور پالیں گے۔

اس کے علاوہ جناب علامہ سید شہاب الدین نجفی متیم قم کہ جو حوزہ علیہ قم

کے اساتذہ میں سے ہیں، نے مجھے بتایا ہے کہ فاضل قرظینی جناب آقا رضی اللہ عنہ نے کمرۃ اللافق کے ذیل میں وہی بات کہی ہے جو صاحب جنات المخلوٰد نے کہی تھی۔

خلاصہ کلام یہ کہ مذکورہ روایت کے جواب میں درج ذیل چند باتیں کہی جا سکتی ہیں۔

☆ یہ روایت ضعیف السند ہے کیونکہ اس روایت کی سند میں غیر موثق بلکہ مجہول یا یوں کہا جائے کہ معروف بالوضع افراد موجود ہیں اور اگر سند کے راویوں میں "زائدہ" کے نام ہی کو مد نظر رکھیں تو یہی امر روایت کے ضعیف ہونے کے لئے کافی ہے۔

☆ مذکورہ روایت کے متن میں اضطراب اور پراگندگی ہے نیز روایت کا متن یکسانیت بھی نہیں رکھتا۔ کیونکہ اسی روایت کو امام احمد بن حنبل نے مذکورہ جملے کے بغیر نقل کیا ہے۔

☆ اگرچہ تمام راویوں نے مذکورہ روایت کو ابو داؤد ہی سے نقل کیا ہے لیکن پھر بھی اس نقل میں اختلاف ہے۔ کیونکہ بعض نے تنازعہ جملے کو روایت میں نقل کیا، اور بعض راویوں نے روایت کو بغیر تنازعہ جملے کے نقل کیا ہے۔ جس کے سبب روایت کے متن میں کمی بیشی یا رد و بدل کا خدشہ ہے۔

☆ یہ روایت ان تمام روایات سے متصادم اور متضاد ہے جن کی سند اس روایت سے کہیں زیادہ مستحکم اور معنی واضح تر ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ روایت مختلف ابواب میں مروی دسیوں روایات سے بھی تضاد رکھتی ہے۔

☆ اس روایت کی تاویل کی جائے۔ اور اس کے ظاہری معنی کو ترک کرتے

ہوئے کسی اور معنی پر حمل کیا جائے۔ جیسا کہ گزشتہ سطور میں ذکر ہوا۔ اگرچہ میری نظر میں یہ تمام توجیہات اور تاویلات بعید از قیاس ہیں لیکن پھر بھی روایت کو ترک کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ ممکنہ حد تک روایات کے تضاد کو ختم کرنا، روایات کو ترک کرنے سے بہتر ہے۔

صاحب نور الابصار راقم ہیں کہ: آپ (ممدی) کے والد محمد الخالص ابن علی المادوی ابن محمد الجواد بن علی الرضا ہیں۔ آپ کی والدہ کنیز تھیں اور نام نرجس تھا۔ نیز صیقل و سوسن بھی کہا گیا ہے۔

تذکرۃ الامتہ میں مرقوم ہے کہ: آپ کے والد ابو محمد حسن عسکری بن علی بن محمد ابن الرضا ہیں اور والدہ کنیز تھیں کہ جن کا نام صیقل تھا۔ پھر امام حسن عسکری کے حالات میں مرقوم ہے کہ: آپ کی والدہ کنیز تھیں کہ جن کا نام سوسن تھا۔ (تمام ہوا کلام تذکرہ الامتہ)

کلام مصنف : صحیح قول یہ ہے کہ امام ابو محمد حسن عسکری کی والدہ کا نام حدیث تھا اور سوسن حضرت ممدی کی والدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہی بات مشہور ہے۔

### مطالب السؤل

آپ کے والد الحسن الخالص بن علی المتوکل بن محمد القانع بن علی الرضا ہیں۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ: آپ کی والدہ کنیز تھیں اور نام صیقل تھا۔ نیز تکمید بھی کہا گیا ہے۔ (تمام ہوا کلام مطالب السؤل)

کلام مصنف : ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس بات کا قائل کون ہے؟ کیونکہ

عظیم المرتبت خاتون، جناب مکلمہ، امام محمد بن علی الجواد کی بیٹی تھیں اور امام مہدی کے والد کی پھوپھی اور آپ، امام مہدی کی ولادت کے وقت موجود تھیں۔

### حضرت مہدی کی طویل عمر

گزشتہ صفحات پر مذکور روایات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ مہدی منتظر جو آخری زمانے میں ظہور کریں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہو گی، جناب ابوالقاسم محمد بن الحسن العسکری ہی کی شخصیت ہے۔ آپ شب تہہ شعبان ۲۵۶ھ کو متولد ہوئے۔ یعنی اس حساب سے آپ کی عمر مبارک گیارہ سو برس سے بھی زیادہ کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ اور صرف خداوند تعالیٰ ہی آپ کے ظہور کے وقت، شہادت، اور عمر کی مکمل مدت کا علم رکھتا ہے۔

اگرچہ یہ امر عوام الناس کی نگاہ میں خلاف معمول اور انوکھا ہے لیکن طبعی قوانین کے لحاظ سے ہرگز محال یا ناممکن نہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ دلائل و قرائن آپ کی طول عمر اور وقت ظہور تک زندہ رہنے کی گواہی دیتے ہیں۔

بالفاظ دیگر آپ کی طویل عمر، ممکنہ امور میں سے ہے، نیز دلائل بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں، لہذا اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔

### تذکرۃ الامم

امامیہ اثنا عشری اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خلفِ حجت موجود ہیں۔ زندہ

اور خدا کی جانب سے رزق وصول کرتے ہیں۔ فرقہ امامیہ آپ کی زندگی اور زندہ رہنے کے لئے چند دلائل پیش کرتے ہیں کہ جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔  
 ایک دلیل تو یہ ہے کہ کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ جن کی عمریں نہایت طویل ہیں۔ مثلاً حضرت خضرؑ اور حضرت الیاسؑ۔ کیونکہ کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا کہ ان دونوں کی عمر حال حاضر میں کتنی ہے؟  
 یہ دونوں حضرات سال میں ایک بار ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تجامت مانتے ہیں۔

توریت میں موجود ہے کہ جناب ذوالقرنین کی عمر تین ہزار سال تھی۔ لیکن مسلمانوں کے مطابق ان کی عمر ڈیڑھ ہزار برس تھی۔  
 محمد احمقؑ کا کہنا ہے کہ عوج بن عناق کی عمر تین ہزار تین سو برس تھی۔ باپ کا نام سبحان تھا اور ماں کا نام عناق۔ حضرت آدم کے زمانے میں پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ بن عمرانؑ نے اسکو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔  
 شحاک کہ جس کو بیورسب بھی کہا جاتا ہے اس نے ایک ہزار سال عمر پائی نیز قصورث بھی ایک ہزار سال بعد مرا۔

اب انبیاء کی طرف آتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے نبی تو ایسے تھے کہ جنہوں نے ہزار برس کی عمر پائی اور بعض ہزار برس کو بھی عبور کر گئے۔ جیسے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیث اور ایسے ہی دوسرے بہت سے۔  
 اسی طرح قینان نے نو سو برس، مملائل نے آٹھ سو برس، نفیل بن عبداللہ نے سات سو برس، مطیح کاہن نے کہ جس کا نام ونبیہ بن عمرو تھا چھ سو برس، عامر بن حزب نے جو عرب کا حاکم تھا پانچ سو برس کی عمر پائی۔

اسی طرح تیم اللہ بن عبدہ، سام بن نوح، کی عمریں بھی نہایت طویل تھیں۔  
 حرب بن مضاض جرمی نے چار سو برس کی عمر پائی اور اس کا شعر ہے کہ  
 ”کان لم یکن بین الجھون الی الصفا۔۔۔۔۔“  
 اور ار فھد کی عمر بھی ایسی ہی تھی۔

قیس بن سعدہ نے تین سو اسی برس کی عمر پائی، کعب بن جھ الدوسی نے  
 تین سو نوے برس کی عمر پائی۔

اسکے علاوہ جناب سلمان فارسی نے ڈھائی سو برس اور ایک نفل کے مطابق  
 تین سو برس کی عمر گزارنے کے بعد جہان فانی کو خیر باد کہا۔  
 اسکے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے طویل العمر افراد ہیں کہ جن کے اسماء کا  
 ذکر، طوالت کا باعث ہو گا۔ (تمام ہوا کلام تذکرہ الامم)

## مطالب السؤل

جہاں تک آپ کی عمر کا تعلق ہے تو آپ ﷺ (عباسی بادشاہ) کے  
 زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور دشمنوں کے اندیشے کی بناء پر پنہاں ہو گئے اور ابھی  
 تک پنہاں ہیں۔

کیونکہ کسی کا نظروں سے مخفی ہو جانا اور پھر سرے سے خیر خبر کا نہ ملنا ہرگز  
 اس بات کا باعث نہیں کہ ہم اس کی عمر کو عام انسانوں کی اوسط عمر کی طرح  
 حساب کریں اور اس کی زندگی کے اختتام کو یقینی مان لیں۔ کیونکہ پروردگار عالم  
 کی قدرت بے پایاں اور اس کا حکم نافذ ہے۔ نیز تمام بندوں پر اس بارگاہ سے  
 ایک ناقابل بیان کرم سایہ فگن ہے۔

یہی وجہ ہے کہ علمائے عظام جب بھی خداوند تعالیٰ کی قضاء و قدر کی حقیقت اور قدرت کی تہ تک رسائی کے لئے اس راہ کو طے کرنا چاہیں گے تو ان کو کوئی سہیل بھائی نہ دے گی۔ اور ان کی چشمِ حسرت اس راہ کو بصد تأسف دیکھا کرے گی مگر سوائے تاریکی، کچھ نہ دکھائی دے گا۔ اور ان کی زبان، زبان بے زبانی میں بے ساختہ پکار اٹھے گی کہ

”وما اوتینتم من العلم الا قليلاً“

”اور تم لوگوں کو علم میں سے بجز تھوڑی سی مقدار کے کچھ نہیں دیا گیا ہے۔“ (سورہ بنی اسرائیل - آیت ۸۵)

یہ بات تعجب آور ہے اور نہ ہی اس میں کوئی انوکھا پہلو ہے کہ خدا کے بعض مخلص بندے اس خصوصیت کے حامل ہوں اور ان کی عمریں ایک نہایت طویل عرصے پر محیط ہوں۔

جیسا کہ خدا نے اپنے بعض مخلص بندوں، اولیاء کرام اور اصفیاء کو اس خصوصیت سے نوازا ہے نیز اپنے بعض دشمنوں اور راندہ درگاہ مخلوق کو بھی طویل عمروں کے مہلت عطا کی۔ یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کی عمریں ہزار برس یا اس کے لگ بھگ پہنچ گئیں۔

جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء و اولیاء۔ اور خداوند تعالیٰ کے دستکارے ہوئے جیسے کہ ایلیس اور دجال۔ یا گزشتہ زمانے کی کچھ اقوام جیسے عاد و اولیٰ کہ ان کے درمیان عمروں کا تناسب ہزار برس تک پہنچ گیا تھا اور اسی طرح حضرت لقمان کی عمر بھی تھی۔

مذکورہ مثالیں اور وضاحت صرف رب العزت کی لامتناہی قدرت کے ایک

چھوٹے سے کمرٹھے کو بیان کرنے کی خاطر تھیں۔ کہ کس طرح سے خداوند تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو 'اتنی طویل عمریں عطا کیں۔

لہذا ظلف صالح علیہ السلام کی عمر بھی اگر ظہور کے نامعلوم وقت تک کے لئے طولانی ہو جائے تو اس بات میں کیا حرج اور رکاوٹ ہے؟ تاکہ بعد از ظہور آپ خداوند تعالیٰ کے امر سے وہ تمام ذمہ داریاں انجام دیں کہ جو آپ کو سونپی گئی ہیں۔ (تمام ہوا کلام مطالب السؤل)

### انسان کی طویل عمر کا راز

بلاشک یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ حفظانِ صحت کے اصولوں کا خیال رکھنے اور شریعت کے بتائے ہوئے قوانین کی پابندی کرنے سے 'بیزان قوانین پر زندگی میں مرحلہ وار عمل پیرا ہونے سے انسان کی صحت، تندرستی اور طولِ عمر بہت گہرا اور خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ اور اگر پابندی نہ کی جائے تو برعکس نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

اسی بناء پر بعض ممالک میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اموات کا تناسب گزشتہ زمانے سے کم ہو گیا ہے۔ نیز طولانی عمروں والے بھی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس دور میں ان تمام امور کا حصول، گزشتہ زمانے کی نسبت فقط حفظانِ صحت کے اصولوں کا بیشتر خیال رکھنے سے ممکن ہوا ہے۔ اور یہی امر سبب بنا کہ بہت سے ادارے اور کمپنیاں انسانی زندگی کی ایک مخصوص مدت تک کے لئے، حفظانِ صحت کے اصولوں کی پابندی جیسی شرط کے تحت ضمانت دیتی ہیں۔ جس کا نتیجہ اور اثر ہم آج کی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر



ان تمام اصولوں اور حفظانِ صحت کے قوانین کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوتا تو آج کے ترقی یافتہ دور کا باشعور انسان اس کو اتنی اہمیت نہ دیتا۔

اس بات کے ساتھ ساتھ کہ حفظانِ صحت کے اصولوں کی پابندی کرنے سے انسان کی صحت اور تندرستی پر نہایت خوشگوار اثر پڑتا ہے، یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جتنی زیادہ ان اصولوں کی پابندی ہوگی، اتنا ہی صحت اور تندرستی میں اضافہ ہوگا اور عمر طویل ہوگی۔

لوگوں کی صحت و تندرستی اور طولِ عمر ان کی زندگی گزارنے کے مقام، آب و ہوا اور رہن سہن کے طور طریقوں کے تناسب سے مختلف ہوتی ہے۔ اس امر کا بھی ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور یہی ہمارے دعوے کی بہترین دلیل ہے۔

اب اگر وہ تمام عوامل و اسباب کہ جو انسان کی صحت پر اچھا اثر ڈالتے ہیں تمام کے تمام کسی انسان کو میسر ہوں تو اس کی زندگی (دب تک خدا چاہے گا) قائم و دائم رہے گی۔

مندرجہ ذیل وہ تین عوامل ہیں جو انسان کی زندگی پر خوشگوار اور گہرا اثر رکھتے ہیں۔

اول : جب انسان محض ایک ماہ کی صورت میں اپنے باپ کے حلب میں تھا اور وہاں سے اپنی ماں کے رحم میں منتقل ہوا، پھر شکمِ مادر میں نشوونما شروع کی اور ماں ہی کی گود میں شیر خوارگی کے ایام گزارے۔ اس مرحلے تک انسان کے والدین ہی اس کی صحت و تندرستی کا عامل اور محافظ ہوتے ہیں۔ اور یہی پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں والدین پر اپنی اولاد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد

ہوتی ہے۔

اور اس ذمہ داری سے غفلت برتنے کی صورت میں کہتے ہی شیر خوار و نونمال ہیں جو ایام طفولت یا لڑکھن میں موت کے نچڑوں میں جکڑ جاتے ہیں اور اس مرحلے میں انسان کی موت کا سبب بجز باپ سے منتقل شدہ بیماری یا ماں سے وراثت میں لئے گئے مرض کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نیز ان والدین کی بے احتیاطی اور حفظانِ صحت کے اصولوں سے غفلت بھی موت کا سبب بن سکتی ہے۔

لہذا اس مرحلے پر انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صرف والدین کی تساہلی کے سبب۔ بالفاظِ دیگر بچے کا اپنی زندگی سے ہاتھ دھوٹا والدین کے افعال کا نتیجہ ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ والدین اس مرحلے میں اپنی ذمہ داری کو بطریقِ احسن ادا کریں اور بچے کی نگہداشت جیسی ذمہ داری سے عمدہ برآہ ہو سکیں۔

دوم : وہ ہوا جس میں انسان سانس لیتا ہے اور جن اشیائے خورد و نوش کو استعمال کرتا ہے۔ مائعات کہ جن سے پیاس بجھاتا ہے لباس کہ جس کو زیب تن کرتا ہے اور ماحول کہ جس میں زندگی گزارتا ہے۔۔

مختصر یہ کہ مذکورہ بالا تمام امور کیفیت، کیفیت، عمر، قوت، ضعف، زمان اور مکان کے لحاظ سے خیال رکھنا یہ وہ امور ہیں جو انسان کی صحت و سلامتی اور طولِ عمری کا باعث بنتے ہیں۔

کہتے ہی انسان ایسے ہیں کہ جن کو موت کے بے رحم ہاتھوں نے ان کی طبعی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی جالیا اور وہ مذکورہ بالا امور سے غفلت برتنے کے سبب اپنی قیمتی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

اطباء کی ایک بڑی تعداد نے تو اس بات کا صراحتاً اعلان کیا ہے کہ لقمہ اجل بن جانے والے افراد میں بہت کم اپنی طبعی عمر کو پہنچ کر مرتے ہیں۔ اکثر افراد ان بیرونی عوامل کے تحت کہ جو مذکورہ بالا امور سے غفلت برتنے کے سبب وجود میں آتے ہیں، اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں بعض اطباء و حکماء کے اقوال کو جناب فرید وجدی آفندی نے اپنی کتاب ”دائرة المعارف“ میں نقل کیا ہے۔

سوم : بیرونی عوامل، حوادث زمانہ، شدید موسمیاتی تبدیلیاں۔ جیسے موسم سرما کی لہریا گرمی کا حملہ، امراض اور مختلف درد یا مشکلات و مصائب، ذہنی پریشائیاں اور الجھنیں، کام کا شدید دباؤ وغیرہ، یہ سب وہ عوامل ہیں جن کا انسان کی صحت، تندرستی اور عمر کے طویل ہونے یا قلیل ہونے سے گہرا اور مستحکم رابطہ ہے۔

کہتے ہی لوگ تھے جن کو سردی کی زبردست لہریا گرمی کے شدید حملے نے مار دیا۔ کچھ کو درد و امراض نے موت کے گھاٹ اتارا، بعض کو مصائب اور مشکلات نے راعی ملک عدم کیا، کچھ کو ذہنی پریشائیوں اور الجھنوں نے لقمہ اجل بننے پر مجبور کیا، اور بعض کام کے شدید دباؤ کے سبب زندگی کی باڑی بار گئے۔ اگر یہ سب امور پیش نہ آتے تو وہ لوگ یقیناً ایک طویل زندگی گزارتے۔

اب اگر کوئی انسان حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرے اور مذکورہ بالا تینوں امور کا خیال رکھے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان ایک نہایت طویل عمر (البتہ خدا کے ارادے سے) پائے، اور اس زندگی کا سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک لطف اٹھائے۔

میں نے جب بھی اس موضوع کے بارے میں سوچا اور بعض متعلقہ کتب کی چھان بین کی تو مجھے انسان کے طویل العمر ہونے میں کوئی حرج اور رکاوٹ دکھائی دی اور نہ ہی کوئی ایسی دلیل ملی جو اس بات کے برخلاف امر کو ثابت کر سکے۔  
منفی دلیل کی تو بات چھوڑیئے، مجھے تو ہمیشہ اس دعوے کی سچائی کے لئے مثبت دلائل ہی ملے۔

انسان کی زندگی، اور خداوند تعالیٰ کی جانب سے اس میں ودیعت کردہ حیرانگیز طاقوتوں کا راز ابھی تک پوری طرح فاش نہیں ہو سکا ہے۔ نیز علم طب اپنی تمام تر پیش روی اور ترقی کے باوجود اس حقیقت کا پوری طرح پتہ نہ لگا سکا۔  
ہمارے ایک شناسا طبیب کا کہنا ہے کہ:

”اکثر ایسا ہوا کہ مجھے ایک مریض کے معائنہ کے لئے جانا پڑا، طبی قوانین کے مطابق مورد نظر مریض قریب المرگ تھا، اور اسکے بچنے کا امکان صرف ایک فی صد تھا، جب میں دوبارہ اس کے معائنہ کے لئے گیا تو اس کو اچھا بھلا تندرست پایا، جب کہ اس کے بچنے کا امکان ایک فی صد تھا۔“

اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ مجھے کسی مریض کے معائنہ کے لئے بلوا گیا تو میں نے برعکس صورت حال کا مشاہدہ کیا۔“

جی ہاں! یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان کا سینکڑوں برس کی عمر پانا نہایت انوکھی اور خلاف معمول بات ہے۔ کیونکہ حفظانِ صحت اور تندرستی کے تمام عوامل و اسباب کا ایک مقام پر، ہر لحاظ سے جمع ہو جانا، بجائے خود نادر الوقوع ہے۔

انسانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جس کو ان اصولوں کے مطابق زمان و مکان میسر نہیں۔ لیکن اگر ان تمام عوامل و اسباب کا ایک جگہ موجود ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر انسان کس قدر طولانی عمرائے گا؟ یہ خدا ہی بہتر جان سکتا ہے۔ یہ امر واضح ہے کہ حفظانِ صحت کے عوامل و اسباب اپنی جگہ حقیقت رکھتے ہیں، بحثِ فقط ان عوامل و اسباب کے ایک جگہ جمع ہو جانے پر ہے۔

اب جب کہ یہ بات قارئین کے لئے واضح ہو چکی ہے، اسکے علاوہ آئندہ صفحہ پر ہم جو اقتباس رسالہ 'مقتطف' سے پیش کریں گے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، سورہ صافات میں حضرت یونس کے قصے کے ذیل میں یہ آیت مبارکہ سمجھ میں آتی ہے کہ "فلولا انہ کان من المسبحین للبت فی بطنہ الی یوم یبعثون"۔ اس آیت شریفہ میں باری تعالیٰ نے ایک معمول کے مطابق اور ممکنہ امر کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یعنی یہ بات ممکن ہے کہ انسان یا کوئی اور حیوان سمندر کی تہ میں روزِ حشر تک کے لئے زندہ رہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔

### اقتباس از رسالہ 'المقتطف' - ۲

رسالہ 'مقتطف' (مجلد) ۱، صفحات ۱۳۲-۱۳۳ "بجز اگر یونس (خدا کی) تسبیح (و ذکر) نہ کرتے

۱۔ سورہ صافات - آیات ۱۳۲-۱۳۳ "بجز اگر یونس (خدا کی) تسبیح (و ذکر) نہ کرتے تو روزِ قیامت تک مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتے۔"

۲۔ 'المقتطف' کا عربی زبان کے نسخے کے جرائد میں شمار ہوا تھا۔ ۱۸۷۶ء میں بیروت سے چھپنا شروع ہوا، اس میں چھپنے والے مقالے نہایت معیاری اور (بقیہ اگلے صفحہ پر)

جس میں انسان کی عمر کے بارے میں بحث کی گئی ہے، عنوان ہے: ”آیا انسان دنیا میں ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے؟“ نیز یہ بھی بحث کی گئی ہے کہ حیات کیا ہے؟ اور موت کی کیا حقیقت ہے؟

آیا موت ہر جاندار پر قابو پا کر اسکو زیر کر سکتی ہے؟

اس میں تحریر تھا کہ: گندم کی بالی میں موجود گندم کا دانہ، ایک جاندار جسم ہے۔ نیز گندم کی یہ بالی بھی گندم کے ایک دانے سے وجود میں آئی، اور وہ گندم کا دانہ بھی ایک اور بالی سے اور وہ بالی بھی گندم کے ایک دانے سے۔۔۔۔ اور یہ سلسلہ اسی طرح طے ہوتا رہا۔

مزید برآں گندم کے دانے قدیم مصری اور آشوری تہذیب کے آثار قدیمہ میں بھی پائے گئے ہیں۔ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ گندم کی کاشت اور اس کو بطور غلہ استعمال کرتے تھے۔ اور اسی آنے کی روٹیاں بھی پکاتے تھے۔ یہ بات بھی روشن ہے کہ آج جو گندم کا دانہ موجود ہے وہ کسی صحیح اور عدم سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کو وجود میں لانے کا عامل اور سبب گندم کا وہ دانہ ہے جو اس دانے سے پہلے تھا اور انہی گندم کے دانوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ایک کے بعد ایک وجود میں آتے رہے۔ پس گندم کا یہ دانہ ایک جاندار جز ہے جو خود ایک جاندار جز کا حصہ ہے۔ اور وہ جاندار جز خود ایک جاندار جز کا حصہ ہے اور اسی طرح چھ ہزار سات ہزار بلکہ لاکھوں برس پیچھے چلے چلے جائیے۔

گندم کا یہ دانہ جس کو ہم بے حس و حرکت اور بے جان پاتے ہیں۔

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) لکھیے، والے بلند پایہ علمی سطح کے حامل ہوتے تھے۔ پھر قاہرہ منتقل ہوئے، اسکے بعد ۱۹۵۲ء میں بند ہو گیا۔

در حقیقت ہر جاندار کی طرح یہ بھی زندگی رکھتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی از سر نو شروع کرنے کے لئے فقط تھوڑا سا پانی درکار ہے۔ پس اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مندم کا دانا جو ہماری آنکھوں کے سامنے آج موجود ہے، اس کی زندگی در حقیقت آج سے لاکھوں برس پہلے شروع ہو چکی تھی۔ صرف گندم ہی نہیں بلکہ ہر اناج، دانے وار غلے اور میوہ جات پر یہ حکم لاگو کیا جا سکتا ہے۔ نیز حیوانات بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں۔

یہاں تک کہ حشرات الارض، پرندے، درندے، حتیٰ اشرف المخلوقات یعنی انسان، یہ سب اپنے والدین کے جسم کا ایک جز اور حصہ ہیں، اپنے والدین کی طرح نشوونما پاتے ہیں اور خلقت کے وہی مراحل طے کرتے ہیں جو ان کے والدین نے طے کئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے جسم کا جز بھی ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔

نسل بعد نسل آنے والے تمام انسان، پھیلی نسل کا ایک زندہ جز ہیں۔ جس طرح ایک بیج اپنے ورخت کا جز ہے۔ اور اس زندہ جز میں خرد بینی اجسام موجود ہوتے ہیں جو وہ ہو والدین کے اعضاء میں موجود خرد بینی اجسام کی طرح ہوتے ہیں۔ خرد بینی اجسام پر مشتمل یہ اعضاء، اپنی غذائیت پا کر، خلقت کے مراحل کو آگے بڑھاتے ہیں۔

بطور مثال: کھجور کی تنخلی ان مراحل کو طے کرتے ہوئے ایک ایسے ورخت میں تبدیل ہو جاتی ہے جس میں تا، ٹنٹیاں، ٹٹے کے درمیان میں پورے ورخت کو پانی پہنچانے والی نالیاں اور کھجور۔ خلاصہ یہ کہ سبھی کچھ موجود ہوتا ہے۔

یا زیتون کا بیج، جو ایک ایسے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے جس میں شامیں  
 تنہا پتے اور زیتون کا پھل، کبھی کبھار آگ آتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے  
 نباتات بھی نشوونما پاتے ہیں۔ نیز حشرات الارض کے انڈے پھلیاں، پرندے،  
 درندے، حتیٰ انسان کبھی ان مراحل کو طے کرتے ہیں۔

یہ تمام امور اظہر من الشمس ہیں اور کسی کو ان میں کلام نہیں۔ لیکن فرق  
 یہ ہے کہ یہی درخت کبھی سو برس یا ہزار برس کی عمر پاتے ہیں لیکن انسان کی عمر  
 ستر یا اسی برس سے زیادہ ساتھ نہیں دیتی۔ بہت کم افراد ایسے ہیں جن کی عمر سو  
 برس تک پہنچ سکے۔ اگرچہ وہ خوردبینی اجسام کہ جو انسان کی نسل کے سلسلہ کو  
 جاری رکھتے ہیں، زندہ رہتے ہیں لیکن جسم کے دوسرے اجزاء موت کا شکار ہو  
 جاتے ہیں۔ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن پھر بھی انسان موت سے فرار یا کم از کم  
 طویل عمر پانے کے لئے مسلسل جدوجہد اور تنگ و دو میں مصروف ہے۔ خصوصاً  
 عصر حاضر میں جب کہ امراض کا مقابلہ کرنے کے لئے ادویات اور احتیاطی تدابیر  
 کثرت سے متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی (تحقیقات کے مطابق) یہ  
 بات ثابت نہیں ہو سکی کہ کوئی انسان ایک سو بیس برس تک زندہ رہا ہو۔

لیکن ایسے سائنسدان جن کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ حیوان  
 کے جسم میں موجود اعضاء نے ریسمان لائٹنای عرصے کے لئے زندہ رہ سکتے ہیں، نیز یہ  
 امر بھی ممکن ہے کہ انسان ہزاروں برس تک زندہ رہے بشرطیکہ ایسے بیرونی  
 عوامل لاحق نہ ہوں جو اسکی رگ حیات کو قطع کر دیں۔

ان ماہر سائنسدانوں کا یہ نظریہ فقط خیال و گمان کی حد تک محدود نہیں، بلکہ  
 ان تجربات کا نچوڑ ہے جو مختلف آزمائشات کے ذریعے حاصل کئے گئے۔



ایک سرجن نے، کسی حیوان کے جسم سے ایک جز کو جدا کیا اور جدا شدہ جز کو اس مدت سے بھی زیادہ عرصے تک زندہ رکھا جب یہ جز حیوان کے جسم میں موجود ہوتا۔ یعنی اگر اس جز کو سالہا سال تک اسکی مطلوبہ غذا ملتی رہتی تو وہ جز بھی زندہ رہتا۔ پس اس تجربے کی روشنی میں یہ بات امکان پذیر ہے کہ اگر اس جز کو تا ابد اسکی مطلوبہ غذا ملتی رہے تو اسکی زندگی بھی تا ابد قائم رہے گی۔

یہ سرجن 'نیویارک کے راکنیڈ کالج سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ تجربہ مرغی کے انڈے سے حاصل کردہ ایک جنین پر انجام دیا۔ یہ جدا شدہ جز (یعنی جنین) آٹھ برس سے زیادہ تک زندہ اور نشوونما پاتا رہا۔

نیز ان کے علاوہ اور بھی ماہرین نے انسان کے جسم سے جدا شدہ مختلف اعضاء اور عضلات مثلاً قلب، جلد اور گردوں پر یہی تجربہ کیا۔ نتیجہ وہی رہا یعنی جب تک ان اعضاء کو ان کی مطلوبہ غذا ملتی رہی ان کی زندگی اور نشوونما باقی رہی۔

یہاں تک کہ جانس پیکنس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ پریل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ: تجربے کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یا تو انسانی جسم کے اعضاء ریمہ کے نیلوں میں تا ابد زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہے یا یہ بات قوی ظن و گمان قوی کے طور پر کہی جاسکتی ہے کہ یہ خائے زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ نظریہ نہایت صریح اور اہم ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وقت نظر اور ہاریک بینی سے پیش کیا گیا ہے۔

بظاہر سب سے پہلے جس سائنسدان نے حیوان کے جسمانی اجزاء پر یہ تجربہ کیا وہ جیک لوپ تھے جن کا تعلق راکنیڈ کالج سے تھا۔ انہوں نے مینڈکوں کی

افزائش نسل کا تجربہ ان کے تلقیح شدہ اندوں پر کیا تو دیکھا کہ بعض انڈے تو ایک طویل عرصے تک زندہ رہے لیکن کچھ جلد ہی ختم ہو گئے۔ اس تجربے کے سبب ان کی توجہ اس امر کی طرف گئی کہ یقیناً اس عرصے سے بھی زیادہ ان اندوں کو زندہ رکھنا ممکن ہے۔

اس کے بعد ڈاکٹر لون لوکس اور ان کی اہلیہ نے تجربے کی مدد سے یہ بات ثابت کی کہ اگر پرندے کے جنین کے جسم سے خلیہ دار اجزاء کو نمک کے محلول میں رکھا جائے اور اسکے رشد و نشوونما کے لئے موزوں مواد کی تھوڑی سی مقدار ملا دی جائے تو نشوونما شروع ہو جاتی ہے۔

تجربوں کا یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور آخر کار یہ بات سامنے آئی کہ کسی بھی حیوان کے خلیے دار اجزاء و اعضاء اگر ایسے مائع یا سینا مادہ میں ڈال دیے جائیں جس میں ان کو اپنی مطلوبہ غذا ملتی رہے تو اس صورت میں یہ زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی نشوونما بھی جاری رکھتے ہیں۔

لیکن یہ بات ثابت نہ ہو سکی کہ کیا ان خلیوں کے بوڑھے ہو جانے کی صورت میں بھی ان کی موت کا امکان ختم ہو جاتا ہے؟

اسکے بعد ڈاکٹر کارل سامنے آئے اور انہوں نے ان تجربات کو آگے بڑھایا اور ثابت کیا کہ حیوان کے جسم سے جدا شدہ اجزاء اس حیوان کی اوسط عمر سے بھی زیادہ عمر پاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربات نومبر ۱۹۱۳ء میں شروع کئے اور اس سلسلے میں کئی کٹھن مراحل کو طے کیا اور آخر کار ڈاکٹر کارل اور اسکے رفقاء کے کار کے لئے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ یہ خلیے دار اجزاء اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک کوئی بیرونی عامل ان کی موت کا سامان فراہم نہ کرے جیسے

جراثیموں کا حملہ یا غذا کی قلت۔

دوسری بات یہ کہ غلے دار اجزاء فقط زندہ رہنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ جس طرح اس حیوان کے جسم میں رہتے ہوئے نشوونما پاتے تھے، جدا ہونے کے بعد بھی نشوونما کا عمل اسی طرح جاری رکھتے ہیں۔

تیسری بات یہ کہ ان غلے دار اجزاء کے رشد اور نشوونما کا تعلق اس غذا سے بھی ہے جس میں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔

چوتھی بات یہ کہ وقت ان کے لئے کسی قسم کے برے اثرات نہیں رکھتا۔ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بوڑھے ہوتے ہیں اور نہ ہی کمزور۔ بلکہ بڑھاپے کے رتی برابر آثار بھی ان میں دکھائی نہیں دیتے۔ اور یہ اسی طرح نشوونما میں مصروف رہتے ہیں۔

یہ بات بھی تجربے کے دوران سامنے آئی کہ یہ اجزاء نشوونما کے عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ان کے نگران ماہرین اور سائنسدان ان کو مطلوبہ ماحول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کرتے رہیں۔

ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہہ جاسکتی ہے کہ جاندار اشیائے پر بڑھاپے کا طاری ہونا بذات خود کسی چیز کا سبب اور عامل نہیں بلکہ ایک شکست و ریخت کا نتیجہ ہے۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کیوں مر جاتا ہے؟ اور اسکی عمر ایک محدود حد سے کیوں تجاوز نہیں کر پاتی؟ سو برس کی عمر پانے والے تو نادر افراد ہوتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ عمر پاتے بھی ہیں تو ستر اسی برس سے آگے نہیں

بڑھ پاتے۔

جواب یہ ہے کہ: حیوانات کے اجسام مختلف اور متعدد اعضاء پر مشتمل ہوتے ہیں کہ جن کے درمیان ایک گہرا اور مضبوط رابطہ ہوتا ہے۔۔۔ یہاں تک کہ بعض اعضاء کی زندگی، کچھ دوسرے اعضاء کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اگر وہ اعضاء کسی بھی بنا پر کام کرنا چھوڑیں تو بقیہ اعضاء بھی ناکارہ ہو جائیں گے۔

ثبوت کے لئے ان مملک امراض کا حوالہ کافی ہے جو مختلف جراثیموں سے پھیلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی اوسط عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اوسط عمر ۶۰ سے ۷۰ برس سے کم ہو گئی ہے۔ بلکہ بعض انسان تو ایام طفولیت ہی میں دارفانی کو خیرباد کہہ جاتے ہیں۔

آخری بات جو تجربات کی مدد سے کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس وجہ سے نہیں مرتا کہ اس کی عمر ستر، اسی، سو یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے بلکہ انسان کی موت کا سبب وہ بیرونی عوامل ہیں جو اس کے بعض اعضاء کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ پھر انسانی جسم میں موجود تمام اعضاء کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہونے کے سبب یہ ناکارہ اور مردہ اعضاء اس بیماری کو دوسرے اعضاء میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اور پھر رفتہ رفتہ تمام اعضاء ناکارہ اور مردہ ہو جاتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

لیکن سائنسی علوم ان بیرونی عوامل کو یکسر ختم کرنے یا ان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ انسانی زندگی کا دھارا سینکڑوں برس تک رواں دواں رہے، جیسے کہ بعض درخت سینکڑوں برس تک زندہ رہتے ہیں۔

اس بات کی امید تو بہت کم ہے کہ سائنسی علوم اس ہدف تک پہنچ سکیں  
لیکن اس کے نزدیک پہنچنا بعید از قیاس امر نہیں کہ جس کے بعد انسان کی اوسط  
عمر کا تناسب بڑھ کر گونا گونا گویا تین گنا ہو جائے۔ (تمام ہوا کلام رسالہ مشققت)

### حضرت مہدی زندہ اور مرزوق ہیں

اس سے پہلے کہ ہم یہ بات ثابت کریں کہ حضرت مہدی مختصر بقید حیات  
ہیں اور باری تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق وصول کرتے ہیں، اسکے علاوہ نئی نوع  
انسان کے دیگر افراد کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ خدا آپ کو  
اعلائے کلمہ حق، عدل کی آبادی اور ظلم کی بربادی کی خاطر قیام کرنے کے لئے  
ظہور کا اذن دے، چند نکات کو واضح کرنا ضروری ہے۔

الف: سائنسی علوم اور طبیعی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات میں کوئی  
حرج نہیں کہ انسان سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس تک زندہ رہے۔ بلکہ یہ بات  
امکان پذیر ہے۔

ب: حضرت ابوالقاسم محمد بن الحسن العسکری ابن علی المہادی ابن محمد الجواد ابن  
علی الرضا ہی مہدی منتظر ہیں۔

ج: آپ مذکورہ تاریخ کو متولد ہو چکے ہیں اور امام حسن عسکریؑ کے اکلوتے  
فرزند ہیں۔ آپ کے علاوہ امام عسکریؑ کی کوئی اور اولاد ہی نہ تھی۔

”فدۃ نفوس الجمیع“

اب جب کہ قارئین نے مذکورہ بالا نکات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو ہم  
حضرت مہدی کی حیات اور مرزوق ہونے کے اثبات کے لئے درج ذیل چند امور

پیش کر رہے ہیں۔ اگر چشمِ تعصب کو بند کرتے ہوئے بانگاہ انصاف دیکھا جائے تو ان میں سے صرف ایک نکتہ ہی ہمارے دعوے کے ثبوت کے لئے کافی ہوگا۔

(۱) قاعدے اور قانون کے تحت آپ کا حال حاضر میں زندہ ہونا لازم اور ضروری امر ہے۔ کیونکہ (روایات اور احادیث متواترہ کی رو سے) ہمیں آپ کی ولادت کا یقین اور قطعی علم ہے۔ اسکے علاوہ ابھی تک کسی قابل اعتماد اور موثق شخص نے آپ کی موت کی اطلاع بھی نہیں دی ہے، لہذا ہم آپ کی موت کے بارے میں مشکوک ہیں۔

اور جہاں تک بعض مؤلفین کی تالیفات کا سوال ہے تو ان میں فقط آپ کی طویل زندگی کو بعید از قیاس سمجھنا اور اس زندگی پر اظہارِ تعجب پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جب بھی جید محدثین، معتبر مورخین اور علم انساب کے ماہرین کی کتب کی چھان بین کی، آپ کی موت کا ذکر کہیں نہ ملا۔ لہذا جب ہمیں آپ کی زندگی اور حیات پر یقین ہے اور موت پر شک، تو ہمیں قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ ہم اس شک کو علم پر ترجیح دیتے ہوئے آپ کو مردہ تصور کریں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کی طولانی زندگی خلاف معمول اور حیرت انگیز ہے، آپ کی موت پر یقین کر لینے کا سبب نہیں بن سکتا۔ اور نہ ہی ہم اس بات کی بنا پر قاعدہ اشعباب سے دست بردار ہو سکتے ہیں۔

۱۱۔ اشعباب "استعمال" کا ہم وزن کلمہ ہے۔ اور یہ علم الاصول کا قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ علم اصول میں ثابت کیا جا چکا ہے۔ اس قانون یا قاعدہ کے مطابق اگر کوئی حکم مزیشتہ زمانے میں کسی چیز پر لاگو ہوتا تھا اور ہمیں شک ہو کہ اس وقت مذکورہ حکم اس شے پر لاگو ہوتا ہے یا نہیں؟ تو مذکورہ قاعدہ اشعباب کے تحت ہم (یقیناً اگلے صفحہ پر)

حق تو یہ ہے کہ آپ کی موت کے دعویدار شخص کو اپنے دعوے کی سچائی کے لئے ثبوت پیش کرنا چاہئے۔ بخلاف اس شخص کے، جو آپ کے زندہ ہونے اور مرزوق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔

اگر موت کا دعویدار (بالفرض محال) اپنا ثبوت پیش کر بھی دے، تب بھی آپ پر مردہ ہونے کا حکم لاگو نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس صورت میں دو متضاد دعوے پیش کئے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے آپ کی موت کا دعویٰ اور دوسری طرف سے زندگی کا دعویٰ۔

اس صورت میں اس دعوے کو ترجیح اور نوبت حاصل ہوگی جس کی سند قوی اور مستحکم اور دلالت و معنی واضح ہوں۔

۲) امام مہدی کی ولادت کو قبول کر لینے کے بعد ان دو امور میں سے ایک کو ماننے بغیر چارہ نہیں۔

(الف) یا تو یہ مانا جائے کہ آپ پیدائش سے لے کر اب تک زندہ ہیں اور دیگر افراد کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا ظہور کی اجازت دے۔

(ب) یا پھر یہ کہ آپ اپنی معمول کے مطابق طبعی عمر ماننے کے بعد مر چکے ہیں اور رب العزت اپنی قدرتِ کاملہ سے آپ کو ایک معینہ وقت پر زندہ کرے

(بقیہ گذشتہ صفحہ کا حاشیہ) یہ کہیں گے کہ وہ حکم اب بھی اس شے پر لاگو ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں امام مہدی کی زندگی کا اور آپ کی پیدائش کا یقین ہے اب اگر ہم آپ کی زندگی کے بارے میں شک کریں تو اس صورت میں ہم اشعاب کے تحت اسی یقین پر باقی رہیں گے اور امام زمانہ کی زندگی کو مانیں گے۔

بلاشک و تردید پہلا امر دوسرے امر کی یا نسبت معمول سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ نیز طبعی قوانین کی رو سے بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔

برخلاف امر دوم کہ یہ بعید القیاس ہونے کے ساتھ ساتھ غیر طبعی بھی ہے۔ اسی بنا پر انبیاء اور رسولوں کا موت کے بعد از سر نو زندہ ہونا ان کے ہجرات اور ماوراء الطبیعت امور میں سے گردانا جاتا ہے۔ جب کہ طول عمر میں ایسی کوئی بات نہیں۔

(۳۳): وہ روایات جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے درمیان مسلم ہیں اور جن کے مطابق رسول کریمؐ کے بعد خلفاء اور ائمہ مسلمین کی تعداد بارہ ہوگی۔ اور جب تک ان میں سے ایک بھی موجود ہو گا دین قائم اور باقی رہے گا۔ اس بات کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ (البتہ یہ طے ہونے کے بعد کہ آپؐ ہی بارہویں خلیفہ ہیں) آپؐ حال حاضر میں زندہ ہیں۔

مگر نہ اس بات کو نہ ماننے کی صورت میں یہ لازم آئے گا کہ مسلمین کے درمیان زمانہ ہذا میں کوئی امام موجود نہ ہو، جس کے نتیجے میں یہ تمام مسلمان (حدیث نبویؐ کی رو سے) جاہلیت کی موت مریں گے۔

(۳۴): بعض روایات جو آپؐ کی غیبت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اور اس دوران لوگوں کی حالت نیز عوام الناس کے آپؐ کے وجود سے فیض حاصل کرنے کی کیفیت بتاتی ہیں جس سے یہ بات واضح طور پر سمجھی جاسکتی ہے کہ آپؐ ہو سہو دوسرے زندوں کی طرح زندہ اور مرزوق ہیں۔

بعض دوسری روایات میں آپؐ کو اپنی غیبت کے دوران ”مختصر“ کہا گیا



ہے۔

کچھ دوسری اور روایات آپؐ کی طولانی غیبت اور طویل عمر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بعض روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ ”خوشا نصیب کہ جو لوگ اس کی غیبت کے دوران اس کی امامت پر استوار اور ثابت قدم رہیں۔“

اسکے علاوہ اور بھی بہت سے دوسرے کلمات ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں اور آپؐ کی زمانہ ہذا میں حیات اور ظہور کے روز تک زندہ رہنے کو ثابت کرتے ہیں۔

بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپؐ کی ذات کے لئے غیبت اور غائب جیسے لفظ کا استعمال ہی آپؐ کی زندگی کی شہادت دیتا ہے۔

کیونکہ آپؐ کے بارے میں لفظ غیبت اور غائب کا استعمال ہی آپؐ کی زندگی پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ دو لفظ ”لفظ حضور اور حاضر کے متضاد ہیں، موت یا میت یا بعد میں تولد ہونے والے کے نہیں، جیسا کہ فاضل محترم جناب ابن ابی الحدید کا کہنا ہے۔

(۵): بعض علمائے اہل سنت نے یا تو آپؐ کے زندہ ہونے کا صراحت سے ذکر کیا ہے، یا ان کے ذکر شدہ کلمات کا لازمہ آپؐ کا حال حاضر میں زندہ ہونا ہے۔

ان میں سے ایک شیخ عبدالوہاب شعرانی ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب ”الروایات والجوہر“ میں محی الدین عربی کی کتاب ”الفتوحات المکیہ“ سے نقل کیا ہے۔ نیز گزشتہ صفحات پر کتاب اسعاف الراغبین صفحہ ۱۳۳ سے نقل کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ:

”حضرت ممدیؒ کا بلا فصل اور براہ راست امام حسن عسکریؒ کی اولاد ہونا

واضح ہے۔ نیز ۳۶۰ھ میں امام حسن عسکری کی وفات ان دو امور میں سے ایک کو ثابت کرتی ہے کہ یا تو آپؑ زندہ ہیں اور روز ظہور تک باقی رہیں گے۔ یا یہ کہ آپؑ وفات پا چکے ہیں لیکن باری تعالیٰ آپؑ کو اپنی قدرت مطلقہ سے دوبارہ زندہ کرے گا۔“

دیگر باتیں تو صحیح، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ جناب شیخ محی الدین العربیؒ از سر نو زندہ ہونے کے امکان کو اپنے سے منسوب کرنے پر راضی ہونگے۔

ایضا عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب ”الیواقیت و الجواہر“ میں جیسا کہ اسعاف الراغبین میں ان سے منقول ہے، تحریر کرتے ہیں کہ: مہدیؑ امام حسن عسکری کے فرزند ہیں۔ آپؑ کی ولادت جمعہ شعبان ۳۵۵ھ کو واقع ہوئی۔ آپؑ زندہ رہیں گے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سے ملاقات کریں۔ مجھے امام مہدیؑ کے بارے میں شیخ حسن عراقی نے اسی طرح خبر دی کہ آپؑ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کریں گے۔ اور اس بات کی موافقت ہمارے بزرگوار جناب علی الخواصؒ نے بھی کی ہے۔ (تمام ہواکام الیواقیت)

اسعاف الراغبین کی نقل کے مطابق، انہی میں سے ایک ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن محمد عتقی اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان میں لکھتے ہیں کہ:

حضرت مہدی کے انہی تک زندہ اور پردہ نجیبت میں ہونے کے دلائل میں سے حضرت عیسیٰ بن مریم، حضرت خضر اور حضرت الیاس کا انہی تک زندہ رہنا ہے۔ یہ حضرات اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ اسکے علاوہ دشمنان رب العزت میں کانا و جال، اور ابلیس ملعون شامل ہیں۔ ان سب کی زندگی اور ابھی تک باقی رہنا

کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ (تمام ہوا کلام منجی)

ان میں سے ایک (جیسا کہ یتابع المودۃ میں نقل ہوا ہے۔ شیخ عارف فاضل جناب خواجہ محمد پارسا اپنی کتاب فصل الخطاب میں حضرت مہدی کی ولادت اور خداوند تعالیٰ کا آپ کو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی طرح) ایام طفولیت ہی میں حکمت اور فصل خطاب سے نوازنے کا ذکر کرنے کے بعد رقمطراز ہیں کہ :

خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عمر کو اس طرح طولانی کیا، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کو طولانی کیا۔ (تمام ہوا کلام خواجہ پارسا)

ان ہی میں سے ایک جناب شیخ صدر الدین قنوی ہیں۔ یتابع المودۃ کی نقل کے مطابق ان کی اپنی موت کے وقت اپنے شاگردوں کو یہ وصیت تھی کہ :

میری طبی کتب اور فلسفہ و حکمت کی تصانیف کو بیچ کر جو کچھ پیسے حاصل ہوں ان کو فقراء میں بطور صدقہ تقسیم کر دینا، لیکن تقاسیر اور تصوف کی کتب کو، کتابخانہ میں احتیاط سے رکھ دینا۔ ہر رات ستر ہزار مرتبہ کلمہ توحید "لا الہ الا اللہ" کو پڑھنا اور میری طرف سے حضرت مہدی کی خدمت میں میرا سلام پہنچانا۔ (تمام ہوا کلام جناب قنوی)

کلام مصنف : یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ شیخ قنوی کا یہ جملہ حضرت مہدی کے حال حاضر میں موجود ہونے اور زندگی پر ولادت نہیں کرتا۔ کیونکہ شاید انہوں نے یہ جملہ اس امید پر کہا ہو کہ ان کے شاگرد مستقبل میں حضرت مہدی کو ان کے تولد کے بعد پائیں اور ملاقات کریں۔ لیکن پہلی بات واضح تر اور باسانی قابل فہم ہے۔

۱۔ یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ان میں سے ایک (بمطابق نقل از بیانچ) اور بیانچ میں شیخ عزیز بن محمد السنفی کی کتاب سے شیخ سعد الدین حموی ہیں جو اپنی کتاب طلیۃ الاولیاء میں اولیاء اللہ کی درجہ بندی کرتے ہیں اور پھر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اس امت کے لئے 'اہل بیت میں سے بارہ اولیاء منتخب کئے اور ان کو رسول اللہ کا خلیفہ قرار دیا۔ پھر اس کے بعد راقم ہیں کہ: اور آخری ولی وہی ہے کہ جو نبی کا آخری خلیفہ اور بارہواں نائب ہونے کے علاوہ خاتم الاولیاء بھی ہے۔ وہی ممدی صاحب الزمان ہے۔ (استفسار کے ساتھ نقل کیا گیا ہے)

ان ہی میں سے ایک شیخ شہاب الدین الممدی بھی ہیں کہ جو ملک العلماء کے نام سے مشہور ہیں۔ کتاب "الدرر الموسویہ" میں ان کی کتاب "ہدایۃ السعداء" سے نقل ہے کہ: انہوں نے بارہ اماموں کے تذکرے کے ذیل میں لکھا ہے: امام حسین علیہ السلام کی نویں پشت سے امام جید اللہ القائم الممدی

(بڑے پچھلے صفحہ کا حاشیہ) آپ جناب قونوی کی وفات کے وقت زندہ تھے جیسا کہ حال حاضر میں زندہ ہیں۔

نیز جناب قونوی کو آپ کی حیات کا علم تھا اور آپ اسکو قبول کرتے تھے۔ کیونکہ سلام اسی کو پہنچایا جاتا ہے جو زندہ ہو اور سلام پہنچانے والے کی زندگی میں وہ شخص عرصہ وجود میں قدم رکھ چکا ہو۔ یا یہ کہ جن لوگوں کے ذریعے سلام پہنچایا جا رہا ہو وہ افراد اس شخص سے ملاقات کر سکیں۔

لیکن یہاں پر جناب قونوی فرما رہے ہیں کہ میرا سلام ممدی علیہ السلام تک پہنچاؤ، یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر تمہاری ملاقات ہو تب پہنچانا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو حضرت ممدی کی زندگی اور تولد پا جانے کا علم تھا۔

ہیں۔ آپؑ نظروں سے پنہاں ہیں اور نہایت طویل عمر کے مالک بھی۔ جیسے کچھ اور مومنین نے بھی اسی طرح کی عمر پائی مثلاً حضرت عیسیٰؑ، حضرت الیاسؑ، حضرت خضرؑ، نیز کفار اور دشمنان خدا میں سے دجال اور سامری نے۔ (تمام ہوا کلام شیخ شہاب الدین)

انہی میں سے ایک اور مرشد کامل، شیخ محمد جو خواجہ پارسا کے نام سے مشہور ہیں۔ کتاب ”الدرر الموسیویہ“ میں ”ان کے اس عقیدے سے جو انہوں نے کتاب ”فصل الخطاب“ پر لکھا ہے، نقل کیا ہے کہ: خلافت اور امامت حضرت مہدیؑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ اپنے والد کے روز وفات سے روز قیامت تک کے لئے امام ہیں۔ بناب عیسیٰ بن مریمؑ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، آپ کی تصدیق کرتے ہوئے لوگوں کو آپ کی ملت کی طرف، جو ملت رسول اللہؐ ہی ہے، دعوت دیں گے۔

انہی میں سے ایک معروف محدث شیخ ابن حجر عسقلانی، صاحب کتاب ”فتح الباری فی شرح صحیح البخاری“ ہیں۔ یہ اپنی کتاب ”القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر میں کہتے ہیں جیسا کہ الفتوحات الاسلامیہ میں نقل ہے کہ: معتبر احادیث کے مطابق، حضرت مہدیؑ کے وجود پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور آپ ہی ہیں کہ جن کے زمانے میں دجال خروج کرے گا۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو گا۔ جب بھی مہدی کا نام تہا ذکر ہو تو آپ ہی کی ذات والاصفات مراد ہے۔ آپ سے پہلے کوئی بھی مہدی منتظر نہیں گزرا ہے۔ (تمام ہوا کلام ابن حجر، از کتاب المعقول المختصر بمطابق نقل از الفتوحات الاسلامیہ)

اس اہتباس میں ابن حجر کا یہ کہنا کہ ”حضرت مہدی کے وجود پر یقین  
----- کی ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔“

مذکورہ بالا افراد کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء و عرفاء ہیں جن کے فارسی  
اور عربی اشعار (جیسا کہ رینایج اور مناقب کی دیگر کتب میں موجود ہے) اس بات  
کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ تمام عرفاء و علماء حضرت مہدی مختصر کی زندگی کے قائل  
ہیں۔ نیز آپ حال حاضر میں زندہ اور مرزوق ہیں۔

ان شعراء نے آپ کی ولایت، امامت، خلافت اور رسول اللہ کی نیابت  
جیسے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کی مدح سرائی کی ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا  
ہے کہ آپ کی ذات ہی فیوضات الہی کے نزول کا وسیلہ ہے۔

اب اگر کوئی اس موضوع کے بارے میں اس معلومات سے زیادہ (جو  
کتاب ہذا میں مذکور معلومات و اطلاعات سے کہیں زیادہ ہے) چاہے تو پھر وہ  
ہمارے علمائے اعلام کی کتابوں کا رخ کرے، خصوصاً استاد المجددین خاتم المحدثین  
الحاج میرزا حسین نوری طہری (طاب ثراہ) کی کتاب ”کشف الاستار فی الغائب  
عن الانظار“ کا مطالعہ کرے۔ کیونکہ اس کتاب میں نقشہ کام کی سیرانی اور بیماری  
شفا یابی کا سامان ہے۔

### حضرت مہدی کا دیدار کرنے والے

اس عنوان کے ذیل میں ہم تازگی روح کے لئے تین حکایات نقل کریں  
گے۔ ان سے ہمارا مقصد استدلال و برہان قائم کرنا نہیں۔

شیخ عبدالوہاب شعرانی اپنی کتاب طبقات العرفاء میں، شیخ حسن عراقی کے

حالات کے ذیل میں رقمطراز ہیں:

”میں اپنے بزرگوار جناب ابو العباس الحرثی کے ہمراہ شیخ حسن عراقی کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اجازت دو تاکہ میں تمہیں شروع سے اب تک اپنی داستان زندگی اس طرح سناؤں کہ تم اپنے آپ کو، میرے لڑکپن کا دوست محسوس کرو۔ میں نے کہا بالکل سناؤ، تو انہوں نے کہا شروع کیا کہ کسی زمانے میں میں (حسن عراقی) شہر دمشق سے تعلق رکھنے والا ایک جوان کاریگر تھا۔ ہم ہر جمعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ ابو ولعب اور ناؤ نوش کی محفلیں جمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن معاخذ اوند تعالیٰ کی جانب سے میں متنبہ ہوا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آیا میں ان سب کاموں کے لئے خلق ہوا تھا؟ اس خیال کے آتے ہی میں وہاں سے نکل کر بھاگا۔ میرے دوستوں نے میرا تعاقب بھی کیا لیکن مجھے نہ پاسکے۔

دوڑتے دوڑتے میں جامع مسجد بنی امیہ میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر ایک شخص کو میں نے حضرت ممدی کی شان میں تقریر کرتے پایا۔ ان کی فضیلت اور منزلت کو سن کر میرا دل ان سے ملاقات کے لئے تڑپنے لگا۔ اس دن کے بعد سے میرا یہی معمول تھا کہ جب بھی سجدہ کرتا، باری تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ ایک روز بعد از نماز مغرب، جب کہ میں نوافل کی ادائیگی کر رہا تھا مجھے ایسا لگا کہ ایک شخص میرے پیچھے بیٹھا ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے میرا شانہ تھپتھپایا۔ اور کہا کہ: اے میرے بیٹا! خداوند تعالیٰ نے تمہاری دعا کو

مستجاب فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں ہی مددی ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ گھر تشریف لے چلئے۔ جنکا انہوں نے مثبت جواب دیا۔ اور میرے ساتھ ہوئے۔ گھر پہنچ کر مجھ سے کہا کہ مجھے ایک خالی کمرہ دے دو جس میں میں تمہارہ سکوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اسکے بعد وہ سات دن تک میرے ساتھ رہے۔" (تمام ہوا کلام شیخ حسن عراقی)

ینالغ المودۃ میں شیخ علی بن عیسیٰ اربلی سے ان کی کتاب کشف الغمۃ سے نقل کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جناب اربلی فریقین کے درمیان موثق اور معتبر مانے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ: لوگ امام مددی کے بارے میں مختلف قسم کے مافوق الفطرت قصے اور داستانیں سنا تے ہیں جن کی تفصیل بہت طولانی ہے۔ لیکن میں صرف ایسے دو قصے نقل کروں گا جو ماضی قریب سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیز میرے موثق اور معتبر دوستوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔

### پہلا واقعہ

شہر حبلہ میں کہ جو دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے، اسماعیل بن حسن نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ ہمارے بعض دوستوں نے ہمیں یہ قصہ اس طرح سنایا کہ: ہمیں اسماعیل نے اپنی زبان سے یہ داستان سنائی کہ میری دائیں ران پر مٹھی کے برابر دانٹا نکل آیا تھا۔ اطباء کو دکھایا لیکن ان سے کچھ بن نہ پڑا۔ پھر اسماعیل نے بغداد کا رخ کیا اور وہاں پرافرنجی (فرنگی، یورپی) اطباء سے علاج کروایا، لیکن انہوں نے بھی جواب دے دیا۔ مرض کو لا علاج پا کر اس نے



سامراء کے لئے رخت سفر باندھا اور امام حاوی اور امام حسن عسکری علیہما السلام کی زیارت کی۔ پھر سرداب میں گیا اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں گزرا کر دعا مانگی اور امام مدنیؒ کی خدمت میں صدائے استغااث بلند کی۔ وہاں سے وجہ کی طرف گیا، غسل کیا کپڑے پہنے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ چار گھڑ سوار ہیں جو دروازہ شہر کی جانب سے آرہے ہیں۔ ان میں سے ایک سوار ضعیف العمر اور نیزہ بردار ہے۔ ایک اور جوان ہے جو لباس فرجیہ (ایک قسم کا عربی لباس) کوزیب تن کئے ہوئے ہے۔

نیزہ بردار راستے کے دائیں جانب اور باقی دو سوار بائیں جانب تھے جبکہ لباس فرجیہ میں ملبوس جوان راستے پر چلا آ رہا تھا۔ نزدیک پہنچ کر لباس فرجیہ میں ملبوس جوان نے پوچھا کہ تم کل اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹ جاؤ گے! تو اسماعیل نے کہا: ہاں، بالکل جاؤں گا۔ پھر اسی جوان نے کہا کہ ذرا نزدیک تو آؤ تاکہ میں اس چیز کو دیکھ سکوں جس نے تمہیں شدید درد میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا تو اس جوان نے ہاتھ جوڑا کہ اس دانے کو اتنی شدت سے دبا یا کہ اسماعیل کو نہایت درد کا احساس ہوا، پھر جب جوان اپنی زمین پر بیٹھ گیا تو نیزہ بردار شخص نے اسماعیل سے کہا کہ اے اسماعیل! تم شفا یاب ہو چکے ہو۔ یہ تمہارے امام ہیں۔ اود پھر وہ سوار دوبارہ اپنی راہ پر چل پڑے۔ اسماعیل بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ امام نے کہا تم واپس جاؤ، اسماعیل نے جواب دیا میں ہرگز آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا مصلحت اسی میں ہے کہ تم لوٹ جاؤ۔ اسماعیل نے پھر کہا کہ ہرگز آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر، ضعیف العمر نیزہ بردار نے اسماعیل سے کہا کہ اے اسماعیل! تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہ زمانے کا امام تمہیں

لوٹ جانے کا حکم دے رہا ہے، لیکن تم پھر بھی اسکی تعمیل نہیں کر رہے ہو۔ یہ سن کر اسماعیل رک گیا اور امام چند قدم آگے بڑھ گئے۔

دوبارہ امام نے پلٹ کر اسکی طرف دیکھا اور کہا کہ: اے اسماعیل! جب تم بغداد پہنچو گے تو تمہیں ابو جعفر المستعرباہد (غالیفہ) ضرور اپنے دربار میں طلب کرے گا، جب تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور وہ تمہیں اپنی جانب سے سے کچھ دینا چاہے تو ہرگز نہ لینا، اور ہمارے فرزند رضا سے کہو کہ وہ تمہارے لئے ایک رقعہ علی بن عوض کے نام لکھ دے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنا ہمارا کام ہے کہ وہ تم کو، تمہاری خواہش کے مطابق، جتنا تم چاہو، دے گا۔

پھر امام اپنے اصحاب کے ہمراہ چل پڑے۔ اور اسماعیل اسی طرح کھڑا ان سواروں کو جاتا دیکھتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

پھر زمین پر غمگین ہو کر بیٹھ گیا اور ان کی جدائی کے سبب رونے لگا۔ وہاں سے سامرا آیا تو عزیزوں نے اس کو گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ یہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہے؟ تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟

اسماعیل نے کہا کہ آیا تم نے ان چاروں گھڑ سواروں کو دیکھا تھا جو شہر سے باہر آئے تھا اور پھر ساحل کی طرف گئے تھے؟ لوگوں نے جواب دیا وہ شرفاء دریا کے کنارے چرنے والے مویشیوں کے مالک تھے۔ اسماعیل نے کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ امام اور ان کے اصحاب تھے۔ وہ جوان شخص جو فریبہ ملبوس میں تھا، امام تھے۔ انہوں نے اپنے دست مبارک سے میرے دانے کو ہاتھ لگایا۔ لوگوں نے کہا ذرا ہمیں وہ جگہ دکھاؤ اس نے زخم کی وہ جگہ دکھائی، تو لوگوں نے وہاں پر زخم کا نشان تک نہ پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اسکے لباس کو پارہ پارہ کر دیا (تحرک

کے لئے) اور اسکو حمام میں لے گئے اور دوسرے لوگوں کو اسکے پاس آنے سے روک دیا تاکہ اس پر لوگوں کا اثر وہاں نہ ہو جائے۔

یہ خبر سن کر خلیفہ کا نمائندہ حمام میں آیا اور اس سے واقعہ کے متعلق استفسار کیا۔ اسماعیل کا نام 'نسب اور وطن وغیرہ پوچھا اور ہفتے کے ابتدائی ایام میں بغداد سے نکلنے کی تاریخ بھی پوچھی۔ اور پھر چلا گیا۔

اسماعیل نے وہ رات حمام میں گزار لی اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ سامراء سے روانہ ہو گیا۔ سامراء کے باہر لوگوں نے اس کو رخصت کیا۔ اور وہاں سے اس نے تھما اپنا سفر شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچا تو اس نے ایک پرانے پل پر ایک جم غفیر کو پایا جو ہر آنے والے مسافر سے اس کا نام 'نسب اور سفر کی ابتداء کا مقام پوچھ رہا تھا۔ جب یہ شخص مجمع کے قریب پہنچا تو اس سے یہی سوالات کئے۔ اور اس میں مطلوبہ نشانیاں ملتے ہیں اس پر ٹوٹ پڑے اور بطور تبرک اس کے کپڑوں کو پارہ پارہ کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔

خلیفہ کے نمائندے نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعات تحریر کر کے بغداد بھیج دیئے۔ وہاں وربار کے وزیر نے رضی الدین کو بلوایا تاکہ اس خبر کی تصدیق ہو سکے۔ رضی الدین کے جو اسماعیل کے دوستوں میں سے تھے اور سامراء جانے سے قبل اسماعیل انہی کے گھر مسمان تھا۔ رضی الدین اور ان کے ہمراہ کچھ لوگ جب اسماعیل کی ملاقات کو پہنچے تو اس کو دیکھتے ہی گھوڑے سے اترے اسماعیل نے ان لوگوں کو اپنا دانا دکھایا جہاں کسی زخم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ دیکھتے ہی رضی الدین کو غش آیا اور وہ کچھ دیر کے لئے بے ہوش ہو گئے جب اٹھے تو اسماعیل کو

اپنے ہمراہ لے کر روتے ہوئے، وزیر کے پاس پہنچے اور گویا ہوئے کہ یہ میرا بھائی اور تمام لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہے اسماعیل نے وزیر کے دریافت کرنے پر پورا قصہ دہرایا۔

تمام داستان سننے کے بعد وزیر نے ان تمام اطباء کو جنہوں نے زخم کا معائنہ کیا تھا طلب کر لیا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس زخم کا کتنے دن پہلے معائنہ کیا تھا انہوں نے جواب دیا دس دن پہلے۔ یہ سن کر اسماعیل کی ران پر زخم کی جگہ ان کو دکھائی گئی جہاں زخم کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ فرنگی اطباء بول اٹھے کہ ”یہ کام تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام ہی انجام دے سکتے ہیں۔“ وزیر نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام کس نے انجام دیا ہے۔

پھر وزیر، اسماعیل کو خلیفہ کے پاس لے گیا، خلیفہ نے بھی اسماعیل سے قصہ کو دریافت کیا اور قصہ سننے کا بعد جب اس کو ایک ہزار دینار دینا چاہے تو اس نے جواب دیا کہ: مجھ میں ان دیناروں میں سے ایک دینار بھی قبول کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی جرات۔ خلیفہ نے کہا تمہیں کس کا خوف ہے؟ جواب دیا اسی کا جس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ابو جعفر سے رتی برابر بھی کوئی شے قبول نہ کرنا۔ یہ سن کر خلیفہ رونے لگا۔

علی بن عیسیٰ اربلی کہتے ہیں کہ میں یہی قصہ کچھ لوگوں کو سنا رہا تھا اور ان میں اسماعیل کا فرزند بھی موجود تھا، لیکن میں اسکو پہچانا نہیں تھا۔ قصہ سننے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسماعیل کا بیٹا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تم نے اپنے والد کی ران کا زخم دیکھا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا لیکن یہ قصہ میں نے اپنے والد، والدہ، عزیزوں اور پڑوسیوں سے سنا ہے۔ لیکن ان کی

ران کو شفا پانے کے بعد دیکھا تھا اس پر زخم کا نشان تک نہ تھا۔ اور تو اور، زخم کی جگہ پر پال بھی نکل آئے تھے۔

جناب اربلی کہتے ہیں کہ میں نے اس قصے کے بارے میں معنی الدین محمد بن محمد اور نجم الدین حیدر بن الایسر (رحمہما اللہ) سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی تصدیق کی اور کہا کہ ہم نے اسماعیل کو شفا پانے سے پہلے اور بعد دونوں حالتوں میں دیکھا ہے۔

اسکے علاوہ اسماعیل کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ان افراد اور امامؑ سے دوبارہ ملاقات کی آرزو میں میرے والد شفا یاب ہونے کے بعد چالیس مرتبہ سامراء گئے۔

### دوسرا قصہ

سید باقی بن عطوہ العلوی الحسینی نے مجھے بتایا کہ ان کے والد عطوہ امام مہدیؑ کے وجود پر ایمان نہ رکھتے تھے اور مسلسل کہتے تھے کہ اگر امام آئیں اور مجھے میرے اس مرض سے نجات دلائیں تب میں ان کے وجود پر ایمان لاؤں گا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ہم لوگ رات کے پچھلے پہران کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے امام تک پہنچو وہ ابھی ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ یہ سنا تھا کہ ہم باہر کی طرف لپکے، لیکن کسی کو بھی نہ پایا۔ دوبارہ اپنے والد کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ابھی یہاں ایک شخص آیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے عطوہ! میں نے کہا جی فرمائیے؟ اس نے کہا میں مہدی ہوں، تمہیں تمہارے مرض سے شفا دینے تمہارے پاس آیا ہوں۔ پھر امام نے کمر کے نچلے

حصے پر ہاتھ پھیرا اور چلے گئے ہم گویا کوئی ہرن یکدم غائب ہو جائے۔  
 علی بن عیسیٰ اربلی کہتے ہیں کہ میں نے یہ قصہ عطفہ کے فرزند کے علاوہ کچھ  
 اور لوگوں سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔



نجیبت کے بارے میں نقل شدہ روایات

---

---

## غیبت کے بارے میں نقل شدہ روایات

یہ فصل حضرت مدنیؒ کی غیبتؒ اس سلسلے میں منقولہ روایات غیبت کی کیفیت، مقام اور اسکی وجوہات کے بارے میں ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپؐ کی دو غیبتیں ہیں صغریٰ اور کبریٰ۔ اسکے علاوہ غیبت میں آپؐ کے فیوضات کی ہم تک رسائی کس طرح ہوتی ہے؟ آپؐ کے وکلاء کون ہیں؟ یہ تمام امور اس فصل میں بیان کئے گئے ہیں۔

یہاں صحیح الموودہ میں فرائد المسلمین سے اور اس میں امام باقر علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے جد علی مرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:

”مدنی میری اولاد میں سے ہے۔ اس کو غیبت درپیش ہوگی، جب ظاہر ہو گا تو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔“



ایضاً ینایح علی میں سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عباس سے اور وہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”علی میرا وصی ہے۔ اور اسی کی اولاد سے قائم منکر ہے۔ وہی جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھردے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے تخی بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اسی غیبت کے دوران، اسکی امامت پر قائم اور ثابت قدم رہنے والے لوگ یقیناً کبریت احمر سے بھی کم مقدار میں ملیں گے۔“ جب سلسلہ کلام جب اس مقام پر پہنچا تو جناب جابر بن عبد اللہ انصاری اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور کہا: یا رسول اللہ! آپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے اس قائم کو غیبت بھی درپیش ہوگی؟ جواب دیا بالکل، خدا کی قسم (پھر سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۱ تلاوت فرمائی) ”لیمحص اللہ النین آمنوا ویمحق الکافرین“۔ پھر فرمایا: اے جابر! یہ خدا کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے اور اسکے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور دیکھو! اس امر میں ہرگز شک نہ کرنا۔ کیونکہ خداوند عزوجل کے امور میں شک کرنا کفر ہے۔“

ایضاً حسن بن خالد سے نقل ہے کہ علی بن موسی الرضا نے فرمایا: میری چوتھی نسل سے میرا فرزند ہے جو کئیوں کی ملکہ کا بیٹا ہے۔ خدا اس کے ذریعے زمین کو ظلم و جور سے پاک کرے گا، وہی ہے کہ جسکی ولادت کے بارے میں لوگ شک میں جتا ہوں گے اور وہی صاحب غیبت ہے۔ جب ظہور کرے گا تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً ینایح پر احمد بن زیاد سے اور وہ دعل بن علی الخضر اعمی سے وہ

حدیث نقل کرتے ہیں جس میں دلیل نے اپنا معروف قصیدہ تائبہ امام رضا کی خدمت میں پڑھ کر سنایا۔ پھر امام نے کہا کہ : میرے بعد میرا بیٹا محمد امام ہوگا پھر اسکے بعد اس کا فرزند علی اور اس کے بعد اسکا فرزند حسن اور اسکے بعد اس کا فرزند الحجۃ القائم اور وہی ہے کہ جس کی غیبت کے دوران اس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ظہور کے بعد اسکی اطاعت کی جائے گی۔ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اب یہی بات اس کے ظہور کے وقت کی تو ایسا ہے جیسا کوئی قیامت کے وقت کے بارے میں خبر دے۔ مجھے میرا والد نے اپنے اجداد سے اور انہوں نے رسول اللہ سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے ظہور کی مثال قیامت جیسی ہے۔ ”لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً“ وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی لیکن اچانک۔ (سورہ اعراف۔ آیت ۱۸) ینابیع المودۃ میں غایۃ المرام سے اور اس میں فرائد المسلمین سے اور اس میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے مرفوعاً نقل ہے کہ : مہدی میری اولاد سے ہے (یعنی رسول اکرم کی اولاد سے) میرا ہم نام ہے نیز کنیت بھی میری ہی طرح ہے۔ سیرت و صورت میں اس سے زیادہ کوئی میرا مشابہ نہیں۔ اس کو غیبت درپیش ہو گی جس میں لوگ سرگرداں رہیں گے۔ امتیں گمراہی کا شکار ہوں گی۔ شباب کا قب کی طرح نمودار ہو گا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔

ایضاً ینابیع المودۃ پر غایۃ المرام سے اور اس میں فرائد المسلمین سے اور اس میں امام باقر سے اور وہ اپنے اجداد سے اور وہ جناب علی بن ابیطالب سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ : مہدی میری اولاد سے (رسول اللہ کی اولاد سے) ہے۔ اس کو

غیبت در پیش ہوگی جس میں لوگ سرگرداں رہیں گے۔ امتیں گمراہی کا شکار ہوگی۔ پھر فرمایا کہ: زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھردے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔

ینایح المودۃ پر مناقب سے اور اس میں ابو جعفر محمد الباقر سے کہ آپ نے فرمایا: رسول اللہ نے فرمایا کہ: خوش نصیب کہ جو میرے اہل بیت کے قائم کو پائے۔ اسکی غیبت کے دوران اس پر قائم رہے۔ اسکے دوستوں کو دوست اور دشمنوں کو دشمن رکھے۔ قیامت کے دن یہی لوگ میرے مونس و ہدم، میرے صاحبان مودت اور میری امت کے باعزت ترین افراد میں سے ہونگے۔

ایضاً ینایح پر ابو بصیر سے اور وہ امام صادق سے اور وہ اپنے اجداد سے اور وہ امیر المؤمنین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: مہدی میری نسل سے ہے میرا ہم نام ہے اور میری طرح اسکی کنیت ہے۔ سیرت و صورت میں اس سے زیادہ کوئی میرا مشابہ نہیں۔ اسکو ایک غیبت در پیش ہوگی جس میں لوگ سرگرداں رہیں گے۔ امتیں گمراہی کا شکار ہوگی اور اپنے دین سے پلٹ جائیں گی۔ اس موقع پر وہ شباب ثاقب کی طرح نمودار ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھردے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔

اسی کتاب میں ایسی ہی ایک اور حدیث منقول ہے لیکن اس میں یہ جملہ ہے کہ: اس وقت وہ شباب ثاقب کی طرح نمودار ہوگا اور انبیاء علیہم السلام کے تبرکات کو اپنے ہمراہ لائے گا۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ینایح پر مناقب سے اور اس میں جابر بن یزید جعفی سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جابر بن عبد اللہ انصاری کو یہ کہتے سنا کہ! مجھ سے رسول اکرم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : اے جابر! میرے بعد میرے اوصیاء اور ائمہ مسلمین آئیں گے۔ ان میں پہلا علیؑ، پھر حسنؑ، اسکے بعد حسینؑ، پھر علی بن الحسینؑ، پھر محمد بن علیؑ، کہ جو باقر کے لقب سے مشہور ہو گا۔ اے جابر! تم اس کو پاؤ گے، جب تم اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ پھر اسکے بعد جعفر بن محمدؑ، پھر موسیٰ بن جعفرؑ، پھر علی بن موسیٰؑ، پھر محمد بن علیؑ، پھر حسن بن علیؑ، پھر القائمؑ کہ جو میرا ہم نام ہے، اور میری کنیت کی طرح اسکی کنیت ہے، حسن بن علی کا بیٹا ہے، وہی ہے کہ جس کے ہاتھوں خداوند تعالیٰ زمین کے مشرق و مغرب کو فتح کرائے گا۔ وہی ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اسکی امامت پر بجز ان لوگوں کے جن کا خدا ایمان کی راہ میں امتحان لے چکا ہے، کوئی ثابت قدم نہ رہے گا۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

### حضرت مہدیؑ کی غیبت کی کیفیت

محمد بن علی بن الحسین بن بابویہ الصدوق اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں رقمطراز ہیں کہ : مجھے میرے والد اور ابن الولید دونوں نے ایک ساتھ سعد بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کہا : مجھے ان لوگوں نے کہ جن کی تعداد ناقابل شمار اور جھوٹ پر اجتماع کرنا بعید از قیاس اور ناممکن ہے، نیز امام حسن عسکریؑ کی تدفین کے اور وفات کے وقت موجود بھی تھے، خبر دی کہ ہم ماہ شعبان ۴۷۸ھ میں کہ جب امام حسن عسکریؑ کی شہادت کو آٹھ یا اس سے زیادہ برس ہونے والے تھے، احمد بن عبید اللہ بن خاقان کہ جو قم کے خراج اور لگان پر سلطان کا نمائندہ تھا، کسی مجلس میں حاضر ہوئے۔ یہ شخص بغض و کینہ اہل بیت میں ثانی نہ رکھتا تھا۔ اسی مجلس میں سامراء میں بسنے والے

آل ابوطالب کے افراد کا ذکر ہوا اور ان کے آراء و افکار و عقائد اور سلطان کی نظر میں ان کے قدر و منزلت کا ذکر نکلا تو عبید اللہ بن خاقان نے کہا کہ :

میں نے سامراء میں آل ابوطالب سے تعلق رکھنے والے افراد میں کسی شخص کو وقار، ہزویاری، اطمینان خاطر، پاکدامنی، اعلیٰ شخصیت، بے داغ کردار اور بلند اخلاق میں حسن بن علی بن محمد ابن الرضا علیہم السلام کی مانند دیکھا اور نہ ہی سنا۔ اسکے علاوہ میں نے اسکے گھر والوں، تمام بنی ہاشم، ضعیف العمر فوی الاحرام شخصیات، فوج کے سالاروں، اور وزرائے مملکت سبھی کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی کو اپنے آپ پر فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں اور مجالس و محافل میں بصد احترام ان کو سب پر مقدم رکھتے ہیں۔ ایک روز جب میرے والد کو لوگوں سے ملاقات کرنا تھی۔ میں انکی نشست کے برابر ہی میں موجود تھا، دربان نے آکر اطلاع دی کہ ابن الرضا دروازے پر موجود ہیں۔ یہ سن کر میرے والد نے باواز بلند کہا ان کو اندر آنے دو۔ معاش میں نے دیکھا کہ گندم گوں، خوش قد قامت، حسین چہرے، متناسب و دلکش جسم اور سر میں آنکھوں کا مالک ایک جوان، جسکی شخصیت سے رعب و وقار نمایاں تھا مجلس میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میرے والد کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی، اپنی نشست چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھے اور نوجوان کا استقبال کیا۔ میں نے اس سے پہلے ان کو بنی ہاشم، سپہ سالاروں، یا ولی عہدوں میں سے کسی کے بھی ساتھ اس قسم کا برتاؤ کرتے نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے قریب جا کر اس نوجوان سے معاف کیا اور اسکے چہرے اور کاندھوں کو چوما پھر اس کا ہاتھ تھام کر، اس کو اپنے اس مغلے پر بٹھایا جہاں وہ خود بیٹھے تھے اور خود اس جوان کے نزدیک اسکی طرح رخ کر کے بیٹھ گئے اور اسکو کنیت سے مخاطب کر کے گفتگو

شروع کر دی، اور مسلسل کہے جا رہے تھے کہ میں آپ پر اور آپ کے ماں باپ پر قربان، اور ادھر میں کہ جو اس منظر کو دیکھ کر حیرت کے مارے انگشت بدنداں تھا کہ معاً میرے والد کے دربان دوبارہ آئے اور اطلاع دی کہ ”موفق“ آچکا ہے۔

موفق جب میرے والد کے پاس آنا چاہتا تو اسکے دربان اور اعلیٰ فوجی افسدوں سے پہلے آتے اور دروازے سے لے کر میرے والد کی نشست تک دو روپہ قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے۔ یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے اور اسکی واپسی تک اسی طرح کھڑے رہتے۔

لیکن اس اعلان کے باوجود میرے والد اسی طرح نوجوان کی طرف رخ کئے گفتگو کرتے رہے، اور جب ان کی نظر موفق کے خاص غلاموں پر پڑی تو انہوں نے نوجوان سے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں، پھر جیسی آپ کی مرضی، اسے ابو محمد! آپ کے قربان جاؤں۔ پھر اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کو دو روپہ قطار کے چھپے سے اس طرح لے جاؤ کہ امیر یعنی موفق کی نظر ان پر نہ پڑے، میرے والد پھر اس نوجوان سے بغل گیر ہوئے اسکے چہرے کو چوما اور پھر نوجوان چلا گیا۔

میں نے اپنے والد کے دربانوں اور غلاموں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا، جس کے ساتھ میرے والد اتنے احترام سے پیش آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ علوی ہے، اور اسکا نام حسن بن علی ہے، ابن الرضا کے لقب سے معروف ہے۔ یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا اور اس پورے دن میں اس نوجوان اور اپنے والد کے اس برتاؤ پر سوچتا رہا۔

یہاں تک کہ رات کے وقت میرے والد، اپنے معمول کے مطابق عشاء کی

نماز پڑھ کر حکومت سے متعلق امور میں مصروف ہو گئے اور ان درخواستوں پر غور کرنے لگے جو سلطان کو بھیجنا تھیں۔ جب انہوں نے اپنا کام ختم کر لیا تو میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا : احمد بیٹا! کیا کوئی کام ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال کروں؟ انہوں نے کہا، بیٹا اجازت ہے، کہو جو کچھ کہنا چاہتے ہو۔ تو میں نے کہا : اے بابا! وہ کون محض تھا جس کو آج صبح میں نے دیکھا کہ آپ اس سے بعد احرام و تکریم و تعظیم ملے اور پھر آپ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا اور قربان ہوں۔ میرے والد نے جواب دیا : بیٹا! وہ ابن الرضا تھے، رافضیوں کے امام، اور پھر چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گئے۔ پھر گویا ہوئے کہ اگر بنی عباس کے ہاتھوں سے خلافت نکل جائے تو بنی ہاشم میں اس نوجوان سے زیادہ کوئی اس کا مستحق نہ ہو گا۔ کیونکہ اس نوجوان میں، علم و فضل، پاکدامنی، وقار، عظمت، وضعداری، اطمینان خاطر، زہد، عبادت، حسن اخلاق اور شانگلی جیسی صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اور اگر تم اس کے والد سے ملے تو دیکھتے کہ وہ کتنا عالم فاضل، جلیل القدر، جو وسفا کا بیکر، لائق و شائستہ اور عالی رتبہ شخص ہے۔

اس کے بعد میں بیٹھ اسکے بارے میں لوگوں سے تحقیق و تفتیش کرتا رہتا۔ میں نے بنی ہاشم، اعلیٰ فوجی عہدیداروں، حکومتی کاتبوں، قاضیوں، فقہاء، حتیٰ عوام الناس میں جس سے بھی اس نوجوان کے بارے میں سوال کیا، ان کو نہایت عظمت، احترام، عظیم الشان مقام و منزلت اور تعریف و تحسین کے ساتھ اس نوجوان کے ذکر کرتے اور اسکے تمام گھرانے اور ضعیف العراقراد پر اس نوجوان کو برتری اور فوقیت دیتے پایا۔ سب اسکے بارے میں یہی کہتے تھے کہ یہ رافضیوں

کا امام ہے۔

ان تمام باتوں کو سن کر میرے دل میں اسکے لئے احرام و تعظیم و تکریم کے جذبات پیدا ہو گئے، کیونکہ میں نے اسکے دوست و دشمن جس کو بھی دیکھا، اسے اسکی تعریف کرتے ہی پایا۔

سلسلہ گفتگو جب اس مقام پر پہنچا تو مجلس میں موجود اشعریوں میں سے کسی نے اس سے سوال کیا: اے ابو بکر! اس کے بھائی جعفر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ جعفر کی حیثیت کیا ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے یا اس کا اپنے بھائی سے موازنہ کیا جائے؟ جعفر کھلے عام فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے، گفتار اور کردار کے لحاظ سے لاابالی اور شراب خواری کا دلدادہ ہے۔ میں اپنی زندگی میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں ان میں سے سب سے زیادہ بے وقعت اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے سرسبزہ رازوں کو فاش کر کے اچی بے عزتی کا سامان فراہم کرنے والا ایک احمق شخص پایا، جس کی خود اپنی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں۔

خدا کی قسم وہ حسن بن علی علیہم السلام کی وفات کے وقت سلطان اور اسکے مصاحبین کے پاس آیا اور ایسا کام کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتا ہے۔

ہوایوں کی جب وہ بیمار ہو گئے تو میرے والد کو پیغام بھیجا گیا کہ ابن الرضا بیمار ہیں۔ پیغام ملتے ہی میرے والد فوراً دارالخلافت کی طرف روانہ ہو گئے، اور نہایت عجلت میں امیرالمومنین کے قابل اعتماد خادموں کے ساتھ واپس آئے کہ جن میں نحریر بھی شامل تھا۔ اور ان کو حسن بن علی سے متعلق تمام خیریں پہچانے



اور گھر کی کڑی نگرانی کا حکم دیا۔ اسکے علاوہ اطباء کو بھی حکم دیا کہ وہ صبح شام حسن بن علی کے گھر جائیں اور اس پر نظر رکھیں۔ اس واقعے کے دو دن بعد یہ خبر آئی کہ حسن بن علی پر شدید نقاہت اور کمزوری طاری ہے۔ میرے والد فوراً سوار ہو کر ان کی طرف گئے اور اطباء کو حکم دیا کہ حسن بن علی کے پاس سے نہ ہٹیں۔

قاضی القضاة کو طلب کر لیا گیا اور اسکو حکم دیا کہ اپنے مصاحبین میں سے دس ایسے افراد کا انتخاب کرے کہ جن کے دین 'ایمانداری' اور تقویٰ پر اس کو یقین ہو۔ ان دس افراد کو بھی حسن بن علی کے گھر بھیجا گیا اور حکم دیا کہ رات دن حسن بن علی کے ساتھ رہو۔ یہ لوگ وہیں رہے یہاں تک کہ ۳۶۰ھ میں کہ جب ربیع الاول شروع ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ حسن بن علی وفات پا گئے۔

ان کا وفات پانا تھا کہ پورے سامراء میں صف ماتم بچھ گئی کہ ابن الرضا وفات پا گئے۔ اسکے بعد سلطان نے ابن الرضا کے گھر کی تفتیش کے لئے چند افراد کو بھیجا جنہوں نے تمام کمروں کی تلاشی لی پھر تمام اشیاء کو مہربند کر دیا۔ ان لوگوں نے حسن بن عسکری کے بیٹے کو تلاش کرنے کی کوشش میں تمام خواتین کو ہر جن پر حاملہ ہونے کا شبہ تھا، طلب کر لیا۔ اور اپنی کنیزوں کو ان خواتین کا معائنہ کرنے کو کہا، جس پر کنیزوں نے، ان خواتین میں موجود ایک کنیز پر حاملہ ہونے کا شبہ ظاہر کیا، لہذا اس کنیز کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اور چند کنیزوں اور خادموں کو نحریر کے سرکردگی میں اس کنیز پر تعینات کر دیا گیا۔

اسکے بعد حسن عسکری کے جنازے کو اٹھانے کا انتظام کیا گیا، بازاروں کو بند کروایا گیا اور میرے والد بن ہاشم، سپہ سالار، حکومتی محرر اور عوام الناس سبھی

اس جنازے کی معیت کے لئے چل پڑے۔ اس دن گویا سامراء میں قیامت  
 صغریٰ برپا تھی۔ جب جنازہ اٹھایا جا چکا تو سلطان نے ابو عیسیٰ بن المتوکل کو پیغام  
 بھیجا کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ جب جنازہ نماز کے لئے رکھا گیا تو ابو عیسیٰ نے  
 جنازہ کے نزدیک جا کر حسن عسکری کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا اور بنی ہاشم جس  
 میں علوی اور عباسی دونوں شامل ہیں، نیز سپہ سالاروں، حکومتی محررین، قاضیوں،  
 فقہاء اور موثق علماء میں کو دکھلایا اور کہا کہ یہ حسن بن علی بن محمد الرضا ہیں، جو  
 اپنے بسترِ طبعی موت مرے ہیں، اور امیر المؤمنین کے بعض خدام، چند موثق  
 افراد، کچھ اطباء اور اسی طرح کے چند قاضیوں کے نام لے کر کہا کہ یہ سب لوگ  
 ان کی طبعی موت کے شاہد ہیں اور دوبارہ چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر  
 پانچ تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازے کو اٹھانے کا حکم دیا اور  
 اسی گھر میں سپرد خاک کر دیا جس میں ان کے والد دفن تھے۔ تدفین سے فارغ  
 ہونے کے بعد جب تمام لوگ چلے گئے تو سلطان اور اسکے مصاصین کو، حسن  
 عسکری کے بیٹے کو تلاش کرنے کی فکر لاحق ہوئی اور گھر گھر تلاشی شروع ہو گئی۔  
 بیٹے کے دریافت ہونے تک میراث کی تقسیم کو بھی روک دیا گیا، اور اس کثیر  
 کہ جس کے حاملہ ہونے کا شبہ تھا، تعینات لوگ دو سال تک اسکی نگرانی کرتے  
 رہے یہاں تک کہ اس کے حاملہ ہونے کا شبہ بھی غلط ثابت ہوا۔ پھر والدہ اور  
 بھائی بے غم کے درمیان میراث تقسیم کر دی گئی۔

حسن عسکری کی بیوی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی وصیت میرے نام کی  
 ہے جو قاضی کے سامنے ثابت بھی ہو گیا۔

ادھر سلطان مسلسل حسن عسکری کے بیٹے کی تلاش میں تھا۔ یہاں تک کہ

جعفر میراث کی تقسیم کے بعد میرے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے اسی رتبے اور مقام پر سمجھو کہ جس پر میرے والد اور بھائی کو سمجھتے تھے۔ اس کے عوض میں ہر سال چھبیس ہزار دینار پہنچایا کروں گا۔ یہ سن کر میرے والد سخت ناراض ہوئے اور اس سے کہا: احمق! ہمارے سلطان نے۔۔۔ خدا ان کا اقبال بلند کرے۔۔۔ بیشہ ان لوگوں پر اپنی تلوار کو سونٹے اور کوزے برسائے رکھے جو تمہارے باپ اور بھائی کو امام مانتے تھے تاکہ ان کے اس عقیدے کو تبدیل کیا جاسکے، لیکن اس کے باوجود سلطان کامیاب نہ ہو سکا، سلطان ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہا کہ تمہارے باپ بھائی کو کسی طرح ان کے مقام و رتبے سے ہٹا دیا جائے لیکن اس سلسلے میں بھی اس سے کچھ نہ بن پڑا۔ اگر اپنے باپ اور بھائی کے شیعوں کی نظر میں درحقیقت تم ہی امام ہو تو تمہیں سلطان یا سلطان کے علاوہ کسی اور شخص کی مدد کی چنداں ضرورت نہیں کہ وہ تمہیں اس مقام پر پہنچائے۔ اور اگر تم شیعوں کی نظر میں اس مقام کے حقدار نہیں ہو تو جان لو کہ کبھی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔

اس کے بعد وہ میرے والد کی نظروں میں گر گیا۔ میرے والد نے اس کو وہاں سے نکال باہر کیا اور دربان سے کہا کہ آئندہ اس کو میرے پاس نہ آنے دینا۔ یہاں تک کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر میرے سامراء چھوڑنے تک جعفر کی یہی حالت تھی۔ اوہر سلطان مسلسل حسن بن علی کے بیٹے کی تلاش میں تھا یہاں تک کہ ابھی تک اس تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔

محمد یعقوب کھٹنی، اصول کافی جلد اول، باب وراثت امام حسن عسکریؑ میں روایت کرتے ہیں کہ: ہمیں حسن بن محمد اشعری اور محمد بن یحییٰ، نیز ان کے

علاوہ اور افراد نے بھی خبر دی کہ احمد بن عبید اللہ خاتقان قم کے خراج اور لگان کا نگران تھا۔ پھر اسکے بعد مذکورہ حدیث نقل کی ہے۔

شیخ محمد بن حسن طوسی اپنی کتاب فہرست میں 'احمد بن عبید اللہ ابن یحییٰ بن خاتقان کے حالات میں رقمطراز ہیں کہ: اس کی مجلس میں حضرت امام ابو محمد حسن بن علی العسکری کا ذکر اور آپ کی صفات حمیدہ بیان ہو رہی تھیں، ہم کو اس کی خبر ابو جید نے ابن الولید سے نقل کرتے ہوئے دی اور انہوں نے عبید اللہ بن جعفر حمیری سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں میرے علاوہ آل سعد بن مالک کے کچھ افراد نیز آل طلحہ اور چند تجار بھی موجود تھے اور مذکورہ واقعے کو نقل کیا ہے۔

احمد بن العباس بن محمد بن عبید اللہ نجاشی اپنی کتاب الفہرست میں لکھتے ہیں کہ: احمد بن عبید اللہ بن یحییٰ بن خاتقان کا ذکر ہمارے مصنفین نے کیا ہے نیز اس کی ایک کتاب بھی ہے کہ جس میں اس نے ہمارے آقا ابو محمد الحسن العسکری کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن میں نے خود اس کتاب کو نہیں دیکھا۔

کلام مصنف : ابن خاتقان کی کتاب سے مراد مذکورہ واقعہ ہے۔

محمد بن محمد بن نعمان، جو مفید کے لقب سے مشہور ہیں، اپنی کتاب الارشاد میں، فضل بن الحسن بن الفضل کہ جو طبری کے نام سے معروف ہیں اپنی کتاب اعلام الوری میں اور محمد الحسن ابن مرتضیٰ جو فیض کاشانی کے نام سے معروف ہیں اپنی کتاب دانی میں۔ یہ تینوں حضرات محمد بن یعقوب کلینی سے ان کی کتاب کافی سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

محمد بن محمد بن نعمان، یعنی شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں رقمطراز ہیں کہ:

امام ابو محمد الحسن کیم ربیع الاول ۳۶۰ھ کو صاحب فراش ہوئے اور آٹھ روز گزرنے کے بعد جمعے کے دن وفات پا گئے۔ آپ اپنے والد کے حرم مطہر میں جو آپ کے فرزند یعنی حق و انصاف کی بالادستی کا مختصر، مختصر ممدی کی سرداب کی پشت پر تھا، سپرد خاک ہوئے۔ آپ کے اس فرزند کی ولادت کو سلطان وقت کے اندیشے کی بنا پر حینہ راز میں رکھا گیا اور تمام امور کو چھپایا گیا، کیونکہ سلطان وقت کے علم میں یہ بات آپ کی تھی کہ حضرت حسن عسکری کا فرزند ہی ممدی مختصر ہے اور یہ بات شیعوں کے عقائد میں سے ہے۔ نیز آپ کے ظہور کا انتظار بھی عقائد میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے وہ نہایت شہ و مد کے ساتھ آپ کی تلاش میں مصروف تھا لیکن آپ کی زندگی میں آپ (حسن عسکری) کا کوئی فرزند سامنے آیا نہ ہی آپ کی شہادت کے بعد لوگوں کو آپ کے بیٹے کی کوئی اطلاع ملی۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی جعفر بن علی نے آپ کے ترکے پر قبضہ جمالیہ کنیزوں کو قید کرنے کی کوشش کی اور ازواج کو محبوس کرنا چاہا۔ نیز آپ کے اصحاب کو آپ کے فرزند کا انتظار کرنے، ان کے وجود پر ایمان رکھنے اور ان کی امامت پر قائم رہنے کے سبب طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا یہاں تک کہ دھونس اور دھمکی کے ذریعے ڈرایا دھمکایا امام ابو محمد حسن عسکری کے پیروندگان کو قید و بند میں ڈالنے اور دھمکانے اور ذلیل و خوار کرنے جیسی حرکتوں کو انجام دیا۔ لیکن سلطان پھر بھی ان لوگوں پر قابو نہ پاسکا۔ جعفر نے امام ابو محمد کے ترکے کو ہتھیالیا اور شیعوں کے درمیان اپنے آپ کو امام ابو محمد کا قائم مقام تسلیم کروانے کی کوششوں میں لگ گیا لیکن کسی نے اس کی بات پر کان دھرا اور نہ ہی اس کی امامت پر ایمان لائے۔ جعفر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سلطان وقت کے پاس گیا اور اس سے

اپنے بھائی جیسے مرتبے کا برتاؤ کرنے کی درخواست کی اور اسی بابت ایک بھاری رقم بھی پیش کی اور وہ تمام کام انجام دیئے کہ جس سے بادشاہ کی قربت حاصل ہو لیکن یہ تمام ہتھکنڈے کچھ کام نہ آئے۔ (تمام ہواکام شیخ منید)

### حضرت مہدی کا مقام غیبت

اس عنوان کے ذیل میں ہم وہی بات نقل کریں گے جو ہم امامیہ اثنا عشری کے نزدیک معتبر ہے۔ اسی کو ان جید ائمہ حدیث نے نقل کیا ہے کہ جن کا قول اس میدان میں معتبر اور رائے مستدمانی جاتی ہے۔

اب رہی بات ان نظریات و عقائد کی کہ جن کو بعض عوام الناس نے اپنایا ہے اور خواص اہل سنت نے ان نظریات کو پورے کے پورے فرقہ اثنا عشری سے منسوب کیا ہے، تو اس سلسلے میں ایسی کوئی حدیث میری نظر سے گزری اور نہ ہی کسی مورخ کے قول کو میں نے پایا کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان نظریات پر اعتقاد رکھا جائے۔

یہی بات ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ جب حضرت مہدی اپنے والد کی وفات کے وقت کس جگہ موجود تھے؟ یا اپنے گھر کے کس گوشے میں پنہاں تھے؟ آیا چھت پر پڑھنے کے بعد آپ کی غیبت شروع ہوئی یا سرداب میں جانے کے بعد یا گھر کے دروازے سے خارج ہونے کے بعد آپ لوگوں کی نگاہوں سے اور جھل ہو گئے۔ تو ہمارے خیال میں ان سوالوں کا حتمی اور یقینی جواب دینا اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔

ہاں یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ باپ کی وفات کے وقت معمولاً بچے کو

اسکے قرب و جوار ہی میں ہونا چاہئے اور کیونکر یہ بچہ اپنے باپ کے پاس نہ ہو؟ جبکہ یہ تو وہ بچہ ہے کہ جس پر سن رسیدہ اور ضعیف العمر افراد کو قربان کیا جاسکتا ہے۔ پس ایک کم سن بچے کے لئے والدین کی آغوش سے بڑھ کر اور کونسی جگہ مناسب ہو سکتی ہے۔ یہی بات احمد بن عبید اللہ بن خاقان کی روایت سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے مطابق آپ اپنے گھر میں تھے اور پھر اس طرح پنہاں ہوئے کہ لوگوں کو آپ کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ سلطان اسکے درباریوں اور کارندوں نے اپنی تمام کوششیں کر لیں لیکن تھک بار کر بیٹھ گئے اور آپ گونہ پاسکے۔

یہ بات بھی قارئین کی نظر میں ہوگی کہ سلطان نے کچھ لوگوں کو بستر عیالات پر امام حسن عسکریؑ کی خدمت میں بھیجا اور یہ ظاہر کیا گیا وہ ان لوگوں کو آپ کی عیادت اور تیمارداری کی خاطر روانہ کر رہا ہے، کیونکہ اس موقع پر آپ کے پاس ایک خادم عقید اور حضرت مہدی کی والدہ صیقل کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔

سلطان نے اپنے ان دس موثق اور معتمدین خاص کو بظاہر روانہ تو اسی مقصد سے کیا لیکن درحقیقت وہ امام مہدی کے بارے میں کوئی سن سُن لینا اور آپ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ معمولاً کس بچے یا تو اپنے والدین کی آغوش میں رہتے ہیں یا اگر باپ بیمار ہو تو اس کے قرب و جوار میں موجود ہوتے ہیں۔ خصوصاً باپ مریض ہو کر بستر مرگ سے جاگے تو ان کا باپ ہی کے پاس ہونا یقینی امر ہے۔ لیکن خدا نے ہرگز اس بات کو ناچاہا کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں اطلاع حاصل کر سکیں، لہذا باری تعالیٰ نے آپ کے امور کو ان لوگوں کے لئے مخفی کر دیا۔

جی ہاں وہ ذات جو موسیٰ بن عمران کو دریا کی شوریدہ اور طوفانی لہروں میں کہ جو آپ کے گہوارے کو ادھر سے ادھر بیخ رہی تھیں، بچا سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ فرعون کے گھر میں شیر خوارگی کے ایام گزاریں، وہی ذات اس قابل ہے کہ ہمارے مولا حضرت مددیؑ کو خود ان کے اپنے گھر میں دشمنوں سے محفوظ رکھے۔

وہ ذات کہ جو آپ کے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے وقت غار میں اس طرح چھپائے کہ دشمنوں کو آپ کا نام و نشان تک نہ ملے، اور ختمی مرتبت کو اپنی قدرت و قوت کے بل بوتے پر کفار مکہ سے نجات دلانے اس ذات کے لئے حضرت مددیؑ کی حفاظت خود ان کے والدین کے گھر میں کرنا (جب آپ کا سن پانچ برس کا تھا) کون سی مشکل بات ہے۔

ہم ہرگز اس کا انکار نہیں کرتے کہ حضرت مددیؑ کی حفاظت اور ان تمام خطرناک حالات کے باوجود آپ کا بچ جانا معمول کے خلاف اور حیرت انگیز امر ہے۔ بلکہ کہتا تو یہ چاہئے کہ ان ایام میں آپ کا محفوظ رہ جانا اسبابِ نبی کے مرہونِ منت ہے۔ یا اگر اس امر کو خلاف معمول اور حیرت انگیز نہ کہا جائے تو یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ بذاتِ خود نادر الوقوع اور عوام الناس کی نسبت ناممکن ہے۔

قصہ مختصر یہ کہ ہمارے آقا و مولا حضرت مددیؑ علیہ السلام بظاہر یا تو اپنے گھر میں ہی پس پردہِ غیبت میں چلے گئے یا گھر سے ان کی غیبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن آپ کی غیبت کس طرح شروع ہوئی اور تفصیل کیا تھی؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ ان ایام میں جو کچھ ماجرا گزرا، خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سلسلے میں حرفِ آخر اور کلامِ قطعی یہی ہے۔



ایک بات اور جو کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض جید علمائے اہل سنت بلکہ بعض شیعہ مؤلفین نے بھی اس موضوع کی چند جزئیات نقل کی ہیں، لیکن ہمیں ان کے منبع اور ماخذ کا علم نہیں۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ لوگ ماخذ و منبع کا بھی ذکر کر دیتے۔

### سرداب اور آپ کی زیارت

کتاب صواعق سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ تمام شیعہ اثنا عشری یا ان میں سے کچھ افراد کے خیال میں مہدی منتظر اپنے گھر کی سرداب میں عاتب ہوئے اور اب شیعہ سرداب سے آپ کے خروج کا انتظار کرتے ہیں اور سرداب پر مجمع کی صورت میں جمع ہو کر آپ کے خروج کی دعائیں لگتے ہیں۔

کاش صاحب صواعق اپنی اس بات کا منبع اور سند کا ذکر کرتے۔

ہمارے خیال میں مصنف (صواعق) حجاز سے باہر نکلے اور نہ ہی کبھی عراق آنے کا اتفاق ہوا اور نہ ہی سامراء گئے، وگرنہ وہ یہ بات جان لیتے کہ اس امر کی کوئی حقیقت نہیں۔

بعض تصانیف کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ شیعہ اثنا عشری یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت مہدیؑ کی غیبت سرداب سے شروع ہوئی اور اسی بنا پر اس مقدس مقام کی زیارت کرتے ہیں۔

تو ہم اب اس زیارت کا سبب بیان کریں گے اور خداوند تعالیٰ سے لغزشوں سے دوری کی دعائیں لگتے ہیں۔

سامراء میں ایک صحن ہے کہ جس میں امام ہادی اور امام عسکری علیہما

السلام کا حرم مطہر واقع ہے۔ دوسرا صحن وہ ہے کہ جو آپؐ دونوں کی مرقد منورہ کی پشت پر ہے۔ اور تیسرے صحن میں سرداب واقع ہے۔ نیز آپؐ کا گھر بھی اسی صحن میں تھا۔ تاریخ اور علمائے کرام نے صراحت سے اس کا ذکر کیا ہے جن میں عظیم محدث علامہ توری مرحوم بھی شامل ہیں۔

دوسری طرف امام مہدیؑ سے کوئی خاص مقام منسوب ہے اور نہ کوئی حرم مطہر تاکہ آپؑ کی زیارت کی جائے، لہذا آپؑ (مہدیؑ) کی زیارت کے لئے مناسب ترین مقام یہی سرداب ہے۔ علاوہ ازیں خود اس سرداب اور آپؑ کے گھر کی زیارت کرنا بھی نیک اور پسندیدہ عمل ہے۔ کیونکہ جب دوست اور چاہنے والے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں، تو ان کے چاہنے والے ان گھروں ہی میں آمد و رفت کے ذریعے رسم دوستی و محبت نبھاتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

امر علی الدیار دیار لیلی  
اقبل ذالجداز و ذالجدار  
میں لیلی کے قرے اور محلے سے گزرتا ہوں تو داییں بائیں تمام دیواروں  
کو چومتا جاتا ہوں۔

وماحب الدیار شغفن قلبی  
ولکن حب من سكن الدیار  
اس محلے اور قرے کی محبت نے میرے دل کو دیوانہ نہیں کیا، بلکہ جو اس  
قرے میں رہتا ہے اس کی محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔  
جی ہاں! یہی وہ سبب ہے، اگرچہ بہت سے افراد اس بات سے لاعلم ہیں۔

یہ ایک سنت حسنة اور رسم محبت نبھانے کا ایک طریقہ ہے جس کو شیعوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے اور کتنا پسندیدہ اور نیک عمل ہے۔

اگرچہ مروجہ کتب سے اس سلسلے میں کوئی نص یا مستند روایت میری نظر سے نہیں گزری کہ جو آپ کی زیارت کو بطور خاص سرداب ہی میں لازم قرار دے اور یہ بات ہر محقق کے لئے واضح اور روشن ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی زندہ اور مرزوق ہیں، کلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں اور آپ ہی وہ امام ہیں کہ جس کی اطاعت کے سائے میں ہم خداوند تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہی ہم پر رب العزت کے فیوضات کا وسیلہ ہیں۔ اور آپ کی جانب توجہ کرنا، آپ سے کلام کرنا اور درودوں بیان کرنا، نیز صدائے استغاثہ بلند کرنا، ہر مقام، ہر زمانے اور ہر زبان میں صحیح اور مستحسن عمل ہے۔ سرداب مطہرہ کی بذات خود خصوصیت اور اس سرداب میں ماثورہ اذعیہ و زیارات کا تلاوت کرنا اگرچہ افضل ضرور ہے، لیکن اس خصوصیت کے علاوہ کہ جو ہم نے چند مطہرہ قبل بیان کی، کوئی اور خصوصیت نہیں۔

وہ مکانات اور جہرات کہ جن میں دسیوں برس خداوند تعالیٰ کی عبادت اور اس کا نام لیا جاتا رہا ہو، رات دن نمازیں ادا کی جاتی ہوں، قرأت قرآن کی صدائیں گونجتی ہوں یقیناً یہ مکانات اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی زیارت کی جائے، ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور جب بھی کوئی عقیدتمند ان مکانات کی زیارت کرے تو ان پاک پاؤں اور نیک طینت طیب و طابروں کو بھی یاد رکھے جو ان مکانوں کے مکین تھے۔

ایک اور چیز جو ہمیں اس سرداب مقدس کی زیارت پر ابھارتی اور اشتیاق

دلاتی ہے وہ اس مقام کے مالک کا زندہ ہونا اور دشمنوں کے خوف سے اس جگہ رہائش اختیار نہ کرنا، خصوصاً ہمارا آپ کی ذات کا محتاج ہونے کے باوجود آپ کی فیوضات حضور سے بے بہرہ اور محروم رہنا ہے۔

اس طرح کے مقامات کی ان احساسات اور جذبات کے ساتھ زیارت کرنا یقیناً زائر کے قلب میں ایک تحول (اگر وہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ہے) اور رقت پیدا کرے گی۔ یہاں تک کہ زائر کے آنسوؤں رواں ہو جائیں گے اور بے اختیار صدائے استغاثہ بلند کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ سے آپ کے ظہور کی تعجیل چاہے گا۔

جی ہاں! روحی تعلق اور محبت کے رشتے انسان کے اوپر اپنے ان مٹ اور گمرے نقوش چھوڑتے ہیں۔

### وجوہات اور فلسفہ غیبت

اس موضوع کے بارے میں بحث نہایت طویل ہے اور مروی روایات کثیر۔۔۔ لیکن ہمارے لئے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ آیا کوئی غیبت کا فلسفہ اور وجوہات پوچھنے کا حق رکھتا ہے؟ یا یہ کہہ سکتا ہو کہ جب مجھے غیبت کا سبب ہی نہیں معلوم تو میں اس مہدی پر کہ جسکی تم لوگ بات کر رہے ہو کیونکر ایمان لاؤں؟ نیز کسی کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ اگر یہ شخص تم لوگوں کے خیال کے مطابق امام ہوتا، تو لوگوں کے درمیان ظاہر و آشکارا ہوتا، اور گردش لیل و دنار کے درمیان بازاروں میں چلنا پھرتا؟ انہی سوالات کا جواب دینے کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ:

گزشتہ صفحات پر مذکور اور آئندہ صفحات پر عنقریب ذکر ہونے والی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حضرت مہدیؑ ابو القاسم محمد بن الحسن العسكريؑ ہیں کہ جنہوں نے فہر شعبان ۲۵۶ھ کو اس دنیا میں قدم رکھا۔ اس بات کی تصریح علمائے اعلام کی ایک بڑی تعداد نے کی ہے کہ جن کے اسماء گزشتہ صفحات میں ذکر ہوئے ہیں۔

نیز اس امر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ خداوند تعالیٰ حکیم ہے، کسی شے کا حکم دینا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے روکتا ہے، نہ ہی کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے جو از روئے مصلحت نہ ہو، یہ بات تو مسلم اور ثابت شدہ ہے۔

مزید برآں، یہ بھی واضح ہے کہ یہ مصلحت اور اس کا فائدہ مکلفین (بندگان) ہی کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ذات اقدس کسی بھی شے کی محتاج نہیں اور وہ غنی مطلق ہے۔ پس اسکے تمام کے تمام افعال بجائے خود از روئے مصلحت صادر ہوتے ہیں، خواہ ہم ان مصلحتوں کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ ان تمام پہلوؤں کو درک کریں یا نہ کریں۔

یہ امر اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اس عالم مادہ میں حوادث اختیاری اور غیر اختیاری، دونوں رونما ہوتے ہیں، جو بہر حال خداوند تعالیٰ کی تدبیر اور ارادے سے انجام پاتے ہیں اور انہی اہم امور اور حوادث میں سے ایک، آپؐ کی نصیبت ہے۔ بنا برآں اس امر (نصیبت) کا سرچشمہ بھی باری تعالیٰ کی مصلحت و حکمت ہی کو ہونا چاہئے۔ خواہ حکمت کی وہ جہت اور پہلو ہمارے لئے قابل درک ہو یا نہ ہو۔ اس نصیبت کے سبب کا ہماری فہم احاطہ کر سکے یا نہ کر سکے۔

اب اگر ہم مندرجہ بالا امور کے قائل نہ ہوں اور ان کو تسلیم نہ کریں تو

اسکے نتیجے میں مجبوراً ہمیں درج ذیل چند مسلم اثبوت امور کا یہ کہ جن کا انکار ناممکن ہے، انکار کرنا پڑے گا۔

☆ ممدی منتظر، بلا فصل، محمد بن الحسن العسکری ہیں۔

☆ آپ لوگوں کی نظر سے پنہاں ہیں، جسکی جزئیات کا بعد میں ذکر ہو گا۔

☆ آپ کی غیبت خداوند تعالیٰ کے ارادے اور تقدیر سے منسلک ہے۔

اگر محترم قارئین مذکورہ بالا تین نکات کی طرف توجہ کریں تو یہ پائیں گے کہ ان نکات کا انکار یا تو عقلاً ناممکن و محال ہے یا نقلاً۔ اور ان امور کو قبول کرنے کا لازمی مفہوم یہ نکات ہے کہ غیبت مصلحت خداوندی کے مطابق ہے و مگر نہ مذکورہ بالا تین نکات کا انکار کرنا پڑے گا جو صحیح نہیں۔

شیخ صدوق "معلل الشرائع" میں عبد اللہ بن الفضل الماشعی سے روایت کرتے ہیں کہ: انہوں نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ: اس امر کے حائل کو ضرور ایک غیبت درپیش ہوگی جس میں باطل کا پیرو کار ہر شخص، شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے گا، میں نے پوچھا آپ کے قربان جاؤں، ایسا کیوں کر ہو گا؟ فرمایا: اس کا سبب ایک ایسا امر ہے جسکو تمہارے سامنے فاش کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ میں نے پھر پوچھا: غیبت میں کونسی حکمت پوشیدہ ہے؟ فرمایا: وہی کہ جو ممدی سے قبل غیبت میں چلی جانے والی، خدا کی دیکھ جتوں کو تھی، بالکل اسی طرح جیسے کہ حضرت خضر کے ہاتھوں کسن بچے کا قتل، غرباء کی کشتی میں سوراخ کرنے اور گرمی ہوئی دیوار کو از سر نو تعمیر کرنے کی مصلحت اور حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے اس وقت آشکارا ہوئی کہ جب آپ حضرت خضر سے جدا ہونا چاہتے تھے، اسی طرح غیبت کی

مصلحت و حکمت بھی ظہور کے بعد ہی کھل کر سامنے آئے گی۔ اسے ابن الفضل! یہ امر 'امر خداوندی سے ہے' اور اس کے اسرار میں سے ایک سر ہے، اور غیب میں سے ایک غیب۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا عظیم ہے تو اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے تمام افعال سراسر حکمت سے بھرپور ہیں، اگرچہ ان کی وجوہات ہمارے لئے پوشیدہ رہیں۔

یہی بات اس سلسلے میں کلام آخر اور قول حق ہے کہ جس پر ہر مسلمان کو ایمان رکھنا چاہئے۔

ہاں یہ بات اور ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے اطمینان نفس اور ایمان کے استحکام کی خاطر خداوند تعالیٰ کے بعض افعال کی وجوہات اور کچھ حوادث زمانہ کا سبب جاننا چاہتا ہے۔

لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اس کے ایمان اور اعتقاد کا دار و مدار اس کے علم کی رسائی تک ہے۔ یعنی اگر اس نے حوادث کے ظنی کو سمجھ لیا تو تصدیق کرے گا ورنہ تکذیب کرے گا۔

نیبیت کا فلسفہ اور اسکی وجوہات پر بحث سے قبل بہتر ہو گا کہ بطور تمہید مختصراً چند امور کو واضح کر دیں۔ لیکن اگر کوئی تفسیلاً جاننا چاہے تو اس موضوع سے مربوط کتب کی طرف رجوع کرے۔

وہ مختصر نکات یہ ہیں:

مثلاً ہر دعوت کنندہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ دعوت پیش کرنے کے لئے اسباب ظاہری اور معمول کے مطابق عوامل سے مدد لے۔ یہ بات ہرگز صحیح نہیں کہ وہ نیبی اور ماورائے طبیعت اسباب کو بروئے کار لائے۔ کیونکہ اس صورت

میں ثواب اکارت اور عقاب لغو ہو جائیگا۔ نیز بعثت انبیاء اور رسل بھی ایک بے  
معنی بات بن کر رہ جائے گی۔

۱۱۔ اس قانون میں رسول اور وصی رسول دونوں مشترک ہیں۔ کیونکہ یہ مبلغ  
کی شرائط میں سے ہے، خواہ مبلغ رسول ہو یا امام (وصی رسول)۔

فرق صرف اتنا ہے کہ رسول بنیاد گزار زبانی اور تائیس کتفہ ہے اور اسی  
پہلو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رسول پر واجب ہے کہ دعوت اور تبلیغ کی ابتداء  
ظاہری اور غیر مادرائی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے انجام دے۔ اسکے بر  
خلاف امام پر یہ واجب نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں پر رسول کی دعوت  
کے نتیجے حجت تمام ہو چکی ہے، لہذا اب لوگوں پر واجب ہے کہ دینی مسائل کی  
جستجو کریں اور مسائل دریافت کریں۔ لیکن امام پر لازم نہیں کہ وہ لوگوں کو  
دعوت دے اور طلب کرے۔

جس طرح لوگوں پر واجب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

۱۲۔ اس مقام پر یہ امر واضح رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزات  
دکھلانا ہرگز اس نکتے کے تحت نہیں بلکہ اس سے خارج ہے۔

”حجرے دکھلانا اپنی صداقت کی دلیل تھی۔ لیکن آپ نے کبھی غیر طبعی اور مادرائی  
طریقے سے کسی کو مسلمان نہ کیا۔ مثلاً آپ اسی انگشت مبارک سے کہ جس سے آپ  
نے شق القمر کیا، اشارہ کرتے اور لوگ مسلمان ہو جاتے، ہرگز نہیں۔ آپ نے کبھی ایسا  
نہیں کیا۔“

نیز مختلف عزوات کے مواقع پر نزول ملائکہ بھی اس سے خارج ہے، کیونکہ مثلاً  
جنگ بدر میں از اہتمام حجت اور معجزات کے مشاہدے کے بعد لڑی گئی۔



دشمنوں کو دور رکھیں! اسی طرح امام کی نسبت بھی لوگوں پر واجب ہے کہ آپ کو دشمنوں سے کوئی گزند نہ پہنچنے دیں۔ اور امام کی بھرپور حفاظت کے ساتھ ساتھ، اپنے اتصال کو بھی برقرار رکھیں، نیز دینی مسائل اور احکام بھی سیکھیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنی یہ شرعی ذمہ داری ادا نہ کی اور امام کو بے یار و مددگار اس طرح دشمنوں کے ترغیب میں چھوڑ دیا کہ امام کو اپنے قتل کا اندیشہ اور دشمن کا خوف لاحق ہوا تو پھر امام کے لئے قرار پایا کہ وہ گوشہ نشینی اور سکوت کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی اس دعوت اور تبلیغ سے دست بردار ہو جائیں۔ لیکن قابل توجہ امر یہ ہے کہ اس صورت میں تمام تر ذمہ داری اور گناہ امت کی گردن پر ہے، امام کے کاندھوں پر نہیں۔ اور اسی بات کی جانب عظیم الشان محقق خواجہ نصیر الدین طوسی (طاب ثراہ) نے اپنی کتاب ”تجرید الاعتقاد“ میں اشارہ کیا ہے۔

لکھتے ہیں کہ:

”وجود امام لطف و کرم خداوندی ہے، اور امام کا معاشرے کی باگ ڈور سنبھالنا اس سے بہتر لطف و کرم ہے، اور اگر اس زمانے میں امام بہ نفس نفیس زمام امور کو ہاتھ میں نہیں لیتے تو اس کا باعث ہم لوگ خود ہیں۔“

اس بات کے روشن ہو جانے کے بعد ہم اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں یعنی فلسفہ غیبت۔ اسکے بارے میں درج ذیل باتیں کہی جاسکتی ہیں۔

(۱) شیعوں، بلکہ غیر شیعوں کی سرزنش اور تنبیہ

وہ امت کہ جس میں رسول یا امام موجود ہو اور امت ان کے حق ادا نہ

کرے۔ احکامات کی تعمیل نہ کرتے ہوئے رسول یا امام کے امر و نہی کو نادیدہ گردانے، یہاں تک کہ رسول یا امام کی پکار صد ابصر اء ثابت ہو۔ اور اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ طغیانی کی حدوں کو پھلانگتے ہوئے ہر قسم کی اذیت و آزار کو روا رکھے تو اس صورت میں امام یا رسول کے لئے جائز ہے کہ وہ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرتے ہوئے امت کو چھوڑ دے۔ تاکہ امت کی سرزنش ہو اور وہ اپنے کئے کی سزا بھگت سکے۔ اور شاید دوبارہ رسول یا امام کی طرف لوٹ آئے، اپنے رشد فکری کے راستے کو طے کرے، امام کی اطاعت اور فرمانبرداری کو نصب العین قرار دے، اور امام یا رسول سے دور رہنے کے نتیجے میں آپ کے وجود کی نعمت کا اندازہ کر سکے۔

جب گوشہ نشینی اور دعوت کا ترک کرنا، امت کی سرزنش اور حسیبہ کی خاطر ٹھہرا تو یقیناً امت کی مصلحت اور بھلائی اسی میں ہے خواہ امت اس نکتہ کو درک کر سکے یا نہ کر سکے۔

اس گوشہ نشینی اور دعوت ترک کرنے کی کوئی حد ہے اور نہ کوئی معین وقت۔

نیز اس حد کے تعین کے سلسلے میں کوئی بھی مدت حتمی طور پر معین نہیں کی جاسکتی۔ اس گوشہ نشینی اور ترک دعوت کی حد تو یہی ہے کہ امت اپنی گمراہی سے رشد و ہدایت کو جانب اور خواب غفلت سے بیداری کی جانب لوٹ آئے۔ نیز ان نتائج اور فوائد کی جانب بھی توجہ کرے کہ جو امام یا رسول کے امت کے درمیان ہونے کی صورت میں حاصل ہوتے۔

تاریخ کے اوراق اہل بیت و وحی و رسالت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ

و مسلم پر ظلم، ستم ازیت و آزار، ان کے اس حق کو کہ جس کو باری تعالیٰ نے اجر رسالت قرار دیا نہ لوٹانے اور دوسرے شدید مظالم کے ذکر سے سیاہ ہیں۔ امت کو آپ کے حق کی خاطر قیام نہ کرنا تھا اور نہ اس نے کیا، لیکن اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ زندگی کو ان لوگوں پر سخت عجز کرنے، فضیلت و منزلت کو گھٹانے، انکی اولاد اور خود ان کو قتل، قید و بند، پھانسی دینے، در بدر و بے آسرا اور جلا وطن کرنے جیسی تکالیف پہنچانے سے بھی گریز نہ کیا۔

بلا شک حضرت مدیٰ ان تمام باتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ نیز یہ بھی جانتے ہیں کہ امت کی یہ بے وفائی، قدر ناشناسی، اور نالافتی آپ کے ساتھ بھی اسی طرح بلکہ اس سے شدید، چٹکھے اور خطرناک انداز میں برقرار رہے گی۔ جس کی وجہ امت کو آپ کی خصوصیات کا علم ہو جاتا ہے۔ امت یہ بات بھی جانتی ہے کہ آپ جہاد بالسیف سے اپنی دعوت کا آغاز کریں گے۔ کیونکہ آپ یہ بات جانتے تھے کہ یہ امت میرے ساتھ وہی سلوک کرے گی کہ جو میرے آباؤ اجداد، عم زادوں اور اقرباء کے ساتھ کیا ہے لہذا آپ گوشہ نشینی اور مخفی زندگی میں چلے گئے۔ اور امت کو اسکے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نیت سے آپ کی غرض امت کے سرزنش، تنبیہ، اپنے رشد کی جانب لوٹنا، امام کے ضروری اور لازمی حق کا ادا کرنا ہے اور امام کے وجود سے حاصل شدہ فوائد کا شعور حاصل کرنا ہے۔

علل الشرائع میں عطار اپنے والد سے اور وہ اشعری سے اور وہ احمد بن الحسین سے اور وہ عمر بن محمد بن عبد اللہ سے اور وہ مروان الانباری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو جعفر علیہ السلام سے یہ بات نقل ہے کہ آپ نے فرمایا: رب العزت جب کسی قوم کی موجودگی کو ہمارے اطراف پسند نہیں کرتا تو ہمیں اس

قوم کے درمیان سے اٹھالیتا ہے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

(۲) آپ کا اپنی دعوت کے سلسلے میں بیرونی دباؤ کے تحت نہ

رہنا، اور تمام امور کو براہ راست ہاتھ میں رکھنا

جو شخص بھی کسی اصلاحی تحریک کا علمبردار ہوتا ہے خواہ تحریک دنیوی ہو یا دینی اس کو لامحالہ مددگاروں کی ضرورت پڑتی ہے، بعض صاحب اقتدار اور بارسوخ شخصیات کے ساتھ معاہدے کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ اس شخص کی بوقت ضرورت مدد کر سکیں یا کم از کم اسکی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ ان معاہدوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تحریک کا قائد ان افراد کے ساتھ رواداری کا سلوک کرتا ہے اور ان کے سامنے اپنی اصلاحی تحریک کا منشور پیش نہیں کر سکتا، تاکہ اس معاہدے کی پابندی ہو سکے۔ یہاں تک کہ تحریک کامیاب ہوتی ہے اور زمام امور اس قائد کے ہاتھ میں آجاتی ہے اور معاہدے کے مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تحریک کا قائد ان مقتدر اور بارسوخ افراد کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے کہ جو قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔

اس پورے عمل کا لازمہ یہ ہے کہ معاہدے کے سبب بعض احکام کو ان مقتدر افراد کی نسبت رواداری اور نرمی سے جاری کیا جائے اور ان کے ساتھ اپنی حفاظت اور خوف کی خاطر قرار واقعی سلوک نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے کہ:

”الا الذین عاہدتم من العشرکین ثم لم ینقضوکم

شیاء ولم یظاہروا علیکم احدا فانموا الیہم عہدہم“

”مگر (ہاں) جن مشرکوں سے تم نے عہد و پیمانہ کیا تھا پھر ان لوگوں نے کبھی کچھ تم سے (وفائے عہد میں) کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی تو ان کے عہد و پیمانہ کو جتنی مدت کے واسطے مقرر کیا ہے، پورا کرو۔“ (سورہ توبہ - آیت ۴)

لیکن حضرت ہمدی جب ظہور کریں گے تو آپؐ اپنی دعوت اور تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے معمول کے مطابق ظاہری وسائل کو بروئے کار لائیں گے، اسکے علاوہ انکے تمام فیصلے حقیقت حال کے مطابق ہونگے، یہی انکی ذمہ داری بھی ہے۔ نیز کسی کا بھی خوف آپؐ کو لاحق نہ ہو گا۔ متعدد روایات ہیں جو انسی مضامین کو بیان کرتی ہیں۔ آپؐ کا دور حق کی مکمل بالادستی کا دور ہو گا، جو تقیہ سے متنازع ہے۔ جس کا لازمہ یہ ہے کہ آپؐ کی گردن میں کسی کی بھی بیعت کا طوق نہ ہو۔

کیونکہ بیعت ہونے کی صورت میں مجبوراً آپؐ کو اس شخص سے معاہدہ کرنا پڑے گا جو تقیہ اختیار کرنے کا باعث ہے۔ اور ان تمام باتوں سے چھٹکارا اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب آپؐ کے اعوان و انصار اور دیگر مدد کے اسباب وافر مقدار میں موجود ہوں۔

کتاب کمال الدین اور ابو ولید دونوں نے سعد سے اور انہوں نے یقظینی اور ابن ابی الخطاب سے اور ان دونوں نے ابن ابی عمیر سے اور انہوں نے ہشام بن سالم سے اور انہوں نے ابو عبد اللہؑ سے روایت کی ہے کہ: قائم اس شان سے قیام کرے گا کہ اس کی گردن میں کسی کی بھی بیعت کا

طوق نہ ہوگا۔

کتاب کمال الدین نبی میں طالقانی سے اور وہ ابن عقدہ سے اور وہ علی بن الحسن بن فضال سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ جناب ابوالحسن علی بن موسیٰ الرضا سے نقل کرتے ہیں کہ آپؑ نے فرمایا: گویا کہ میں شیعوں کے ہمراہ ہوں، جب کہ انہوں نے میری چوتھی نسل سے میرے فرزند کو کھو دیا ہے، پس وہ لوگ اپنے لئے جائے سکون تلاش کریں گے، لیکن پانہ سکیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا: ایسا کیوں ہو گا یا بن رسول اللہ! فرمایا: کیونکہ ان کا امام ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ میں نے پوچھا: کیوں؟ فرمایا: تاکہ جب وہ ششیر کے ساتھ قیام کرے تو اس کی گردن میں کسی کی بھی بیعت کا طوق نہ ہو۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

### (۳) نفوس انسانی کی تہذیب و تکمیل

یہ امر کسی بھی ذی شعور کے لئے غفلت نہیں، نیز بجائے خود طے شدہ امر ہے کہ لوگوں میں شرعی تکالیف سے عمدہ برآہونے، دینی مسائل کو سیکھنے اور علوم حاصل کرنے کی صلاحیت اور استعداد مختلف ہے۔ اسی بنا پر ایمان کے درجات، انبیاء اور اوصیاء کی جانب سے دی گئی تعلیمات اور احکام اور مختلف شرائع آسمانی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جی ہاں! ارشاد رب العزت ہے:

”لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ (سورہ بقرہ۔ آیت ۲۸۶)

”خدا کسی کو اسکی طاقت سے زیادہ تکلیف (شرعی) نہیں دیتا۔“

اگر لوگ اپنی طاقت سے زیادہ شرعی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا دیئے

جائیں اور استعداد سے زیادہ ریاضتوں میں مشغولی ہو جائیں تو اس صورت میں مطلوبہ ہدف حاصل نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ طاقت اور برداشت سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل ناممکن اور عائد کردہ ذمہ داری سے عمدہ برآ ہونا محال ہے جو لامحالہ ترک اطاعت خداوندی اور ارتداد یا جہالت کی زیادتی کا باعث بنے گا۔

”ربنا ولا تحملنا مالا طاقه لنا به“ (سورہ بقرہ۔ آیت ۲۸۶)

”اے ہمارے پالنے والے! اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو ہم سے نہ اٹھوا۔“

اور اسی طرح معصوم کا فرمان ہے کہ: ”لو علم ابوذر مافی سلمان

لکفرا ولقتله“

جناب کلینیؒ نے کافی میں حضرت ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام سے

روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا: کتاب علی علیہ السلام میں موجود ہے کہ:

حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی: اے میرے پالنے

والے! مجھ سے حق کو اس طرح ادا کروا جس طرح کہ تو جانتا ہے، (اور تیرے علم

میں ہے) تاکہ میں اس کے تحت مقدمات کے فیصلے کر سکوں، خداوند تعالیٰ نے

فرمایا: یقیناً تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت داؤد نے بے پناہ اصرار کیا

یہاں تک کہ باری تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، اس کے بعد حضرت داؤد کے پاس

ایک شخص کسی دوسرے شخص کی شکایت لے کر حاضر ہوا، اور کہا کہ اس نے مجھ

سے میرا مال چھین لیا ہے۔ اوھر پروردگار عالم نے آپؑ پر وحی نازل کی کہ اس

مدعی نے مدعا علیہ کے باپ کو قتل کر کے اس کا مال چھین لیا تھا، لہذا تم اس مدعی کو

قتل کرو اور اس کا مال چھین کر مدعا علیہ کے حوالے کر دو۔ حضرت داؤد نے ایسا ہی کیا۔

امامؑ فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد نے یہ کام کیا تو لوگ حیرت زدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ: ہائیں یہ کیسا عجیب فیصلہ ہے۔ اور باتیں بنانی شروع کر دیں۔ جب یہ باتیں حضرت داؤد تک پہنچیں تو آپ کو ناگوار گزرا اور آپ نے خدا سے دعا کی کہ خداوند! اس چیز کو مجھ سے چھین لے۔ خدا نے آپ کی دعا قبول کی اور پھر حضرت داؤد کو وحی فرمائی کہ لوگوں کے درمیان گواہوں کے ذریعے فیصلے کیا کرو اور اس میں میرا نام بھی شامل کرو تاکہ لوگ میرے نام کی قسم کھایا کریں۔ ہمارے مولا حضرت ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہما السلام سے منقول ہے کہ:

”اگر لوگ یہ جان لیں کہ خداوند تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیسے خلق کیا تو کوئی کسی کو ملامت نہ کرے گا۔“

اسی طرح ہمارے مولا ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہما السلام سے نقل ہے:

”کہ تمام مومنین (اپنی اپنی) منازل پر ہیں۔ ان میں کچھ پہلی منزل پر، کچھ دوسری منزل پر، کچھ چوتھی منزل پر کچھ پانچویں، کچھ چھٹی اور کچھ ساتویں منزل پر ہیں۔ پس اگر پہلی منزل کے حامل مومن کو دوسری منزل دے دی جائے تو تاب نہ لاسکے گا، اور دوسری منزل کے حامل کو تین منزل دے دی جائیں تو اسکی طاقت جو اب دے جائے گی۔“ (حدیث)

لاحظہ کریں

اور اس بات کی جانب وہ شعر جو امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب



ہیں، اشارہ کرتے ہیں۔

”انی لاکتُم من علمی جواہرہ

کیلا یری الحق فوجہل فیفتنا“

میں اپنے علم کے جواہر کو محفوظ رکھتا ہوں، تاکہ جمالت کا مارا کوئی شخص  
حق کو دیکھ کر ہمارے لئے نئے نئے فساد پر پاؤں نہ کرے۔

”وقد تقدم فی ہنا ابو حسن

الی الحسنین و وصی قبلہ الحسن“

اور اس کام کو مجھ سے پہلے ابوالحسنؑ کر چکے ہیں اور امام حسینؑ نے بھی  
یہی کیا اور امام حسینؑ سے پہلے امام حسنؑ نے بھی اس بات کی وصیت  
کی۔

”یارب جوہر علم لو ابوح بہ

لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا“

اے میرے پالنے والے! اگر میں اپنے علم کے جوہر کو آشکار کر دوں تو  
یقیناً مجھ سے یہی کہا جائے گا کہ تم بت پرستوں میں سے ہو۔

”ولاستحل رجال مسلمون دمی

یرون اقبح ما یاتونہ حسنا“

مسلمانوں کے بڑے بڑے کرنا دھرتا میرے خون کو مباح سمجھیں گے  
اور جو چیز اچھی ہے اس کو برا اور قبیح سمجھیں گے۔

اسکے علاوہ اور بہت سے شواہد ہیں کہ جو طاقت اور برداشت سے زیادہ علوم

کو سیکھنے کے نقصانات بتاتے ہیں۔

روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب حضرت مہدیؑ قیام کریں گے تو اپنے علم کو بروئے کار لاتے ہوئے حکم کریں گے اور لوگوں کے درمیان حقیقی تعلیمات اسلامی اور دینی مسائل کو پھیلائیں گے۔ نیز تمام حقائق پر سے پردہ اٹھائیں گے، دین کی طراوت، شادابی اور حقیقت پر سے پردہ اٹھائیں گے۔ یعنی ان تمام بے بنیاد، من گھڑت اور لغو باتوں کو جو دین سے چسپاں ہو گئی ہیں دین سے جدا کریں گے یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھیں گے گویا آپ ایک جدید دین اور نئی کتاب لے کر آئے ہیں۔

یقیناً ان اصلاحات اور حقائق کے نشر کے لئے، عقل انسانی کی موجودہ سطح سے کہیں بلند، اعلیٰ، ارفع اور اکمل عقول کی ضرورت ہے۔

بہت ممکن ہے کہ آپ کے ظہور میں تاخیر اور نصیب کے امتداد کا سبب مطلوبہ ترقی اور عقل انسانی کے کمال کا حصول ہے جو آج کے سائنسی علوم کی بدولت روز بہ روز ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔

رسالہ الہلال میں چند برس ہوئے ایک مقالہ تحریر تھا کہ جس میں معاد کو ثابت کیا گیا تھا اور عنوان تھا: آیا اس دنیا کے بعد بھی کوئی اور دنیا ہے؟

پھر اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریر تھا کہ یقیناً ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب مادی علوم کی مانند ادبی، علمی معلومات بھی اپنے کمال کو پہنچ جائیں گی۔  
(تمام ہو اکلام الہلال)

آج کے انسان کی جتنی توجہ اور اہتمام مادی دنیا کی طرف ہے یقیناً ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس مادی دنیا پر توجہ سے کہیں زیادہ ادبی، علمی اور اخلاقی اقدار پر اسکی توجہ ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو، جب کہ انسان یہ بات درک کر چکا ہے

کہ اس مادی دنیا نے اس کے حقوق کو پامال، عرصہ حیات کو تنگ، جبر و استبداد کو حاکم اور اذیت و آزار کو بے پناہ زیادہ کر دیا ہے۔ اور عنقریب انسان یہ دیکھے گا کہ ظہور کے سبب زمین کس شان سے اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔

### (۴) لوگوں کا امتحان اور آزمائش:

خدا نے جب سے اپنے بندوں کی جانب ارسالِ رسل اور بعثِ انبیاء کو شروع کیا، اسی وقت سے سنت الہیہ بھی رہی، یعنی وہ سنت کہ جس میں تبدیلی ہے اور نہ ہی تغیر کہ اپنے بندوں کا امتحان لے اور ان کو آزمائش میں ڈالے تاکہ بنا بر ارشادِ رب العزت:

”لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنِ بَيْنَتِهِ وَيَحْيِي مَنْ حَيِيَ عَنِ

بَيْنَتِهِ“ (سورہ الانفال - آیت ۴۲)

”تاکہ جو شخص ہلاک (گمراہ) ہو وہ (حق کی) حجت تمام ہونے کے بعد

ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ (ہدایت کی) حجت تمام ہونے کے بعد زندہ

رہے۔“

نیز انسانوں کے درجات اور مراتب معین ہو سکیں، بلکہ خود ان کی اپنی حیثیت اور حقیقت خود ان کے اپنے سامنے کھل جائے، یقیناً انسان کبھی کبھی اپنے حال سے بھی غافل اور لاعلم ہوتا ہے۔

تمام آسمانی قوانین اور شرائع، تعلیمات کی مانند ہیں، نیز ایک ایسا لائحہ عمل ہیں کہ جس میں اخلاقی، مادی، دنیوی، اخروی، فردی اور معاشرتی پہلوؤں کو نظر میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ دنیا ایک درسگاہ اور تعلیمی ادارے کی مانند ہے کہ جس

میں رسول اور نبی استاد و مبلغین کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یہ ابھی طے شدہ امر ہے کہ ہر درسگاہ اور تعلیمی ادارے کے امتحانات اسی درسگاہ کی مناسبت سے انجام پاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اس دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور حوادث ان دروس کے امتحانات ہیں جس کے ذریعے نفوس انسانی میں ان حوادث اور واقعات کی تاثیر کا پتہ چلتا ہے۔

”الم ○ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون“

الم، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ صرف کہنے پر کہ ”ہم ایمان لے آئے“ چھوڑ دیئے جائیں گے، اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا۔ (سورہ عنکبوت - آیت ۲)

تمام کی تمام شریعت اسلامی، ہر لحاظ سے کامل ترین شریعت ہے۔ اس شریعت میں ایسی خوبیاں اور محاسن ہیں جو کسی دوسری شریعت میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ لہذا اس امت کو بھی ہو، ہو تمام حالات، امتحانات اور آزمائشات درپیش ہو گئی کہ جو پھینکی امتوں کو درپیش تھیں اور اس پہلو سے امت اسلامی اور گزشتہ امتوں میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ امت اسلامیہ کو اس درسگاہ اور جامعہ میں کہ جس کا نام ”دنیا“ ہے انہی دروس اور آزمائشات کا سامنا ہے کہ جن سے گزشتہ امتیں گزریں۔

گزشتہ امتوں کو درپیش امتحانات میں سب سے اہم امتحان ان کے بعض انبیاء کی غیبت ہے۔ لہذا اس امت مرحومہ کو بھی ایسے ہی امتحان سے گزرنا چاہئے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے دور رہ کر

شعب ابی طالب میں تین برس کا عرصہ گزارا۔

حضرت مدنی علیہ السلام کی غیبت بھی اسی باب سے ہے۔ یہ غیبت اس وقت تک جاری رہے گی یہاں تک کہ گمراہی اور ہدایت کا فرق واضح ہو جائے اور مومن و منافق کی شناخت ہو جائے۔ آپ کی غیبت شیعوں، بلکہ شیعوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے بھی ایک کڑی آزمائش اور امتحان کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح بعض انبیاء کو بھی غیبت درپیش ہوئی اسی طرح امام مدنی کو بھی غیبت درپیش ہے۔ مری بات مدت کے طویل یا قلیل ہونے کی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

کمال الدین و تمام النعمۃ میں محمد بن علی بن حاتم سے وہ احمد بن عیسیٰ الوشا ابغدادی سے اور وہ احمد بن طاہر سے اور وہ محمد بن یحییٰ بن سہل سے اور وہ علی بن الحارث سے اور وہ سعد بن منصور الجواشقی سے اور وہ احمد بن علی البدری سے اور وہ اپنے والد سعد بن میرنی سے نقل کرتے ہیں کہ بناب سعد نے کہا: میں مفصل بن عمر، ابو بصیر، اور ابان بن تغلب کے ہمراہ اپنے مولا ابو عبد اللہ جعفر بن محمد علیہما السلام کی خدمت میں پہنچا۔ تو آپ کو اس شان سے خاک پر بیٹھا پایا کہ اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی پلاگرجان کی عجا کو دوش پر ڈالے اس طرح گریہ و بکاء فرما رہے تھے گویا کوئی جگر سوختہ ماں اپنے جوان سال بیٹے کی موت پر ماتم کر رہی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ غم و اندوہ نے آپ کے وجود کو اپنی پیٹ میں لے رکھا ہے۔ چہرہ مبارک کا رنگ متغیر تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ فرما رہے تھے: سیدی! آپ کی جدائی نے میری راتیں بے خواب کر دیں، مجھے بستر استراحت پر بھی بے چین کر دیا، میرا سکون قلب چھین لیا، سیدی! آپ کی

غیبت میں میرے مصائب و آلام اب کبھی منت پذیر و رماں نہ ہونگے۔ بے درپے جدائی نے سب کو ایک دوسرے سے چھڑوا دیا۔ اب میری آنکھوں میں نہ آنسو ہیں (کہ رو سکوں) اور نہ ہی گزشتہ رنج و الم کے سبب آہ سوزناک جو (سینے کا بوجھ ہلکا کر سکے)۔ ابھی گزشتہ مصائب و آلام سے آرام نہیں لینے پاتا کہ ان سے شدید تر دوسرے مصائب مجھ پر آپڑتے ہیں۔

مدیر کہتے ہیں کہ دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے اور ہمارے ہوش و حواس جاتے رہے۔ اس دردناک اور گھائل مناجات سے ہمارے دل بھر آئے۔ ہم سمجھے کہ کہیں سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کسی دشمن نے آپ کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ لہذا ہم نے کہا کہ: اے خدا کی بہترین مخلوق کے فرزند! خدا نہ کرے کہ کبھی آپ کی آنکھیں اٹکلبار ہوں۔ کیسا غم ہے جس میں آپ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے اور کس حزن و ملال کا زخم ہے جو مندمل نہیں ہوتا۔ (مولانا) وہ کوئی بات ہے جس نے آپ کو اس ماتم و عزا میں مبتلا دیا۔

کہتے ہیں کہ یہ سن کر امام صادقؑ نے ایک سرو آہ بھری جس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے غم و اندوہ تازہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا: وائے ہوا آج صبح میں نے کتاب جعفرؑ نظر ڈالی۔۔۔ اور یہ کتاب جعفر وہ کتاب ہے کہ جس میں روز قیامت تک کی اموات، بلاؤں اور آفات، ثواب و جزاء، گزشتہ اور قیامت تک ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے۔ یہ وہ علم ہے جو باری تعالیٰ نے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انکے ائمہ علیہم السلام سے مختص کر دیا ہے۔۔۔ اور جب ہم اہل بیتؑ کے قائم کی ولادت، انکی غیبت اور انکی طویل مدت اور طول عمر کو میں نے دیکھا تو یہ پایا کہ مومنین کو انکی غیر حاضری کے سبب

مشکلات و مصائب درپیش ہونگے، نعبت کے طویل ہونے کی بنا پر دلوں میں شلوک پیدا ہونگے اور ان میں سے اکثر لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے، اسلام سے وفاداری کا جو بار خدا نے ان کی گردن میں جمائل کیا ہے اس کو اتار پھینکیں گے۔

جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا:

”وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ“

(سورہ بنی اسرائیل - آیت ۱۳)

”اور ہم نے ہر انسان کے طائر کو اسکے گلے کا بار بنا دیا ہے۔“

اور اس آیت کی تلاوت کے بعد امامؑ نے فرمایا: یعنی ولایت اہل بیتؑ کو۔ اسی وجہ سے میرا دل غم و اندوہ سے بھر گیا اور مجھ پر شدید رقت طاری ہو گئی۔

ہم نے عرض کی: یا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھی اپنے علم سے بعض چیزوں کو جاننے کا شرف بخشئے۔

آپؑ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل بیتؑ کے قائم کو وہی تین خصوصیات عطا کیں جو اپنے تین رسولوں کو عطا کیں۔

ان کی (قائم کی) ولادت، حضرت موسیٰؑ کی ولادت کی مانند، نعبت حضرت عیسیٰؑ کی نعبت کی مانند اور آپؑ (مدنی) کے امر میں تاخیر اور تھقل حضرت نوحؑ کی مانند، اسکے علاوہ باری تعالیٰ نے اپنے عبد صالح یعنی خضرؑ کو طولانی عمر عطا کرتے ہوئے، آپؑ (قائم) کی عمر پر گواہ اور دلیل بنایا۔

میں نے عرض کی: یا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے ان

امور کے معافی کو ذرا واضح فرمائیے۔

امامؑ نے فرمایا: جہاں تک حضرت موسیٰؑ کی ولادت کا مسئلہ ہے تو اسکی داستان یہ ہے کہ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا کہ اسکی مملکت اور سلطنت، اسکے زمانے ہی میں ختم ہو جائیگی تو اس نے تمام کانہوں کو طلب کیا جس پر کانہوں نے فرعون کو اس شخص کا نام و نسب بتایا، نیز اس بات کی بھی اطلاع دی کہ وہ شخص بنی اسرائیل سے ہوگا۔

فرعون کو اس کا پتہ چلنا تھا کہ اس نے اپنے کارندوں کو بنی اسرائیل کی حاملہ خواتین کے شکم چاک کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اکیس سے انیس ہزار معصوم بچوں کا خون کر دیا۔ لیکن پھر بھی حضرت موسیٰؑ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اور خدا نے آپؑ (موسیٰ) کی حفاظت کی۔

اسی طرح بنو عباس اور بنو امیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی امارت، مملکت اور جاہ و حکمران ہم اہل بیتؑ کے قائم کے ہاتھوں نیست نابود ہو جائیگے تو انہوں نے ہماری دشمنی شروع کر دی، اپنی نکواریوں کو سونت کر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن جن کر مارنے پر کمر باندھی اور رسول اللہؐ کی نسل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی صرف اس امید پر کہ اس قتل و غارتگری کی لپیٹ میں قائم آل محمدؑ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن خدا نے ان ظالموں میں سے ایک پر بھی اپنا امر آشکار نہ ہونے دیا۔ بجز اسکے کہ نور خدا جگمگا کر رہے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔

اور جہاں تک حضرت عیسیٰؑ کی غیبت کا سوال ہے۔ تو حقیقت امریوں ہے کہ یہود و نصاریٰ اس بات پر متفق ہیں کہ جناب عیسیٰؑ کو قتل کر دیا گیا لیکن



خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس قول کو غلط قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ:

”وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم“ (سورہ النساء - آیت ۷۱)

”نہ تو انہوں نے (یہودیوں نے) اسکو (جناب عیسیٰ علیہ السلام) قتل کیا اور نہ ہی اسکو (جناب عیسیٰ) سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لئے (کسی اور کو) شبیہ بنایا گیا تھا۔“

قائم کی غیبت بھی اسی طرح ہے کیونکہ امت اس غیبت کے طولانی ہونے کی بنا پر اسکا انکار کر دے گی۔ بعض لوگ بغیر سوجھ بوجھ کے یہ کہیں گے کہ قائم آل محمدؑ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، کچھ یہ کہیں گے کہ پیدا تو ہوا تھا لیکن وفات پا گیا، بعض یہ کہہ کر کفر کر بیٹھیں گے کہ گیارہویں امام لا ولد تھے۔ بعض لوگ اماموں کی تعداد بارہ سے بڑھا کر تیرہ یا اس سے بیشتر کر دیں گے۔ اور بعض یہ کہہ کر معصیت الہی کے مرتکب ہونگے کہ قائم کی روح، کسی دوسرے کی جیکل میں آکر کلام کرتی ہے۔

اور حضرت نوحؑ کے امر میں تعطل اور تاخیر کے معنی یہ ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر عذاب الہی نازل کروانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل روح الامین کو سات مرتبہ بھیجا اور انہوں نے کہا کہ: اے نبی اللہ! خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی قوم، میری مخلوق اور میرے بندے ہیں۔ میں ان کو اپنی ایک بھی معاند آسانی کے ذریعے اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہ کروں گا جب تک کہ دعوت دین عام اور حجت تمام نہ ہو

جائے۔ پس اپنی قوم کو دعوت حق دینے میں اپنی آخری کوشش بروئے کار لاؤ۔  
 میں یقیناً تمہیں اس کام کا ثواب دوں گا۔ یہ ایک بیج لو اسکو بودو 'یقیناً اسکے خوب  
 پروان چڑھتے اور پھلنے پھولنے میں تمہارے لئے مشکلات سے نجات اور گلو  
 خلاصی ہے۔ اس بات کی بشارت ان تمام مومنین کو دو کہ جو تمہاری پیروی کرتے  
 ہیں۔

پس جب درخت اگ آئے 'خوب پھل پھول آگئے' شاخیں اور تنے  
 مضبوط ہو گئے اور درخت کچے ہوئے پھلوں سے لد گیا تو پھر حضرت نوحؑ نے  
 خداوند تعالیٰ سے وعدہ کو وفا کرنے کی دعا کی۔ دوبارہ باری تعالیٰ نے آپؑ کو حکم دیا  
 کہ اب تم اس درخت کے پھلوں سے حاصل شدہ بیجوں سے دوبارہ ایک درخت  
 اگاؤ اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعوت حق دیتے رہو 'نیز اپنی قوم  
 پر اتمام حجت جاری رکھو۔ جب حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کے ان افراد کو جو آپ  
 پر ایمان لائے تھے خداوند تعالیٰ کے اس جدید حکم کی اطلاع دی تو ان میں سے  
 تین سو افراد مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر نوح اپنے وعدے میں سچے ہوتے تو  
 پروردگار اپنا وعدہ پورا کرنے میں ہرگز تاخیر نہ کرتا۔

پھر اسکے بعد جب بھی بیج سے پودا پھوٹ لگتا اور نونمند درخت میں تبدیل  
 ہوتا ہر مرتبہ باری تعالیٰ یہی حکم دیتا کہ اب اس درخت سے حاصل شدہ بیجوں کو  
 بودو 'یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سات مرتبہ درختوں کے بیجوں کو  
 بویا اور ہر مرتبہ درخت کے پھلنے پھولنے کے بعد جب اس درخت کے ساتھ وہی  
 حکم آتا 'تو مومنین میں سے چند مرتد ہو جاتے۔ یہاں تک کہ آپؑ پر ایمان لانے  
 والوں کی تعداد گھٹ کر اکثر اور اناسی کے درمیان رہ گئی۔

اس منزل پر باری تعالیٰ نے وحی کی کہ : اے نوح! اب تمہارے مصائب کی رات چھٹ چکی اور صبح امید طلوع ہو گئی۔ حق واضح ہو گیا، اور خبث باطن رکھنے والوں کے ارتداد کے سبب ایمان تمام غلاظتوں سے دور ہو گیا۔ اب اگر میں اس وقت تمام کفار کو ہلاک کر دیتا اور تم پر ایمان لانے والے افراد باقی رکھتا جو بعد میں مرتد ہو گئے تو یقیناً اس صورت میں میرا وہ سابقہ وعدہ وفاء نہ ہوتا کہ جو میں نے خالص توحید پر کاربند رہنے اور تمہاری نبوت کی رسی کو تھامنے والے مومنین سے کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ان کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا، ان کے دین کو مستحکم کروں گا اور خوف کے بجائے امن و سلامتی عطا کروں گا، تاکہ میری عبادت شک و شبہ سے پاک اور خالص قلوب کے ساتھ ہو، لیکن چونکہ مرتدین کے رگ و پے میں گمراہی اور نفاق سا چکا تھا، اس لئے میں پہلے ہی سے ان کے ضعف ایمان، خبث باطن اور پست فطرتی کو جانتا تھا لہذا اس صورت میں اگر مومنین کو خلیفہ قرار دیتے وقت، منافقین اپنے دشمنوں کی جانب سے میدان صاف پا کر اس مملکت پر قابض ہو جاتے تاکہ اس کی فضا میں سکون کا سانس لے سکیں۔ تو پھر وہ (منافقین) اپنے نفاق کی جڑوں کو گہرا کرتے، گمراہی کے جھکنڈوں کا جال پھیلاتے اور اپنے ہی برادران ایمانی سے دشمنی شروع کر دیتے، حکومت کی ہاگ ڈور سنبھالنے پر جنگ کرتے اور امر و نہی جیسے امور کے بلا شرکت غیرے مالک بن جاتے، لہذا اس انتشار اور نقصان نفسی کے عالم میں کس طرح دین کی بنیاد مستحکم ہو سکتی تھی اور مومنین کو درپیش مشکلات اور مصائب میں کس طرح امن و سلامتی نصیب ہوتی۔ پس اب تم ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے ذریعے کشتی بناؤ۔

پھر امام صادقؑ نے فرمایا: اسی طرح قائم آل محمدؑ ہے۔ اس کی غیبت کے ایام نہایت طویل ہیں، یہاں تک کہ حق کھل کر سامنے آجائے، نیز اس کے وہ شیعہ جو خبیث باطن رکھتے ہیں اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ آپؑ کے عہد میں جب آپؑ کی خلافت دین کے استحکام اور امن و سلامتی کا دور دورہ ہو گا، تفاق کا بیج بونیں گے آپؑ کی طویل غیبت کے سبب مرتد ہو جائیں، تاکہ ان کے ارتداد کے ذریعے ایمان سے تمام ملاوٹیں دور ہو جائیں۔

مفضل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا بن رسول اللہؑ، تانہ صیوں کے خیال میں یہ آیت، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

آپؑ نے جواب دیا: خدا ان کے قلوب کو ہدایت نہ کرے، ان سب میں سے، حتیٰ حضرت علیؑ کے دور میں بھی دین کی وہ شکل کب سامنے آئی کہ جس سے خدا اور اس کا رسول راضی و خوشنود ہوں۔ کیونکہ ان کے دور میں، امر منتشر رہا، دلوں میں خوف اور سینوں میں شکوک جاگزیں تھے، اسکے علاوہ مسلمانوں میں ارتداد، فتنوں کے یکے بعد دیگرے سر اٹھانے اور پنے در پنے جنگوں کے پیش آنے جیسے مسائل موجود تھے۔ پھر امام صادقؑ نے اس آیت کی تلاوت کی:

”حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرِّسْلُ وَظَنُّوْا اَنْهُمْ قَدْ كَذَبُوْا جَاۤءَهُمْ  
نَصْرُنَا“ (سورہ یوسف - آیت ۱۱)

”یہاں تک کہ جب ہمارے فرستادہ رسول، مایوسی کا شکار ہونے لگے اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، (تب) ہماری نصرت ان تک پہنچی۔“

اور اب عبد صالح حضرت خضر کے بارے میں 'تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر اس کے نہیں دی کہ آپ ایک صاحب منزلت نبی ہیں' اور نہ ہی اس بناء پر کہ آپ پر کوئی کتاب نازل ہونا تھی' اور نہ ہی اس لئے کہ آپ کی شریعت کے ذریعے 'مگزشتہ انبیاء کی شریعت کو صحیح کرنا مقصود تھا' اور نہ اس لئے کہ آپ (خضر) واجب الطاعت امام ہیں۔ اور نہ ہی کسی خصوصی اطاعت کا مالک بنانا مقصود تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ باری تعالیٰ کیونکہ اپنے علم کے سبب یہ بات جانتا تھا کہ قائم آل محمدؐ کی عمر اس کی منشاء مرضی کے مطابق نہایت طویل ہوگی۔ نیز یہ بات بھی علم پروردگار میں تھی کہ اس کے بندے 'اتنی طویل عمر کے سبب قائم کا انکار کر نہیں گئے' لہذا عبد صالح کی عمر کو بغیر مذکورہ اسباب کے طولانی کر دیا تاکہ اس کے ذریعے قائم آل محمدؐ کی عمر پر استدلال کیا جائے اور بطور شہادت پیش کیا جاسکے۔ نیز دشمنوں کے اعتراض کا رد ان ممکن جواب دیا جاسکے تاکہ لوگوں کے پاس 'خدا پر احتجاج و اعتراض کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔

روایت الواظمین میں جناب جابر جعفی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے عرض کی: آپ کے قائم کا فرج کب واقع ہوگا؟  
 فرمایا: ہرگز نہیں ہرگز نہیں، اس وقت تک واقع نہ ہوگا جب تک کہ لوگوں کو آزمائش و امتحان کی بھٹی میں نہ ڈالا جائے۔ یہاں تک کہ کھوٹے اور گھبرے کی پہچان ہو جائے۔"

ایضا اسی کتاب میں سعد بن عبد اللہ سے اور وہ حسین بن عیسیٰ علوی سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے جد سے اور وہ علی بن جعفر سے اور وہ اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

جب ساتویں امام کی پانچویں پشت کو تم اپنے درمیان نہ پاؤ تو خدا را اپنے دین کو بچائے رکھنا، ہرگز ہرگز کوئی بھی شے تمہیں تمہارے دین سے متزلزل نہ کرے۔ اس امر کے مالک کو ایسی غیبت و ریش ہوگی کہ جس میں اس امر پر ایمان رکھنے والے بہت سے لوگ اس سے پلٹ جائینگے، یقیناً یہ ایک کڑی آزمائش ہے کہ جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کا امتحان لے گا۔"

### (۵) قتل کا اندیشہ

انبیاء اور رسولوں کی گوشہ نشینی کا ایک سبب، قتل ہو جانے کا اندیشہ بھی ہے۔ کیونکہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں اور تعلیمات اور احکام کو فشر کر سکتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

"فضررت منکم لما خفتکم" (سورہ شعراء - آیت ۲۱)

"ان لملاء یا تمرون بک لیقتلوک فاخرج"

(سورہ القصص - آیت ۲۰)

جی ہاں! حضرت موسیٰ کے مصر سے نکلنے اور حضرت شعیب کے پاس پہنچنے کے اسباب میں سے ایک سبب قتل ہونے کا اندیشہ بھی ہے۔ یہی اندیشہ ہے جس کی بنا پر رسول اللہ شعب ابی طالب میں رہے اور جب کفار مکہ نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو خداوند تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس کے دوران آپ غار میں چھپے رہے اور پھر اپنے ہم سفر کے ساتھ مدینے پہنچے۔

حضرت صدیق اعظمؓ کی نصرت و کامیابی اور دعوت حق پیش کرنے کے لئے

ایک طرف تو ظاہری اسباب کی عدم موجودگی اور دوسری طرف دشمنوں کی طاقت 'آپ' کو قید و بند میں ڈالے جانے، بلکہ قتل و مصلوب کئے جانے تک کے اندیشے کو جنم دیتی ہے۔ پس اس صورت میں 'آپ' کے پاس سوائے گوشہ نشینی اور غیبت اختیار کرنے کے 'اور کوئی چارہ نہیں۔ یہاں تک کہ خدا اپنے امر کو ظاہر کرے۔ یقیناً باری تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار معین کی ہے۔

## چند سوالات آپ کے خوف کے بارے میں اور ان کے جوابات

خوف کے سبب 'آپ' کے پس پردہ غیبت میں چلے جانے کے بارے میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے مربوط چند سوالات ہیں جن کی جانب اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۱۔ خدا نے 'آپ' کے قتل کی راہ میں رکاوٹیں کیوں نہیں کھڑی کیں 'اور آپ' کے دشمنوں کو 'آپ' سے دور کیوں نہ کیا؟

جواب: وہ رکاوٹ جو شرعی تکلیف اور اجر و پاداش سے مخالفت اور تضاد نہیں رکھتی 'خدا وجود میں لا چکا ہے' اور وہ ہے 'آپ' کی پیروی اور نصرت کا حکم اور معصیت و مخالفت کی ممانعت۔ رہی بات 'آپ' کے اور دشمنوں کے درمیان حائل ہو کر ان کو 'آپ' سے دور کرنے کی تو یقیناً یہ شرعی ذمہ داری عائد کرنے، نیز فلسفہ گناہ و ثواب اور اجر و پاداش سے مخالفت اور تضاد رکھتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو 'آپ' اور 'آپ' کے دشمنوں کے درمیان اس طرح حائل ہونا نقصان رکھتا ہے، لہذا خداوند تعالیٰ

کبھی اس کام کو انجام نہ دے گا۔

۲۔ یہ تسلیم کئے لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان ظاہر نہیں ہو سکتے لیکن گوشہ نشینی اور کٹ کٹا کر رہنے میں کیا حرج ہے، جیسا کہ آپ کے اباؤ اجداد نے کیا، اور اس طرح قتل کے خوف کو ختم کر دیں؟

جواب: اپنے اباؤ اجداد کے برخلاف حضرت مہدیؑ کے قیام کی بنیاد خروج پالیسی اور تمام امور کی زمامداری پر ہے۔ اور یہی وہ امر ہے کہ جس کی بناء پر آپؑ کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ خصوصاً جبکہ یہ بات سب کے علم میں ہے اور آپؑ بھی نیز اسی موقع کے منتظر ہیں۔ اسکے علاوہ یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر آپؑ کے اباؤ اجداد میں سے کسی کو کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو ان کے بعد دوسرا امام موجود ہوتا تھا جو گزشتہ امام کی جگہ سنبھال سکے، لیکن آپؑ کے ساتھ ایسا نہیں، کیونکہ آپؑ ہی آخری امام ہیں اور آپؑ کے بعد کوئی ایسا نہیں کہ جو مسد نامت پر آپؑ کے بعد جلوہ افروز ہو سکے۔

۳۔ چلے یہ بات مانے لیتے ہیں کہ آپؑ کی غیبت دشمنوں سے خوف کی بنا پر ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپؑ کے دوستوں اور چاہنے والوں سے بھی دور ہیں؟

جواب: جب آپؑ کے شیعہ اور چاہنے والے (کہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں) آپؑ کی ملاقات اور زیارت سے بہرہ مند ہونگے، تو یہ امر بھی یقینی ہے کہ آپؑ کا محل و سکونت دشمنوں کے علم بھی آجائے گا۔

۴۔ مذکورہ بالا جواب اس صورت میں صحیح ہے جب تمام شیعہ آپؑ سے ملاقات کر سکیں لیکن اگر خاص الخاص اور متعین کو اس بات کی اجازت مل



جائے تو کیا مضائقہ ہے؟

جواب: معروف ضرب الثقل ہے کہ:

”کل سر جاوز الاثنین شاع“

جس راز کا علم دو اشخاص کو ہو گیا تو وہ سارے زمانے میں مشہور ہو گیا۔

۵۔ جس طرح غیبت صفری کے دوران آپ کے نائبین خاص آپ کی خدمت میں شرفیاب ہوتے تھے، وہی صورت اب کیوں باقی نہیں؟

جواب: غیبت صفری کے منقطع ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔

(الف) امام کی نیابت، خصوصاً نیابت خاصہ ایک بلند اور عالی شان

مرتبہ ہے۔ دنیا کے اندھے اور ریاست طلبی کے ماروں نے اس بات کا

بھونٹا دعویٰ بھی کیا ہے جیسا کہ ماضی قریب میں ایسے واقعات پیش

آئے۔ اس لئے نیابت خاصہ کے باب کو بطور مستقل مسدود کر دیا گیا۔

(ب) اس زمانے میں بھی نیابت خاصہ مخفی اور پنهان تھی، معتمدین

خاص کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا لہذا اگر اسی انداز سے نیابت خاصہ

جاری رہتی تو یقیناً بات کھل کر عام ہو جاتی اور نائبین خاص کو خطرہ

لاحق ہو جاتا۔

### غیبت صفری اور غیبت کبریٰ

ہمارے مولا حضرت ممدی مظفر (ارواحنا فداه) کو دو عیبتیں پیش آئیں،

صفری و کبریٰ۔ غیبت صفری آپ کی ولادت سے شروع ہوئی اور نیابت خاصہ کے

منقطع ہونے تک قائم رہی۔ اسکی مدت چوتھریس تھی، اور کبریٰ صفری کے

ختم ہوتے ہی شروع ہو گئی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ باری تعالیٰ آپ کو ظہور اور جہاد بالسیف کا اذن نہ دے۔

علی بن المحسن بن علی المسعودی اپنی کتاب ”اثبات الوصیہ“ میں لکھتے ہیں کہ:

”روایت ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے چند خاص معتمد شیعوں کے علاوہ تمام شیعوں سے گوشہ نشینی اور دوری اختیار کر لی تھی۔ پھر امر امامت جب امام ابو محمد العسكريؑ کے پاس پہنچا تو آپ نے تمام شیعوں سے چاہتے خواص ہوں یا عوام پر دے کے پیچھے سے گفتگو کرنی شروع کر دی تھی۔ اور دارالامارۃ روانگی کے وقت آپ سامنے آتے تھے۔ آپ اور آپ کے والد نے یہ روش اور سیرت، صاحب الزمان کی غیبت کے پیش خیمہ اور تمہید کے طور پر اپنائی تھی۔ تاکہ شیعہ آہستہ آہستہ اس چیز کے عادی ہو جائیں اور غیبت کا انکار نہ کریں۔ نیز امام کی غیبت اور دوری سے آشنا ہو جائیں۔“

جی ہاں! شیعہ اس بات کے عادی ہو چکے تھے کہ اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق جب بھی چاہتے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں شرفیاب ہو جاتے، اگرچہ یہ ملاقات حقیقاً ہی کیوں نہ ہو، یہ روش امیرالمومنینؑ سے لے کر حضرت امام ہادی و عسکری علیہما السلام کے زمانے تک چلتی رہی۔

اب اگر شیعوں کو شرفیابی کی اس نعمت سے یک دم غیبت کے ذریعے محروم کر دیا جاتا تو یقیناً وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے، بلکہ بعض کے تو عقائد میں لغزش آجاتی۔

بنا برائیں، ان دو اماموں (دسویں اور گیارہویں) نے ”مسعودی“ کی نقل کردہ روش کو اپناتے ہوئے شیعوں کو آہستہ آہستہ اس بات کا عادی بنایا تاکہ امام کی نسبت سے مانوس ہو جائیں اور نہ گھبرائیں۔

امام علی نقی اور عسکری علیہما السلام نے اس روش کو اسی عظیم اور مبارک مقصد کے لئے اپنایا مزید برآں، حالات نے بھی آپ دونوں کی مدد کی، کیونکہ آپ دونوں کے زمانے میں خلفاء نے آپ کو نظر بند اور سخت پابندیوں میں جکڑ دیا، جس کے سبب خود بخود ملاقاتوں کا سلسلہ نہایت کم ہو گیا۔ کیونکہ اس صورت حال میں ملاقات کا سلسلہ جاری رہنے سے آپ کے چاہنے والوں خصوصاً شناختہ شدہ اور سربراہ آورہ شیعوں کے لئے خطرہ لاحق ہو جاتا۔

اسکے علاوہ ان دونوں اماموں کی ظاہری شان و شوکت، کثرتِ خدام و غلام، نیز ان کی اپنی شخصیت میں نمایاں عظمت، وقار، ہیبت، و جلالت نے بھی عام تو عام خاص شیعوں کے لئے بھی زیارت کو نہایت ہی خاص مواقع کے لئے میسر اور مخصوص کر دیا تھا۔

گزشتہ ادوار کے برعکس آخری دور میں خلفائے بنو عباس کی سیاسی چالوں میں فرق آگیا اور انہوں نے ائمہ علیہم السلام سے تنظیم و حکم کا برتاؤ شروع کر دیا، اس سیاست کی داغ بیل مامون نے ڈالی تھی۔

امام رضا، امام جواد، امام ہادی، اور امام عسکری کے حالات زندگی پر نظر رکھنے والے شخص کے لئے، خلفاء کا ان اماموں کے ساتھ رویہ واضح ہے۔ ان ائمہ کے ہم عصر خلیفہ نے ان کے لئے رہائش، خدام و حشم، اور دوسری ضروریات زندگی کا بندوبست اپنی اغراض کی خاطر کچھ اس طرح کیا تھا کہ ہر طرح

سے ان کی ظاہری عظمت اور شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے۔ ان میں سے ایک اہم غرض اور مقصد یہ تھا کہ اس طرح ائمہ ان کے درمیان اور قہروں کے سامنے رہیں تاکہ ان کی تمام حرکات و سکنات کی کڑی نگرانی کی جائے۔ خصوصاً امام ہادیؑ اور امام عسکریؑ کے زمانے میں تو نظر بندی اور نگرانی شدت پر تھی۔ جن عوامل کی بنا پر امام ہادیؑ نے امت سے ایک حد تک کنارہ گیری اختیار کی اور یہ کنارہ گیری امام عسکریؑ کے زمانے میں شدت اختیار کر گئی، انہی اسباب و عوامل کے باعث ہمارے مولانا حضرت مہدیؑ کو دو غیبتیں درپیش ہوئیں۔ پہلی غیبت صغریٰ کہ جس میں آپؑ کے نمائندوں و کلاء اور بعض دیگر معتمدین کی آپؑ تک رسائی ممکن تھی۔ یہاں تک کہ جب شیعہ آپؑ سے دوری اور آپؑ کی ذات تک نارسائی سے مانوس ہو گئے تو پھر غیبت کبریٰ شروع ہوئی اور اسی کے ساتھ نیابت خاصہ منتقل اور نیابت عامہ کی ابتداء ہوئی۔ پھر جس طرح شیعہ آپؑ کے آباء اجدادؑ کی خدمت میں شرفاب ہوتے تھے، اس طرح آپؑ کی خدمت تک رسائی کا کوئی راستہ نہ رہا۔

### امام عائب کے فیوضات، کس طرح

وجود امام علیہ السلام سے حاصل شدہ فوائد اس پر مرتب اثرات، فوائد اور نتائج ہم امامیہ اثنا عشری کی نظر میں دو لحاظ سے ہیں۔

(الف) وہ اثرات اور فوائد کہ جو بذات خود آپؑ کے مقدس وجود سے منسلک اور آپؑ کی خلق خدا کے درمیان موجودگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب خواہ آپؑ عائب ہوں یا حاضر، مخفی ہوں یا آشکارا۔

(ب) وہ اثرات اور فوائد جو امام کے نفس نفیس زمام امور کو ہاتھ میں لینے، معاشرے کی قیادت کرنے اور اسکے انتظام و انصرام کو سنبھالنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

نیز یہ بات بھی قارئین کی نظر سے گزری کہ اگر امام کو (امت کی قدر شناسی اور انصار کی قلت کی بنا پر) دشمنوں سے خوف یا کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو تو اس صورت میں امام پر مذکورہ بالا دوسری قسم کے فوائد کو پہنچانے کے لئے قیام کرنا واجب نہیں۔

اور جہاں تک بات پہلی قسم کے فوائد کی ہے، تو وہ آپ کے مقدس وجود کی بنا پر لامحالہ مرتب ہوتے رہیں گے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کی روایت میں موجود یہ تشبیہ کہ امام غائب گویا بادلوں کی اوٹ میں چھپا سورج، ایک خوبصورت اور ظریف ترین تشبیہ ہے۔ یقیناً سورج کے کچھ فوائد اور اثرات ہیں۔ اگرچہ بادلوں کی اوٹ ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ فوائد بہر حال حاصل ہوتے ہیں اور اگر بادلوں کی اوٹ میں نہ ہو، آسمان پر بادل نہ ہوں، چہرہ خورشید آشکار ہو، اس وقت بھی وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وجود مقدس امام علیہ السلام بھی اسی کی مانند ہے۔

ہمارے خیال میں یہ تشبیہ دو پہلوؤں سے دی گئی ہے۔ یعنی امام کے وجود کو دو لحاظ سے سورج کے مشابہ کہا جا سکتا ہے۔

ایک تو یہ کہ سورج سے تمام جاندار حتیٰ بے جان مخلوق اور دیگر موجودات بھی خواہ اس عظیم الحبیب ستارے کا چہرہ بادلوں کی اوٹ میں ہو خواہ نہ ہو، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ سورج کے ظہور اور بادلوں کی اوٹ سے

نکل آنے کے بعد اس کے فوائد اور اثرات بدرجہ اتم حاصل ہوتے ہیں، لیکن پاؤلوں کی اوٹ میں چلے جانے سے ایسا نہیں ہوتا۔ اور فوائد کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

وجود امام کی مثال بھی اسی طرح ہے، یعنی آپ دونوں حالتوں میں سورج کی مانند ہیں۔

یہ تو وہ امور تھے کہ جن پر ہم فرقہ شیعہ امامیہ، امام عصر کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں۔ لیکن اگر (جیسا کہ اہل سنت برادران معتقد ہیں) امام کے وجود سے حاصل شدہ فوائد و اثرات کو صرف امام کی شخصیت کی دوسری قسم میں منحصر کر دیا جائے (یعنی حصہ ب) تو اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ: بعض برادران اہل سنت یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مولا حضرت مهدی منتظر کی غیبت سے مراد آپ کا نامرئی ہونا ہے، لیکن یہ ایک بے بنیاد بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ غیبت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو کوئی شخص مهدی منتظر کے عنوان سے نہیں پہچان سکتا۔ اسی بنا پر بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو تو لوگ کہیں گے کہ ”ہم نے تو ان کو اس سے پہلے بھی دیکھا ہے۔“

یقیناً آپؑ پس پردہ غیبت میں ہیں لیکن پھر بھی مجالس و محافل میں حاضر ہوتے ہیں، سفر و حضر میں لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں نیز ایام حج میں احرام زیب تن کر کے تلبیہ طواف و سعی انجام دینے کے بعد اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور اور اپنے آباؤ اجداد کی قبور مطہرہ کی زیارت کرتے ہوئے اپنے حج کو تمام کرتے ہیں۔

ائمہ علیہم السلام کی خصوصی میں تو آپ کا حضور یقینی ہے۔ پس آپ امت اسلامیہ کے ہمراہ اور اسکے درمیان میں ہیں لیکن پہچانے نہیں جاتے۔

بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ: کون کتنا ہے کہ غیبت کبریٰ کے دوران امام ممدی علیہ السلام تک رسائی ناممکن ہے؟ بہت سی کتب میں ان اشخاص کا ذکر ہے جنہوں نے غیبت کبریٰ کے دوران آپ کی زیارت کی اور خدمت میں شرفیاب ہوئے۔ اور یہ بات ان احادیث سے ہرگز تضاد اور مخالفت نہیں رکھتی جن کے مطابق غیبت کبریٰ کے دوران آپ کی زیارت اور دیدار کے مدعی کی تکذیب کرنی چاہئے۔ کیونکہ اگر اس روایت کے پورے متن کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نیابت خاصہ کے مدعی کی تکذیب کرنی لازم اور واجب ہے، دیدار اور زیارت کے مدعی کی نہیں۔

بلکہ ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ آپ اس معاشرے کے فرد نہ صرف فرد بلکہ اہم اور فعال ترین فرد ہیں، اگرچہ آپ کے لئے لازم اور واجب نہ ہو تب بھی آپ اپنے کردار کو تمام حالات میں بحسن و خوبی ادا کر سکتے ہیں۔

اسکے علاوہ یہ بات بھی آپ کے لئے ممکن ہے کہ آپ 'سلاطین' امراء اور وزراء کو ان تمام راہوں اور طریقوں کی جانب ہدایت کریں جو یک جہتی اور امن و سلامتی کے لئے ضروری ہیں، خواہ یہ لوگ آپ کی جانب سے ہدایت کردہ تجویز کو عملی جامہ پہنائیں یا نہ پہنائیں۔

یہ بھی آپ کے لئے ممکن ہے کہ آپ 'فقہاء' علماء اور ارباب اور فضلا کے ساتھ مجالست کریں اور ان سے علمی مسائل، انہی تعلیمات، اخلاقی اصلاحات اور ادبی مطالب پر مذاکرات کریں اور پھر ان کو ہر مسئلے میں حقیقت حال سے

آگاہ کریں، خواہ یہ لوگ آپ کی بات مانیں یا رو کر دیں۔  
 نیز محدثین، مورخین، علم اسباب اور علم رجال کے ماہرین کے ساتھ بھی  
 آپ بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں اور انکے مربوط علوم میں ان کو صحیح رائے کی طرف  
 ہدایت کر سکتے ہیں۔

اب چاہے یہ لوگ آپ کی تصدیق کریں یا نہ کریں۔  
 مبلغین، ذاکرین، اور واعظین کی بھی ہمراہی کر سکتے ہیں اور ان کو راہ حق  
 دکھلا سکتے ہیں کہ جس پر چلتے ہوئے یہ لوگ اپنے مقصود یعنی اعلائے کلمہ اسلام کر  
 سکیں، خواہ یہ لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔

آپ حاجتمندوں، مجبوروں، گرفتاروں، بیماروں اور دردمندوں کی دست  
 گیری بھی کر سکتے ہیں اور انکی حوائج کو بر آوردہ کرنے، بیماری سے شفا پانے اور  
 درد و مصائب سے نجات حاصل کرنے کا راستہ بتا سکتے ہیں، خواہ وہ اس راستے کو  
 طے کریں یا طے نہ کریں۔

آپ ان تمام امور کو اس طرح انجام دیتے ہیں یا انجام دے سکتے ہیں کہ  
 آپ کی شناخت نہ ہو سکے، حاشا و کلا کہ آپ کسی کو اپنی ذات سے نفع پہچانے میں  
 بخل سے کام لیں۔ پس سوال کرنے والا کیونکر یہ کہہ سکتا ہے کہ: امام غائب  
 کے وجود سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟

نامعلوم کتنے ہی اصولی اور فردی مسائل ہیں جن کا آپ نے حل پیش کیا  
 ہے اور دین و دنیا کی مشکلات سے لوگوں کو نجات دی۔ کتنے ہی مریضوں کو  
 شفا یاب کیا، کتنے ہی پریشان حال لوگوں کو منجہاں سے نکالا، کتنے ہی مایوس لوگوں  
 کی ہدایت کی، کتنے ہی پیاسوں کو سیراب اور درمندانوں کی دہگگیری کی۔



بہت سی کتب اور تالیفات جو مختلف اوقات اور زمانوں میں مختلف شہروں کے ایسے مولفین نے تحریر کیں جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے ان میں لاقعد اور حکایات اور داستانیں موجود ہیں کہ جو ہمارے دعوے کی سچائی کی شہادت دیتی ہیں۔ اور اگر انسان ان حکایات اور واقعات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پرکھے اور موازنہ کرے تو بعض واقعات پر تو سنی صدیقین حاصل ہو جاتا ہے۔

### غیبت میں آپؐ کے وکلاء

حضرت امام مہدیؑ دشمنوں کے اندیشے اور حفظ جان کی خاطر صرف اس مقصد کی خاطر جو خداوند تعالیٰ آپؐ کے ذریعے پورا کرنا چاہتا تھا لوگوں سے کنارہ گیری اور گوشہ نشینی کو اختیار کرتے ہوئے، پس پردہ نیست چلے گئے۔ یہاں تک کہ اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کو بھی اپنی زیارت سے محروم کر دیا۔ جس طرح آپؐ امرالہی کے منتظر ہیں، اسی طرح شیعہ آپؐ کے منتظر ہیں۔

ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ: اگر آپؐ مقدرات الہی اور امر خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم اور راضی برضا نہ ہوتے اور جن ناگوار حالات کا آپؐ نے مشاہدہ کیا یا حال حاضر میں مشاہدہ کر رہے ہیں تو یقیناً غم و اندوہ کے سبب، جان جان آفریں کے سپرد کر دیتے۔ لیکن آپؐ کا تعلق ان اہل بیتؑ سے ہے کہ جنہوں نے کبھی خدا کے حکم پر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کی اور ہمیشہ اسکے حکم کے مطابق عمل کیا اور کتنا پارا جملہ ہے کہ: اللہ کی رضا ہی ہم اہل بیتؑ کی رضا

ہے۔

آپؐ لوگوں کے درمیان نہیں اور ان کی نگاہوں سے اور جمل ہیں لیکن آپ کا قلب طاہر حزن و ملال سے مملو ہے۔ امت مسلمہ خصوصاً شیعوں کے لئے آپؐ نے راہ حق کو واضح کر دیا ہے کہ اگر اس راہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے اسکو طے کریں تو سعادت دنیا و آخرت ان کا حقد رٹھرنے گی۔

”وان لو استنقا مواعلی الطریقہ لاسیقنہم ماء  
عذقا“ (سورہ جن۔ آیت ۴)

”اگر لوگ (سیدھے) راستے پر استقامت اختیار کرتے تو ہم ان کو خوب سارے شیریں پانی سے میراب کرتے۔“

رسول اللہؐ نے ثقلین یعنی کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت علیہم السلام سے تمسک رکھنے کی وصیت کی۔ بس دو چیزیں ہدایت کی کنجی اور نجات کا دروازہ ہیں۔ ہر خیر و فلاح کا راستہ فقط ان سے تمسک کی صورت ہی میں میسر ہے۔

اور یہی قرآن مجید بجز اللہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگرچہ اہل بیتؑ ہمارے درمیان نہیں لیکن ان کی تعلیمات ان تمام لوگوں کو میسر ہیں کہ جو ان سے تمسک رکھنا چاہیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر محترم قارئین اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو پھر کتب احادیث مثلاً قدیم کتب اربعہ اور جدید کتب ثلاثہ کی طرف رجوع کریں۔

اسکے علاوہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ماثورہ اربعہ و ازکار، خصوصاً تبرور آل محمدؑ یعنی صحیفہ سجادیه میں ہم کہ جو صحیح ترین سند کے ساتھ امام زین العابدینؑ سے مروی ہے تمام علوم اور تعلیمات حقہ موجود ہیں۔

اگرچہ آج اہل بیت رسوںؑ تک ہماری رسائی ممکن نہیں لیکن ان کی عطا

کردہ تعلیمات و علوم نیز ان کا اخلاق حسد اور سیرت کریمہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ قرآن مجید کے دامن کو تھامتے ہوئے اہل بیتؑ کی عطا کردہ ان تعلیمات سے بھی تمسک رکھیں۔

یقیناً اہل بیتؑ سے تمسک رکھنے سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ہم ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیں بلکہ اس سے مراد ان کے اقوال و افعال کی اقتداء کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور تمسک کی یہ صورت آج ہر شخص کے لئے ممکن ہے۔ نیز آج کوئی مسلمان بھی یہ کہہ کر اپنی گردن نہیں چھڑا سکتا کہ اہل بیتؑ کے بارہویں امام نظروں سے اوجھل اور پس پردہ نسبت میں ہیں۔ بنا بر این میری ان تک رسائی ممکن نہیں۔

یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی روایات اور احادیث اور اوصیہ کی سند، راویوں کے حالات کی جانچ پڑتال نیز ان کے مضامین و معانی کا باریک بینی سے جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ مزید برآں روایات کی جانچ پڑتال کے دوران عام و خاص، مجمل و مبین اور ایک دوسرے سے متعارض روایات کی فہم بھی ایک اہم امر ہے۔

المختصر یہ کہ علم اصول فقہ میں ذکر شدہ دیگر تمام نکات روایات کا مطالعہ کرتے وقت پیش نظر ہونے چاہئیں۔

ہمارے مولا! حضرت مہدی علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد کی روایات و احادیث ہمارے درمیان رکھ چھوڑی ہیں۔ اسکے علاوہ وہ تمام خطوط اور توثیقات کہ جن کو آپؑ کی جانب سے شرف صدور ملا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ آپؑ نے امت سے اپنی شفقت اور رافت کی بنا پر اپنے چاہئے

والوں کے لئے وکلاء، نائبین اور مختلف راہوں کو معین کیا کہ جن کی طرف نصیبت صفری میں رجوع کرنا واجب قرار پایا۔ نیز نصیبت کبریٰ میں بھی یہی حضرات مورد اعتماد اور ثقہ قرار پائے اور ان ہی کی جانب رجوع کرنا لازم و ضروری قرار دیا۔

نصیبت صفری میں آپؑ کی خدمت میں شرفیاب ہونے والے وکیل اور وہ لوگ کہ جن کے ذریعے آپؑ اپنے خطوط و توقعات روانہ کرتے تھے کہ جن کی وکالت اور نیابت کو خود آپؑ نے نصیبت صریح کے ذریعے بنفس نفیس مقرر کیا چار افراد تھے۔

پہلے وکیل شیخ ابو عمرو عثمان بن سعید العمری تھے۔ آپ کا تقرر سب سے پہلے امام ابو الحسن علی النعمانی علیہ السلام نے فرمایا، اسکے بعد آپ امام ابو محمد عمسریؑ کی وکالت کے عہدے پر فائز ہوئے اور امام زمانہؑ کے حکم سے ان کے نائب خاص قرار پائے۔ امام مہدیؑ سے پوچھے گئے مسائل کے جوابات اور توقعات آپ ہی کے ذریعے صادر ہوتے تھے۔ جب آپ دار فانی کو الوداع کہہ گئے تو آپؑ کی جگہ آپ کے فرزند جناب ابو جعفر محمد بن عثمان نے لے لی اور مذکورہ امور میں آپ کے قائم مقام ٹھہرے۔

آپ کے وصال کے بعد ابو القاسم حسین بن روح جو بنی نبوت سے تھے اس مقام پر فائز ہوئے۔

اور جب آپ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا تو ابو الحسن علی بن محمد العمسری اس مقام کے حق دار ٹھہرے۔

ان تمام وکلاء کو امام زمانہؑ نے بنفس نفیس اپنی نصیبت خاص کے ذریعے مقرر

کیا، اور اسکے ساتھ جانے والا ہر وکیل اپنے بعد مقرر شدہ وکیل کا نام بھی بتلاتا جاتا تھا اور جب تک ان کے دعوے کی سچائی پر دلیل یا ثبوت نہ دیکھ لیتے، شیعوں ان کی بات کو قبول نہ کرتے تھے۔ پھر جب جناب ابوالحسن السمری کا وقت آخر نزدیک آن پہنچا تو آپ سے سوال کیا گیا کہ: اب آپ کس کو مصیبن کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب حضرت مہدی علیہ السلام کی توقع کی صورت میں خود آپ کے خط مبارک میں آیا کہ:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“

اے علی بن محمد السمری! خدا تمہارے غم میں تمہارے بھائیوں کے صبر کے اجر کو زیادہ کرے۔ تم آج سے تین روز کے اندر اندر مرنے والے ہو۔ لہذا اپنے کاموں کو سمیٹ لو اور اپنے بعد کسی کی وصیت نہ کرو کہ وہ تمہارے بعد تمہارا قائم مقام ہے پس غیبت کبریٰ یقیناً شروع ہو چکی ہے اور ظہور، جزا اذن خدا نہ ہو گا۔ اور یہ امر ایک طویل مدت کے بعد واقع ہو گا کہ جب قساوت قلوب بڑھ جائے گی اور زمین جو روحنا سے اٹ جائے گی۔ بہت جلد میرے شیعوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو میری زیارت کا دعویٰ کریں گے۔ پس آگاہ رہو کہ جو بھی خروج سفیانی اور صحیح آسمانی سے پہلے میرے دیدار کا دعویٰ کرے جھوٹا اور بہتان تراش ہے۔ ”ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم“

اسکے علاوہ بھی آپ کے وکلاء اور نمائندے بغداد، کوفہ، اہواز، ہمدان، قم، ری، آذربائیجان، نیشاپور اور دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کی توقعات ان تک جاتی تھیں اور یہ افراد مال امام کو آپ تک پہنچاتے تھے۔

ایسے وکلاء کی تعداد کافی تھی، ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد سو افراد کے لگ بھگ تھی، لیکن ان وکلاء کی خود امام علیہ السلام تک رسائی نہ تھی بلکہ ان کے اور امام کے درمیان، نواب اربعہ میں سے کسی ایک نائب کے ذریعے یہ امور انجام پاتے تھے۔

### غیبت کبریٰ میں آپ کے وکلاء

پہلی غیبت کہ جو غیبت صغریٰ کے نام سے موسوم ہے ۳۳۳ھ میں اختتام پذیر ہوئی اور اس کے ساتھ ہی نیابت خاصہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ پھر دوسری غیبت کہ جو غیبت کبریٰ کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور جس کی مدت کا صرف اور صرف باری تعالیٰ ہی کو علم ہے، شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ان خاص قیود و شرائط کے ہمراہ (کہ جو مربوط کتب میں مفصلاً بیان کی گئی ہیں) نیابت عامہ کا سلسلہ چل نکلا۔

بہتر ہو گا کہ اس سلسلے میں امام ممدی یا ان کے آباء اجداد علیہم السلام و السلام سے مروی روایات کا ذکر کیا جائے۔

کشی نے روایت کی ہے کہ قاسم بن علی کے پاس ایک توقعہ اپنچی کہ جس میں مرقوم تھا:

”ہمارے چاہنے والوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے موثق اور معتدین

۱۰۔ وہ خطوط و مراسلات کہ جن کو حضرت صاحب العصر و الزمان (علیہ السلام و السلام) کی بارگاہ سے شرف صدور ملا ہو۔

کی ہم سے روایت کردہ باتوں میں شک کریں۔ وہ لوگ جان چکے ہیں کہ ہم نے اپنا ”راز“ ان کو سوپ دیا ہے اور اس کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈال دیا ہے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

شیخ، کتاب الغیبۃ میں، شیخ صدوق کمال الدین میں اور طبری احتجاج میں اسحاق بن عمار سے نقل کرتے ہیں کہ: ہمارے مولا حضرت مہدی (ارواحِ نفاذ) نے فرمایا:

”اور جہاں تک حوادث روزگار کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہماری حدیث کے راویوں کا رخ کرو، یقیناً یہ لوگ تم پر میری طرف سے حجت ہیں اور میں خدا کی جانب سے ان پر حجت ہوں۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

جناب طبری نے احتجاج میں حضرت ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں مذکور ہے:

”اور فقہاء میں سے وہ کہ جو اپنے نفس کو بچائیں، اپنے دین کو محفوظ رکھیں، ہوئی وہوس کی مخالفت کریں، اور اپنے مولا کے اطاعت گزار ہوں، تو عوام کو چاہئے کہ ان کی تقلید کریں، اور یہ خصوصیت انگشت شمار فقہائے شیعہ میں موجود ہے، تمام میں نہیں۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسکے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو متعلقہ کتب میں مذکور ہیں۔ غرضیکہ آپ نے امت اسلامیہ خصوصاً شیعوں کو بے یار و مددگار اور بغیر سہارے اور آسرے کے نہیں چھوڑا بلکہ اس سلسلے میں آپ نے وہی راہ اختیار کی جو

آپؐ کے آباؤ اجداد علیہم السلام نے اختیار کی تھی۔ اب تفصیلی کتب کی جانب  
رجوع کرنا ہمارا کام ہے۔





ظہور کی چند غلامت کے بارے میں

---



---

یہ فصل آپ کے ظہور کی چند علامات اور خروج کی نشانیوں ' اس وقت رونما ہونے والے واقعات و حوادث ارضی اور آسمان سے نازل ہونے والی نشانیوں کے بارے میں ہے۔ نیز اس زمانے کے عمومی حالات، قتل نفس، زکیہ، خروج دجال و سفیانی، اور دیگر امور بھی بیان کئے جائیں گے۔

### تمہید

روایات و احادیث میں مذکور وہ واقعات کہ جو آخری زمانے میں رونما ہونگے دو اقسام پر مشتمل ہیں۔

(الف) وہ کہ جو قیامت کے وقت اور اسکے نزدیک ہونے کی نشانیوں کے بارے میں ہیں۔

(ب) وہ واقعات کہ جو آپ کے ظہور سے قبل واقع ہونگے۔

ان دونوں اقسام کو ہمارے ہمت سے شیعہ علماء اور علمائے اہل سنت نے

آپس میں ملا دیا ہے۔ مذکورہ بالا دو سری قسم، یعنی وہ امور کہ جن کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ یہ قائم آل محمدؐ کے قیام اور ظہور سے پہلے واقع ہو گئے۔ دو اقسام پر مشتمل ہیں۔

## پہلی قسم

وہ واقعات کہ جن کے ذکر کا مقصد 'آپؐ کے ظہور اور قیام سے پہلے ان کے رونما ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ لہذا ان واقعات کے رونما ہونے اور ظہور کے واقع نہ ہونے کی صورت میں یہ معنی ہرگز نہیں کہ مذکورہ روایت غلط ہے۔ کیونکہ یہ واقعات روایات میں ظہور اور قیام کی غلامت اور نشانیوں کے طور پر بیان نہیں کئے گئے ہیں بلکہ ان کے ذکر کا مقصد فقط اور فقط ان کے آپؐ کے ظہور سے پہلے رونما ہونے کی جانب اشارہ کرنا ہے۔

## دو سری قسم

جن واقعات کی جانب مذکورہ بالا پہلی قسم میں اشارہ کیا گیا ہے ممکن ہے کہ ان واقعات کے سلسلے میں بداء واقع ہو جائے۔ البتہ بداء کے وہ صحیح معنی جس کے ہم شیعہ قائل ہیں۔ تو اس صورت میں واقعات کا رونما نہ ہونا یا روایات کے مطابق رونما نہ ہونا اس روایت کے غلط ہونے کی دلیل نہیں۔

بعض روایات مذکورہ بالا دونوں اقسام کی شہادت دیتی ہیں۔ بنا برائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تمام واقعات کا تعین کیا جائے اور پھر طے کیا جائے کہ آیا یہ واقعہ پہلی قسم سے ہے یا دو سری قسم سے۔ پھر دو سری قسم

کی روایات کے رجال، اسکی سند اور راویوں کی جانچ پڑتال کی جائے نیز ان امور کا بھی بغور معائنہ کیا جائے جو روایت کی تائید یا تردید کرتے ہیں۔

### متعلقہ روایات کا مختصر خاکہ

اس موضوع میں علماء کی مروی روایات کو پیش نظر رکھنے والا محقق یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ان میں صحیح، ضعیف، اور مرسل سب ہی روایات شامل ہیں۔ بلکہ بعض روایات تو ایسی ہیں کہ تاریخ اور مسلم الثبوت امور ان کے بطلان کی گواہی دیتے ہیں۔

اس باب میں ہم نے انہی روایات کا انتخاب کیا ہے جو سند کے لحاظ سے صحیح، موثوق یا حسن تھیں اور اگر غیر معتبر روایات کے مضامین کو قرآن و شواہد کے مطابق پایا تو انہیں نقل کیا ہے ورنہ ترک کر دیا ہے۔

اسی طرح ان چیزوں کو بھی نقل کیا ہے کہ جو روایات یا فکر انسانی کی روتے امکان پذیر ہیں یا کم از کم عقل مستقل اور مسلم الثبوت امور انکے محال یا خارج از امکان ہونے پر دلالت نہیں کرتے۔

ہاں بعض معتبر روایات کچھ ایسے واقعات کی نشاندہی کرتی ہیں جو فوق العادہ اور غیر معمولی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ان واقعات اور روایات کی سند صحیح ہونے کی صورت میں رد کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ یہ روایات ایسے امور کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جو ماوراء طبیعت سے تعلق رکھتے ہیں دوسرے لفظوں میں ان واقعات کو معجزہ یا کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یقیناً خدا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

## ندائے آسمانی کاشانی دینا

عقد الدرر میں حضرت ابو عبد اللہ الحسین بن علی علیہما السلام سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا: جب تم مشرق کی سمت تین یا سات روز تک آگ کا مشاہدہ کرو تو پھر انشاء اللہ فرج آل محمد علیہم السلام کی توقع رکھو۔

پھر فرمایا کہ: پھر آسمان سے ایک منادی مہدیؑ کے نام کی ندا دے گا، جس کو اہل مشرق و مغرب سب سنیں گے۔ یہاں تک کہ ہر خوابیدہ شخص جاگ اٹھے گا، اور بیدار شخص اٹھ کر بیٹھ جائے گا، اور ہر بیٹھا ہوا شخص گھبرا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ خدا کی رحمت ہو ان لوگوں پر جو اس نداء کو سنیں اور جواب دیں کیونکہ یہ نداء جبرائیل روح الامین کی ندا ہے۔

بیابح المودۃ میں کتاب الدر المنظم سے نقل ہے کہ:

”اور خروج امام مہدیؑ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک منادی کی ندا ہے جو پکار رہا ہو گا کہ جان لو! صاحب الزمان ظاہر ہو چکا ہے۔ پس ہر سوتا ہوا شخص کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہوا شخص بیٹھ جائے گا۔“ اور پھر مذکورہ حدیث کو نقل کیا ہے۔

## آسمانی نشانیاں

عقد الدرر باب چہارم فصل سوم صفحہ ۶۵ میں حافظ ابو بکر ابن ہمام سے اور وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: مہدی علیہ السلام اس وقت تک خروج نہ کریں گے جب تک کہ طلوع آفتاب کے ساتھ ایک نشانی طلوع نہ

ہو جائے۔

ایضا عقد الدرر میں حافظ نعیم بن حماد سے اور وہ بشر بن حفصی سے نقل کرتے ہیں کہ: حوادث کے شروع ہونے کی نشانی 'رمضان میں آسمان پر ایک علامت کا نمودار ہونا ہے کہ جسکے بعد لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی' جب تم اس چیز کا مشاہدہ کرو تو جس قدر اشیائے خورد و نوش جمع کر سکتے ہو، کر لو۔

ایضا اسی کتاب میں حافظ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے اور وہ کعب الاحبار سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ: خروج مہدیؑ سے قبل آسمان سے ایک دمدار ستارہ مشرق کی سمت سے طلوع ہو گا کہ جس کی دم سے روشنی پھوٹ رہی ہو گی۔

### سورج اور چاند گمن

عقد الدرر صفحہ ۶۳ میں حافظ عبد اللہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے اور وہ یزید بن الحکلیل الاسدی سے نقل کرتے ہیں کہ: میں جناب ابو جعفر محمد بن علی علیہما السلام کی خدمت میں تھا کہ انہوں نے (حضرت) مہدی کے ظہور سے پہلے دو نشانیوں کا ذکر کیا کہ جو باری تعالیٰ کے حضرت آدم کو زمین پر ہبوط کرنے سے لے کر ابھی تک واقع نہیں ہوئیں۔ ایک تو یہ تھی کہ سورج کو نیمہ ماہ میں گمن لگنے کا اور چاند کو آخر ماہ رمضان میں۔ یہاں پہنچ کر اچانک ایک شخص درمیان میں بول پڑا کہ: یا بن رسول اللہؐ ایسا نہیں ہے بلکہ سورج کا آخر ماہ رمضان میں اور چاند کو نیمہ ماہ رمضان میں گمن لگے گا۔

آپ (جعفر صادق علیہ السلام) نے جواب دیا: یہ بات کہنے والا زیادہ بھتر

جاتا ہے کہ یہ دو نشانیاں آدم کے جبوط سے اب تک۔۔۔۔۔ (حدیث جاری ہے)

نیز اس عاف الراغبین میں بھی ایسی ہی حدیث نقل ہوئی ہے۔

### لوگوں میں عداوت اور منافقت

عقد الدرر باب چہارم فصل اول میں حضرت ابو عبد اللہ اسمعین بن علی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: وہ امر کہ جس کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو یعنی ظہور ممدی، اس وقت تک نہ ہو گا جب تک کہ تم لوگ ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار نہ کرنے لگو کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں کے خلاف گواہیاں دیتے پھریں گے، اور چند لوگ بعض دوسرے لوگوں کو لعن طعن کریں گے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا: آیا ان تمام باتوں میں بہتری و خیر ہے؟ جو اب میں فرمایا: تمام کی تمام میں خیر و بہتری ہے، کیونکہ جب ممدی خروج کرے گا تو ان تمام باتوں کو ختم کر دے گا۔

ینایع المودۃ میں حافظ ابو نعیم کی کتاب اربعین سے اور اس میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ: میں (علیؑ) نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ممدی ہم آل محمد سے ہے یا ہمارے علاوہ کسی اور خاندان سے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! ہم ہی سے ہے۔ دین اسی کے ہاتھوں اختتام پذیر ہو گا، جس طرح ہمارے ہاتھوں شروع ہوا۔ اسی کے ذریعے لوگ فتنہ و نساد سے اس طرح نجات پائیں گے جس طرح انہوں نے ہمارے ذریعے شرک سے نجات پائی۔ جس طرح شرک کی بنا پر عداوت و دشمنی کے بعد ہماری بدولت خدا نے ان

کے دلوں میں محبت و الفت بھردی، اسی طرح مہدی کے وسیلے سے خدا ان کے دلوں میں فتنہ و فساد کے سبب پیدا ہونے والی عداوت کو الفت و محبت میں بدل دے گا۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف الراغبین صفحہ ۳۸ میں ذکر ہے کہ احمد اور ماوردی نے رسول اللہؐ سے ایک حدیث کو نقل کیا ہے جس میں آپؐ نے فرمایا:

”بشارت ہو تم لوگوں کو مہدنی کی جو قریش سے تعلق رکھتا ہے اور میری عنترت میں سے بھی ہے، جو لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے اور قدم ڈگمگانے کے وقت خروج کرے گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

## ظلم و ستم

ابن حجر اپنی کتاب صواعق میں ابو القاسم طبرانی سے رسول اللہؐ کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپؐ نے فرمایا: میرے بعد میرے خلفاء ہونگے اور ان کے بعد امراء اور امراء کے بعد بادشاہ و سلاطین، اور سلاطین کے بعد جاہل (سکمران) اور پھر ان کے بعد میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خروج کرے گا کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھردے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف الراغبین صفحہ ۱۳۶ میں حاکم سے بھی ایسی ہی حدیث روایت کی گئی ہے۔



## نفسا نفسی کا دور دورہ

عقد الدرر باب نہم، فصل سوم میں حافظ ابو نعیم کی کتاب صفحہ المہدی سے اور وہ اس میں علی بن ہلال سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ : میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس کے آخر میں نقل کیا ہے کہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : اے فاطمہ! اہم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ اس امت کا مہدی ان دونوں (یعنی حسن و حسین) کی نسل سے ہے۔ جب دنیا میں نفسا نفسی کا دور دورہ ہو گا، فتنے سر اٹھا چکے ہونگے، امید کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہونگی اور لوگ ایک دوسرے سے لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہونگے، نہ بڑے چھوٹوں پر رحم کریں گے اور نہ چھوٹے بڑوں کا ادب۔ اس موقع پر خدا اس کو ظاہر کرے گا جو گمراہی کے قلعوں کو منہدم اور مہر لگے دلوں کو مسخر کرے گا۔ اس کام کا بیڑا وہ آخری زمانے میں اس طرح اٹھائے گا جس طرح میں نے اگلے زمانے میں اٹھایا تھا۔ اور دنیا کو عدل سے اس طرح بھردے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔

## قتل اور موت

عقد الدرر صفحہ ۶۵ باب چہارم فصل اول میں علی بن محمد الازدی سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے جد سے اور وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا : مہدی کے سامنے سرخ موت

اور سفید موت واقع ہوگی۔ اور اس کے سامنے خون کے رنگ کی مانند سرخ ندی  
دل دقت بے وقت حملہ کریں گی۔

جہاں تک سوال ہے سرخ موت کا تو وہ شمشیر ہے اور سفید موت تو وہ طاعون  
ہے۔

ایضاً اسی کتاب میں امام ابو عمرو عثمان بن سعید المقری کی کتاب سنن سے اور  
حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے اور اس میں امیر المومنین علی  
بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ممدی اس وقت تک  
خروج نہ کرے گا جب تک کہ تین قتل نہ ہو جائیں تین اموات نہ ہو جائیں اور  
تین باقی نہ بچ جائیں۔

### آفت اور نعمت

بیانج المودة میں مشکوٰۃ المصابیح سے اور حاکم نے مستدرک میں درج ذیل  
حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ: یہ حدیث صحیح ہے اور ابو سعید خدری سے  
نقل کیا ہے کہ: رسول اللہؐ نے اس امت پر نازل ہونے والی ایسی آفات کا ذکر  
کیا کہ جن میں گھرنے کے بعد کوئی شخص جائے پناہ نہ پائے گا کہ جس میں چھپ کر  
اسکو ظلم سے نجات مل جائے۔ پھر خداوند تعالیٰ میری عزت اور اہل بیت سے  
ایک ایسے شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے  
گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

عقد الدرر صفحہ ۶۳ باب چہارم فصل اول میں ابو جعفر محمد بن علی علیہما السلام  
سے نقل ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”ممدی اس وقت تک ظاہر نہ ہو گا جب تک

کہ لوگوں کے درمیان شدید خوف و ہراس نہ پھیل جائے، لوگ ڈرتلوں اور فتنوں کی آفت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ عربوں کے درمیان طاعون اور ایک ہمشیر برندہ نمودار نہ ہو جائے، لوگوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے اور ان کا دین ایتری کا شکار نہ ہو جائے، اور ان کی حالت دگرگوں نہ ہو جائے، یہاں تک کہ تمنا کرنے والا ہر شخص، صبح و شام موت کی تمنا کرے گا۔۔۔ یہاں تک کہ آخر میں فرمایا:

”اس ناامیدی اور یاس کے دور میں اس کا خروج ہو گا، خوش نصیب کہ جو لوگ اس کو پالیں اور اسکے انصار و اعموان میں سے ہوں۔ اور بد بختی ہے سراسر بد بختی اسکے لئے کہ جو اسکی مخالفت اور حکم کی سر تابی کرے۔

ایضا اسی فصل میں جناب ابوسعید خدری سے منقول ہے کہ: رسول اللہؐ نے فرمایا: میرے بعد ایسے فتنے سر اٹھائیں گے جن سے گلو خلاصی میسر نہ ہو گی، ان میں گھسان کارن پڑے گا اور جس کا رخ جس طرف ہو گا وہیں بھاگ جائے گا، اور پھر ان فتنوں سے شدید فتنے سر اٹھائیں گے، جیسے ہی پچھلے ختم ہو گئے، نئے فتنے اپنا سر اٹھالیں گے، یہاں تک کہ عرب کا کوئی گھرایا نہ ہو گا جس میں فتنے نہ پہنچیں اور کوئی مسلمان ایسا نہ ہو گا جس پر ان فتنوں کی الفتا نہ پڑے۔ یہاں تک کہ میری عمرت میں سے ایک شخص خروج کرے۔

حافظ ابو محمد حسین اپنی کتاب المصابیح جلد ۲ صفحہ ۱۸۸ میں، اور حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن لودہ ۱۰ میں انہی معانی کی حامل روایات کا ذکر کیا ہے۔

اسکے علاوہ صحیح بخاری سے بھی اسکی شہادت ملتی ہے۔

ابن حجر صواعق میں، ابو عبد اللہ حاکم کی کتاب ”صحیح“ سے اور وہ رسول اللہؐ

سے نقل کرتے ہیں کہ: آخری زمانے میں میری امت پر شدید آفات کا نزول ہوگا کہ ان سے شدید آفات کبھی سنی بھی نہ گئی ہوگی، یہاں تک کہ کوئی شخص بھی اپنے لئے جائے پناہ نہ پاسے گا، تو خداوند تعالیٰ میری عزت اور اہل بیت سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

### سید خراسانی

مقدالدر باب پنجم صفحہ ۱۲۶ میں حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد سے اور وہ سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: مشرق سے بنی عباس کی حمایت میں کچھ لوگ انھیں گے اور پھر وہی ہو گا جو خدا چاہے گا، پھر چھوٹے چھوٹے سیاہ پرچم نمودار ہونگے، اور آل ابی سفیان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے جنگ کریں گے کہ جس نے مہدی کی اطاعت سے انکار کر دیا ہو گا۔

ایضاً مذکورہ باب میں حافظ ابو عبد اللہ نعیم سے انکی کتاب الفتن لوحہ ۹۸ تا ۹۹ اور اس میں محمد بن حنفیہ سے نقل کرتے ہیں کہ: خراسان کی سرزمین سے ایک پرچم نمودار ہو گا۔ اگلے لباس سفید ہونگے اور آگے آگے بنی حمیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص چل رہا ہو گا، اس کو حمیم بن صالح کہہ کر پکارا جاتا ہو گا۔ پھر کہا کہ: اس موقع پر لوگ مہدی کے ظہور کی آرزو کریں گے اور اسی کو چاہیں گے۔

ایضاً مذکورہ باب میں حافظ ابو نعیم سے اور وہ شرح بن عبید راشد بن سعد اور حمزہ بن حبیب سے اور یہ افراد اپنے اساتذہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: اہل مشرق بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت

کریں گے، پھر کماکے اگر فلک بوس پہاڑ بھی ان کی راہ میں حائل ہوں تو یہ ان کو  
تس نس کر دیں گے۔ پھر ان لوگوں کا سفیانی کے لشکر سے آمناسامنا ہوگا، جس  
میں سفیانی کا لشکر ان لوگوں کو شکست دے گا، اور بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا۔  
پھر ایک کے بعد دوسرے شہر سے سفیانی ان کو شکست دے کر بھاگا تا رہے گا یہاں  
تک کہ عراق تک پہنچ جائیگے۔ پھر ان کے اور سفیانی کے درمیان مہمان کارن  
پڑے گا جس میں میدان سفیانی کے ہاتھ رہے گا، بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والا یہ  
فخص مکہ مکرمہ کی جانب فرار کرے گا اور شعیب بن صالح (ہاشمی لشکر کا ایک  
سرदार) چھپ چھپا کر بیت المقدس کی سمت نکل جائے گا، اور جب مدی ظہور  
کریں گے تو ہاشمی بھی خارج ہوگا۔

## نفس زکیہ کا قتل

عقد الدرر باب چہارم صفحہ ۶۶ فصل اول میں حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد کی  
کتاب الفتن لود ۹۳ سے اور وہ عمار بن یاسر سے نقل کرتے ہیں کہ : جب  
نفس زکیہ قتل کیا جائے گا تو اس وقت منادی آسمان سے ندا دے گا کہ 'جان لوا  
تمہارا امیرونی ہے (یعنی مدی) کہ جو زمین کو حق و عدل سے بھر دے گا۔

ایضا عقد الدرر صفحہ ۶۶ کی مذکورہ فصل ہی میں حافظ نعیم بن حماد کی کتاب  
الفتن لود ۸۸ تا ۸۹ سے اور کعب الاحبار وہ امور نقل کرتے ہیں کہ جو ظہور  
حضرت مدی سے پہلے واقع ہوں گے۔ کعب الاحبار کا کہنا ہے کہ: دیکھنے کو مباح  
اور نفس زکیہ کو قتل کر دیا جائے گا۔

ایضا باب چہارم صفحہ ۱۱۱ فصل سوم میں ابو عبد اللہ الحسن بن علی طلیحما

السلام سے منقول ہے کہ مدی کے تصور کی پانچ علامتیں ہیں۔ سفیانی، یمنی، صیو  
آسمانی، بیداء کی زمین کا دھنس جانا اور قتل نفس زکیہ۔

### دجال کا خروج

عقد الدرر صفحہ ۱۳۱ کے باب پنجم میں بخاری و مسلم سے اور یہ دونوں معاذ بن  
جبل سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: میری امت کے کچھ لوگ جن کی  
خاطر قتال کرتے رہیں گے اور اپنے سامنے آنے والے ہر شخص پر غلبہ حاصل کر  
لیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے آخری شخص تک دجال سے قتال کرے گا۔  
ایک اور روایت میں ”کچھ لوگ“ کے بجائے ”میری امت کے کچھ عمائدین  
یا سربراہ اور وہ افراد“ ہے۔

عقد الدرر کے باب نهم فصل سوم میں درج ذیل حدیث کے بارے میں  
ابو عبد اللہ حاکم کی کتاب مستدرک سے یہ بات نقل ہے کہ: یہ حدیث امام مسلم  
کی شرائط کے لحاظ سے صحیح اور معتبر ہے لیکن تب بھی امام مسلم نے اس حدیث کو  
نقل نہیں کیا ہے۔

یہ حدیث جاہر بن سمرہ سے اور وہ نافع بن عتبہ سے نقل کرتے ہیں کہ نافع  
نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم لوگ  
جزیرہ نمائے عرب سے قتال کرو گے۔ خدا تمہیں اسکی فتح نصیب کرے گا، پھر فارس  
سے قتال کرو گے۔ خدا تمہیں اسکی فتح نصیب کرے گا، پھر تم لوگ دجال سے قتال  
کرو گے۔ (حدیث ملاحظہ کریں) (المستدرک ج ۳۔ ص ۴۲۶)

ایضا بارہویں باب صفحہ ۲۵۶ کی دوسری فصل میں ابو العباس احمد بن یحییٰ بن

تغلب سے نقل ہے کہ دجال کو اس لئے دجال کہا گیا ہے کیونکہ یہ مکرو فریب سے کام لیتا ہے اور حقائق کو برعکس دکھاتا ہے۔ کیونکہ عرب جب تمکواری کو مہل دینے کے بعد چمکالیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ: ”دجلت السیف“ یعنی میں نے اپنی تمکواری کو خوب چمکالیا ہے۔ اور اسی طرح اونٹوں کے بدن پر جلدی بیماری سے بچاؤ کے لئے جب ایک مخصوص تیل ملتا ہے تو کہتے ہیں: ”دجلت البعیر“ میں نے اونٹ کو خوب چمکالیا ہے۔

ایضا اسی فصل اور اسی باب میں بخاری سے اور وہ انس بن مالک سے رسول اللہ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”کوئی نبی ایسا نہیں گذرا کہ جس کی امت کو کذاب اور اعمور دجال نے خوفزدہ نہ کیا ہو۔“

ابن حجر نے صواعق میں ابوالحسن امیری کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ ”حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایات اپنے راویوں کی کثرت کی بنا پر استفاضہ بلکہ تواتر کی حدود کو پہنچ گئی ہیں، جن میں آپ نے ہمدی کے خروج، ان کے اہل بیت سے تعلق، سات برس تک حکومت کرنے، نیز زمین کو عدل سے بھرنے، حضرت عیسیٰ کے ہمراہ خروج کرنے اور ان کی دجال کے قتل میں مدد کرنے کا ذکر ہے۔۔۔۔۔“ (روایت جاری ہے)

### سفیانی کا خروج

عقد الدرر کے باب چہارم فصل دوم صفحہ ۶۷ میں عبد اللہ بن صفوان سے روایت نقل ہے کہ مجھے جناب حنفی نے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ : ”یقیناً یہ بیت (بیت اللہ الحرام) اس فوج سے محفوظ رہے گا جو اس پر چڑھائی کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ لشکر سرزمین بیداع پر پہنچے گا تو اس کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا اور پھر آگے والے پیچھے والوں کو پکاریں گے، پھر تمام کا تمام لشکر دھنس جائے گا اور ان کی اطلاع لانے والے شخص کے علاوہ کوئی نہ پہنچے گا۔“

پھر صفوان سے ایک شخص نے کہا : میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے حصہ پر جھوٹ نہیں باندھا اور گواہی دیتا ہوں کہ منہ نے نبیؐ پر جھوٹ نہیں باندھا۔  
امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

ایسا اسی فصل میں صفحہ ۶۸ امام مسلم کی کتاب صحیح میں عبید اللہ بن جبلیہ سے روایت نقل ہے کہ : میں حرث بن ابی ربیعہ اور عبد اللہ بن صفوان کے ہمراہ ”عبد اللہ بن زبیر کے زمانے میں“ ام المؤمنین ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان دونوں نے زمین میں دھنس جانے والے لشکر کے بارے میں پوچھا : آپؐ نے فرمایا : رسول اللہؐ نے فرمایا : ایک شخص بیت اللہ الحرام میں پناہ لے گا، پھر اس (کو ختم کرنے) کے لئے ایک لشکر بھیجا جائے گا جب وہ لشکر سر زمین بیداع پر پہنچے گا تو زمین میں دھنس جائے گا۔

میں نے رسول اللہؐ سے پوچھا : یا رسول اللہؐ! اسکے بارے میں آپؐ کیا فرماتے ہیں کہ جس کو زبردستی لشکر میں شامل کیا گیا ہو؟  
آنحضرتؐ نے فرمایا : ”وہ بھی لشکر کے ساتھ زمین میں دفن ہو جائے گا، لیکن خدا روز قیامت اسکو اسکی نیت کے مطابق محشور کرے گا۔“

حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہما السلام سے مروی ہے کہ یہ سرزمین بیداع



مدینہ ہے۔

عقد الدرر کے باب چہارم صفحہ ۱۰۶ فصل سوم میں حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن لوحہ ۹۳ سے اور اس میں زہری سے نقل ہے کہ : جب سفیانی اور مسدیٰ، قتال کے لئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے تو اس دن لوگ آسمان سے ایک آواز سنیں گے کہ : جان لو اولیاء اللہ اس شخص (مسدیٰ) کے اصحاب میں سے ہیں۔

عقد الدرر باب چہارم فصل دوم میں حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد (الفتن لوحہ ۷۵) سے اور وہ خالد بن سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ : سفیانی جب خروج کرے گا، تو اس کے ہاتھ میں تین عدد بانس ہونگے، ان سے جس کو بھی مارے گا وہ مر جائے گا۔

عقد الدرر باب چہارم صفحہ ۱۰۷ فصل دوم میں حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے اور حافظ ابو عبد اللہ اپنی کتاب مستدرک میں مستدرجہ بالا حدیث کے بارے میں راقم ہیں کہ : یہ حدیث صحیح السنہ ہے، لیکن تب بھی بخاری اور مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔

اس حدیث کو مستدرک میں حلقہ سے اور انہوں نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ : ”خبرو اراہم تمہیں اپنے بعد واقع ہونے والے سات فتنوں سے دور رہنے کی ناکید کرتا ہوں۔ ایک فتنہ مدینہ سے سر اٹھائے گا۔ ایک مکہ سے۔ ایک یمن سے۔ ایک شام سے۔ ایک مشرق سے۔ ایک مغرب سے اور ایک فتنہ شام کے بچوں سے اور یہ فتنہ سفیانی ہوگا۔“







## الفصول المصممة:

صاحب کتاب بارہویں فصل میں رقم طراز ہیں کہ : ظہور حضرت مہدی کی بہت سی علامات اور نشانات احادیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو آپ کے ظہور سے پہلے اور کچھ بعد میں واقع ہوں گی۔ ان میں چند علامات اور نشانیوں درج ذیل ہیں :

سفیانی کا خروج، سید حسنی کا قتل، بنی عباس کا سلطنت پر جھگڑا، معمول کے برخلاف اور ماہرین فلکیات کے حساب کے برعکس سورج کا نندہ شعبان اور چاند کا شعبان میں گمن گننا، جبکہ چاند گمن فقط تیرہویں، چودھویں یا پندرہویں کی شب کو ہوتا ہے اور اس وقت واقع ہوتا ہے جب آفتاب و متاب ایک مخصوص انداز سے ایک دوسرے کے مقابل آجائیں، نیز سورج گرہن ستائیسویں، اٹھائیسویں یا اسیسویں تاریخ کو ہوتا ہے اور یہ اس وقت واقع ہوتا ہے جب آفتاب و متاب ایک مخصوص انداز سے ایک دوسرے کے مقابل آجائیں۔ اسکے علاوہ مغرب سے طلوع آفتاب، نفس زکیہ کا قتل، جو ستر سالین اور عبادت گزار بندوں سے ہوں گے، رکن و مقام کے درمیان مرد ہاشمی کا ذبح ہونا، مسجد کوفہ کی دیوار کا متہدم ہونا، خراسان کی جانب سے سیاہ پرچموں کا نمودار ہونا، یمانی کا خروج، مصر میں اندلس کے ایک شخص کا ظہور کرنا اور اس کا شام، لبنان، فلسطین اور اردن کو قبضے میں لینا، ترکوں کا الجزائر پر اثرنا، روسیوں کا رملہ کی جانب آنا، چاند کی مانند چمکدار ستارے کا مشرق میں طلوع ہونا، اور پھر اس کا قوس کی شکل میں آجانا، یہاں تک کہ اس کے دونوں کنارے ملتے ہوئے دکھائی دیں۔

ایک سرخی کا آسمان میں نمودار ہونا اور پھر چار سو پھیل جانا، مشرق کے طول میں ایک آگ کا نمودار ہونا اور تین یا سات دن تک فضا میں برقرار رہنا، عربوں کا حکومتی نظام درہم برہم ہونا اور ان کا دیگر شہروں پر قبضہ کرنا اور اپنے عجمی آقاؤں کی سلطنت اور تسلط سے نجات حاصل کرنا، اہل مصر کا اپنے حکمران کو قتل کرنا، شام کا تباہ ہونا، اور پھر تین پرچموں کا گردش میں آنا، قیس اور عربوں کے پرچم کا مصر میں اور کندہ کے پرچموں کا خراسان میں داخل ہونا، عربوں سے سواروں کا آنا یہاں تک کہ وہ ”حسیرہ“ (عراق کا ایک مقام) کے ابتدائی حصے میں پہنچ جائیں، مشرق اور اسکے اطراف سے سیاہ پرچموں کا نمودار ہونا، دریائے فرات میں شگاف پڑنا اور اسکے پانی کا کونے کے ٹکڑے کوچوں میں داخل ہونا، ساٹھ مدعیان نبوت کا تصور کرنا، آل ابی طالب سے بارہ افراد کا خروج اور ان کا دعوائے امامت کرنا، شیعان بنی عباس کے ایک صاحب حیثیت شخص کا بغداد میں محلہ کرخ کے پل کے قریب غرق ہو جانا، سورج طلوع ہونے کے ابتدائی اوقات میں شہر بغداد میں سیاہ آندہ کا چلنا، بغداد میں زلزلے کے سبب بہت سے لوگوں کا دھنس جانا، اہل عراق میں خوف و ہراس کی لہر کا دوڑ جانا، اموات کی کثرت کا پھیل جانا، جان و مال و ثمرات کا تباہ ہونا، لوگوں کی کاشت کی ہوئی اشیاء کا فائدہ گھٹ جانا، غمیوں کے درمیان اختلافات اور خون ریزی، غلاموں کا آقاؤں کی اطاعت سے انکار اور انکو موت کے گھاٹ اتارنا، وقت بے وقت میزبوں کا نمودار ہونا، اسکے بعد یہ تمام چیزیں چوبیس متواتر بارشوں کے بعد ختم ہو جائیں گی، اور پھر زمین اپنی دیرانی اور خشک سالی کے بعد ہری بھری ہو کر اپنی برکتوں کو آشکار کر دے گی، اور حضرت مہدیؑ کے پیروکاروں یعنی حق کے اطاعت گزاروں سے ہر بلا و آفت دور ہو جائے

گئی، یہی وہ موقع ہو گا کہ جب آپؐ کے چاہنے والے نیکے میں آپؐ کے ظہور سے مطلع ہو جائیں گے اور آپؐ کی نصرت کے لئے مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے۔ یہ وہ تمام امور تھے کہ جو روایات میں مذکور ہیں۔

ان واقعات اور علاقوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا واقع ہونا قطعی اور یقینی ہے اور بعض کا واقع ہونا چند دوسرے واقعات کے واقع ہونے سے مربوط و مشروط ہے۔ اور تمام واقعات و نشانیوں کے رونما ہونے کے بارے میں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نے تو یہاں وہی بات نقل کی ہے جو قواعد کے مطابق ثابت شدہ اور منقولہ روایت کے مطابق معتبر ہے۔

علی بن یزید ازدی سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے جد سے نقل کرتے ہیں کہ: امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: قائم آل محمدؐ کے سامنے سرخ موت اور سفید موت کا سلسلہ شروع ہو گا اور موسم بے موسم خون کے رنگ کی مانند مذہبی دل کا حملہ ہو گا۔ اور سرخ موت کا جہاں تک سوال ہے تو وہ شمشیر ہے، اور سفید موت طاعون۔

اور جابر جعفی سے اور وہ امام ابو جعفر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابو جعفرؑ نے مجھ سے فرمایا: کہ بے حس و حرکت ہو کر ایک جگہ تک کر بیٹھ جاؤ، اور وہ علامات جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، جب تک نہ دیکھ لو، اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہلنا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ علامات تمہارے سامنے واقع ہوں گی۔ ایک تو بنی عباس کے درمیان پھوٹ پڑنا، آسمان سے منادی کی ندا، سرزمین شام میں "جاسیہ" کے نام سے موسم ایک قریے کا زمین میں دھنس جانا، الجزائر میں ترکوں کا آنا، اہل روم کا رملہ میں اترنا، اس موقع پر تمام ممالک میں اختلافات

کا پھوٹ پڑنا، یہاں تک کہ شام میں تین پرچموں کے اجتماع کی بنا پر شام کا تباہ ہونا۔

اب رہی بات یہ کہ قائم علیہ السلام کا قیام کس برس اور ظہور کس دن ہوگا تو اس سلسلے میں چند روایات مروی ہیں۔

ابو بصیر، حضرت ابو عبد اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ: قائم ظہور نہ کریگا، بجز طاق برسوں کے۔ یعنی ایک، تین، پانچ، سات، یا نو (کا عدد اس برس کے آخر میں ہو)

ایضا ابو بصیر حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ: منادی ماہ رمضان کی تیسویں شب کو حضرت قائم کے نام کی ندا دے گا۔ اور آپ عاشور کے روز قیام کریں گے۔ اور یہ وہی دن ہے کہ جب امام حسینؑ کو قتل کیا گیا۔ اور گویا کہ میں شنبہ کے دن محرم کی دسویں کو، رکن و مقام کے درمیان اس کے ہمراہ کھڑا ہوں۔ اور ایک شخص اس کے نزدیک کھڑا پکار رہا ہے کہ: بیعت کرو بیعت کرو، یہ سن کر اس کے انصار اعدان دنیا کے اطراف و آکناف سے اس کے پاس بیعت کے لئے آئیں گے اور دنیا کے فاصلے ان کے لئے سمنداریے جائیں گے اور پھرباری تعالیٰ زمین کو اس طرح اسکے ذریعے عدل سے بھروے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ بعد ازاں وہ کئے سے کوفے کی جانب روانہ ہوگا اور ایک بلند مقام کو اپنی اقامت گاہ بنائے گا، یہاں سے تمام لشکر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے مختلف شہروں کو روانہ ہو جائیں گے۔

عبدالکریم جشمی سے نقل ہے کہ: میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ: قائم کی حکومت کتنی مدت رہے گی؟ فرمایا: سات برس، اور ان



برسوں کے ایام اسقدر طویل ہونگے کہ ہر سال تمہارے دس سالوں کے برابر ہو گا۔ اور اسطرح یہ سات برس تمہارے ستر برس کے مساوی ہونگے۔

جناب ابو جعفرؑ سے ایک طویل حدیث کے ضمن میں منقول ہے کہ : جب قائم قیام کرے گا تو کوفے کا رخ کرے گا اور وہاں کی مساجد کو توسیع دے گا، غلی کو چوں میں حائل تمام چوترے اور منڈیریں توڑ ڈالے گا، پر نالے اور راستے میں حائل دیواریں ختم کر دے گا۔ جس بدعت کو دیکھے گا مٹا دے گا اور ہر سنت کا احیاء کرے گا۔ قسطنطنیہ، چین، اور ولیم کی پھاڑیوں تک کو فتح کرے گا، پھر سات برس تک حکومت کرے گا اور ہر برس کی مقدار تمہارے دس برسوں کے مساوی ہوگی۔

امام ابو جعفر علیہ السلام سے بھی ایسی ہی حدیث نقل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ : ”رعب و بیت کے سائے میں ہمارے قائم کو نصرت نصیب ہوگی اور اسکی تائید فتح و ظفر کے ہمراہ ہوگی۔ اس کے لئے زمین کے قاصدے سنا دیئے جائیں گے اور خزانے آشکار ہو جائیں گے مشرق سے مغرب تک اسی کے نام کا سکہ چلے گا“ خدا اسکے دین کو تمام اویان پر غالب کر کے رہے گا چاہے مشرکین کو یہ امر کتنا ہی ناگوار گزرے، زمین پر موجود ہر منہدم کی تعمیر کرے گا، زمین اپنے اوپر اگنے والی تمام چیزوں کی ظاہر کر دے گی اور جس طرح لوگ اسکے زمانے میں نعمتوں میں غرق ہونگے، اس سے پہلے کبھی وہ نعمتیں ان کو نصیب نہ ہوئی ہوگی۔

راوی کہتا ہے میں نے پوچھا۔ یا بن رسول اللہ! آپ کا قائم کب خروج کرے گا؟“ فرمایا : جب مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی شبہت اختیار کر لیں، عورتیں زمین پر سوار ہونے لگیں۔ لوگ نماز کو مردہ کر دیں، شہوتوں کی پیروی

کریں، سود خوری کی عادت ہو جائے، خون ریزی معمولی کام سمجھا جائے، بلین دین میں سود شامل ہو، زنا بھاگ دال ہو، عمارتیں مستحکم، جھوٹ جائز اور رشوتوں کا ہزار گرم ہو، نفسانی خواہشات کی غلامی ہو، دین کو دنیا کی خاطر بیچ دیا جائے، قطع رحم کیا جائے، اطعام طعام پر احسان چٹایا جائے، علم کمزوری اور ظلم فخرین جائے، امراء عاجز و ذرا دروغ گو ہو جائیں، امانتدار خیانت کرنے لگیں، مشیر ظالم اور قاری فاسق ہو جائیں، ظلم و جور کا دور دورہ ہو، طلاق کی کثرت ہو، نئے نئے گناہ اہتمام دیئے جائیں، جھوٹی شہادت قبول کی جائے، شراب خواری عام ہو، مرد مردوں سے شہوت کی آگ بجھائیں اور عورتیں عورتوں سے لذت حاصل کریں۔ شرعی خراج کو مال غنیمت گردانا جائے اور صدقہ و معارف کی طرح خسارے کا باعث سمجھا جائے۔ بدکردار لوگوں کی زبان درازی کے سبب ان سے دور رہا جائے، سفیانی شام اور یمن سے خروج کرے، مکے اور مدینے کے درمیان سرزمین بیداء و ہمتس جائے، آل محمدؐ سے ایک نوجوان رکن و مقام کے درمیان قتل ہو جائے اور پکارنے والا آسمان سے پکارے کہ حق اسکے (مہدی) اور اسکے پیرو کاروں کے ساتھ ہے، تب ہمارے قائم کے خروج کا وقت ہو گا اور جب وہ خارج ہو گا تو خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے گا اور اسکے پیرو کاروں میں سے تین سو تیرہ اشخاص اسکے گرد جمع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے گا کہ : ”

بَقِيَّةِ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ“ (سورہ ہود - آیت ۸۶)

اور پھر کہے گا کہ میں ہی بقیۃ اللہ، خدا کا خلیفہ اور تم پر اسکی جانب سے حجت ہوں پھر کوئی مسلمان اس کو السلام علیک یا بقیۃ اللہ فی الارض کہے بغیر سلام نہ کرے گا۔ اسکے گرد جب دس ہزار ساتھیوں کی تعداد پوری ہو جائے گی تو نہ پھر

کوئی یہودی باقی رہے گا نہ کوئی نصرانی اور نہ ہی غیر اللہ کی پرستش کرنے والا، بجز اسکے کہ مہدی پر ایمان لے آئے امت "امت واحدہ یعنی امت اسلامیہ بن جائے گی۔ اور جب بھی زمین پر کوئی غیر خدا کی پرستش کرنا چاہے گا آسمان سے ایک آگ نازل ہو کر اس کو جلا دے گی۔ (یعنی اس غیر خدا کو)۔

بعض جید اور باسزلت علماء کا کہنا ہے کہ: مہدی ہی قائم مظہر ہیں۔ متعدد احادیث آپ کے ظہور کے رونما ہونے اور پھر نور ظہور کے جگمگانے کی خبر دیتی ہیں۔ اور بہت جلد اسی نور کی دک سے روزِ شب کی تیرہ بجتی ختم ہونے والی ہے۔ ظلم و گمراہی کی رات آپ ہی کے دیدار کی تجلی سے سر آئے گی۔ پھر غیبت کے راز آشکار اور قلوب شاد مسرور ہونگے۔ آپ کی عادلانہ حکومت تمام آفاق کا احاطہ کرے گی۔ اور بدرِ کامل بھی آپ کی چمک کے آگے ماند ہوگا۔



ظہورِ مہدیؑ و منتظرؑ کے بارے میں

اس فصل میں حضرت مسدٰی ختکر (علیہ افضل الصلاۃ والسلام) کے ظہور اور آپؐ کے انتظار کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ نیز آپؐ کے ظہور کے آخری زمانے میں ہونے کے علاوہ ظہور کے وقت کے بارے میں کسی اور قسم کے تعین کی ممانعت۔ اسکے علاوہ آپؐ کے ظہور کا مقام، بیعت کی کیفیت، اس روز آپؐ کے چہرے پر موجود حسن و جمال، آپؐ کے انصار و اعموان کی تعداد اور آپؐ کی نافذ کردہ اصلاحات کے بارے میں اطلاعات بہم پہنچائی جائیں گی۔

### انتظار کی فضیلت

بیانج المودۃ صفحہ ۳۹۳ میں مناقب خوارزمی سے "اور وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے جد سے اور وہ امیر المؤمنین سے اور وہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

"انتظار فرج، بافضیلت ترین عبارت ہے۔"

صاحب کتاب نتائج المودۃ کہتے ہیں کہ: یعنی ظہور حضرت مہدیؑ کے ذریعے مشکلات سے رہائی کا انتظار۔ (تمام ہوا کلام بتایا)

کلام مصنف : اس روایت کے مضمون کی تائید ہمارے راویوں کی نقل کردہ متعدد روایات کرتی ہیں۔

انتظار کے معنی ہیں کسی امر کے حصول اور واقع ہونے کی توقع۔ نیز انتظار ظہور حضرت مہدیؑ کے نتیجے میں حاصل شدہ فوائد کسی سے ڈھکے چھپے نہیں وہ تمام اصلاحات کہ جن کا نفع اور فائدہ ایک ایک انسان کو پہنچے گا، چہ جائیکہ وہ فوائد کہ جو کہ ارض پر موجود انسانی معاشرے اور خصوصاً شیعوں کو پہنچیں گے۔

اول : انتظار (خواہ کسی بھی شے کا ہو) بجائے خود نفس انسانی کے لئے ایک اہم اور کٹھن ریاضت ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ انتظار، قتل ہو جانے سے زیادہ سخت اور مشکل امر ہے۔ اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کے انتظار کی گھڑیاں گمن رہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ، خیال اور فکر کا دھارا اسی سمت بننے لگتا ہے، اور وہی امر اس کے افکار کا محور قرار پاتا ہے۔ نیز اس حالت کے وجود میں آنے کے سبب انسان کی ذات میں دو امر پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) انسان کی تمام فکری قوتیں مجتمع ہو کر اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی طاقت و صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔

(۲) انسان میں اپنی تمام فکری قوتوں اور ذہنی صلاحیتوں کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کی قابلیت پیدا کرتی ہے۔

اور یہی وہ دو اہم ترین امور ہیں کہ جن کا ہر ایک انسان، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لئے محتاج ہے۔

دوم: اگر انسان یہ جانتا ہو کہ اسکی ان مصیبتوں اور لاحق پریشانیوں کی بہت جلد تلافی اور وادری ہوگی تو پھر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں، اسکے لئے آسان اور اسکی تلخیاں کم ہو جاتی ہیں۔

سجاوہ مصیبت کہ جس کی تلافی اور وادری کا انسان کو علم ہی نہ ہو اور کجاوہ مصیبت کہ جس کی تلافی اور وادری کا یقین ہو۔ دونوں میں یقیناً بہت زیادہ فرق ہے۔ خصوصاً جب یہ یقین ہو کہ ان مصائب کی بہت جلد تلافی ہوگی۔ اور حضرت مہدیؑ اپنے ظہور کے ساتھ ہی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔

سوم: آپؑ کے ظہور کا انتظار خود بخود اس جذبے کو جنم دیتا ہے کہ انسان آپؑ کے محبوں اور چاہنے والوں میں سے قرار پانے کی تمنا کرے بلکہ آپؑ کے جاں نثاروں اور مددگاروں کی صف میں شامل ہو۔ اور یہی جذبہ انسان کو تہذیب نفس اور اصلاح کردار کی طرف دھکیلتا ہے۔ تاکہ وہ جاں نثاران حضرت مہدیؑ کے زمرے میں قرار پائے اور آپؑ کی رکاب میں جہاد کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ یقیناً یہ آرزو اس اخلاق حسنہ کے ساتھ ہی ممکن ہے کہ جو آج ہمارے درمیان بہت کم پائے جاتے ہیں۔

چہارم: یہ انتظار انسان کو فقط اپنی بلکہ دوسروں کی بھی تہذیب نفس کی دعوت دیتا ہے۔ نیز حضرت مہدیؑ کی دشمن پر فتح و نصرت کے تمام اسباب کو آمادہ اور مہیا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں انسان تمام متعلقہ علوم اور مہارتوں کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ خصوصاً جب انتظار کرنے والے کو یہ علم ہو کہ دشمن پر آپؑ کا غلبہ ظاہری اسباب کے ذریعے ہوگا۔

یہ وہ آثار اور نتائج تھے کہ جو صدق دل سے ظہور کا انتظار کرنے کے نتیجے

میں حاصل ہوتے ہیں۔ اسکے علاوہ یہی آثار انسان کے بعض درج ذیل اخلاق حسہ اور اندرونی حالت کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔

اول : کیونکہ آپ کا منتظر اس بات کو (از روئے عقل و روایات) جان چکا ہے کہ ہر زمانے میں ایک (معصوم) امام کی موجودگی ضروری ہے۔ نیز یہ بھی جانتا ہے کہ حال حاضر میں حضرت مہدیؑ ہی وہ امام ہیں۔ ہتایر اس وہ ایک پوشیدہ اور مخفی شے پر بن دیکھے ایمان لایا ہے یعنی وہ آپؑ کو دیکھے بغیر آپؑ کی امامت پر ایمان لایا ہے اور یہی چیز اس شخص کے عقلی کمال اور دانائی کی علامت ہے۔

دوم : یہ انتظار اس امر کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ آپؑ کا منتظر اقامہ عدل و انصاف کی تمنا، قوانین و حدود الہی کے اجراء کی خواہش اور تمام امور کے اسکے صحیح محور پر گھومنے کی آرزو رکھتا ہے۔ نیز یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر انسان بلکہ ہر موجود اس مقصد اور منزل تک پہنچ جائے جس کے لئے خلق کیا گیا ہے۔

سوم : اس انتظار کی بدولت یہ امر بھی سامنے آتا ہے کہ آپؑ کے منتظر کے دل میں اہل بیت و ذوالقربیٰ کی سچی محبت، مہموت اور ولاء موجزن ہے۔ کیونکہ ظہور حضرت مہدیؑ کے سائے میں ہی اہل بیت کی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا، تمام امور اسکے ہاتھوں میں جائے گی اور ان کے تمام چھینے گئے حقوق لوٹائے جائیں گے۔

چہارم : یہ انتظار اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ آپؑ کا منتظر یہی نوع انسان سے محبت کرتا ہے اور فرزندانِ آدم کی فلاح و بہبود کا آرزو مند ہے۔ کیونکہ طے شدہ امر ہے کہ وہ خیر و برکت جو امام مہدیؑ کے ظہور کی بدولت حاصل ہوں گی ان کا فائدہ تمام موجودات کو پہنچے گا۔



مذکورہ بالا - طور میں ہم نے آپ کے انتظار کے نتیجے میں حاصل شدہ فوائد اور آپ کے منتظر کے بعض اخلاق و اوصاف حمیدہ کی جانب جزئی اشارہ کیا۔ جبکہ اس سلسلے میں ائمہ علیہم السلام سے مروی روایات میں ان سے کہیں زیادہ فوائد کا ذکر ہے جیسا کہ روایات پر نظر رکھنے والا شخص جانتا ہے۔

اس مقام پر نہایت مناسب ہو گا کہ ہم اس سلسلے میں ایک روایت کا اقتباس پیش کریں۔

شیخ صدوق، کمال الدین میں عمار سبایطی سے اور وہ امام ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہما السلام سے ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں۔ جس میں بتلایا گیا ہے کہ باطل حکومت کے ایام میں عبارات کا بجالانا، حق کی حکومت کے ایام میں بجالانے سے احسن و افضل ہے۔ نیز باطل حکومت کے دوران اجر و ثواب کی مقدار بھی بیشتر ہے۔

عمار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: آپ کے قربان جاؤں! پس ہم حق کی سرپرستی اور قائم (آل محمد) کے اصحاب میں شامل ہونے کی تمنا نہ کریں؟ کیونکہ آج (جبکہ حکومت وقت ظالم و جابر اور باطل ہے) ہم آپ کی امامت اور اطاعت کے زیر سایہ تمام عبارات کو بجالا رہے ہیں جو کہ حق کی حکومت کے دوران بجالانے سے افضل و احسن ہے۔

آپ علیہ السلام نے جواب دیا: سبحان اللہ! کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ خداوند تعالیٰ دنیا کے چپے چپے میں عدل و انصاف کو نافذ کرے۔ عوام الناس کی حالت بہتر ہو۔ اختلافات کو دور کرے۔ اور ایک دوسرے سے دور قلوب میں الفت و محبت پیدا کرے۔ خدا کی زمین میں خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ حدود الہی کو

فلق خدا میں اجزاء کرے۔ حق دار کو حق ملے اور پھر حق اس شان سے آشکار ہو کہ کسی کے بھی خوف کی بنا پر چھپایا نہ جائے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

### توقیت سما کی ممانعت

یہ تصحیح المودۃ صفحہ ۳۵۴ میں فرائند السطین سے اور اس میں احمد بن زیاد سے اور وہ دہل بن علی خزاعی سے انکی وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس میں دہل نے اپنا مشہور قصیدہ تائبہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور اسی میں چند اشعار حضرت مہدی کے بارے میں بھی تھے۔ قصیدہ سننے کے بعد امام نے فرمایا تھا کہ: روح القدس تمہاری زبان کے ذریعے کلام کرتا ہے، آیا تم جانتے ہو کہ یہ امام (مہدی) کون ہے؟ پھر امام رضائے خود فرمایا کہ:

”اس امام کا اسکی غیبت کے دوران انتظار کیا جا رہا ہے اور ظہور کے موقع پر اطاعت کی جائے گی“ پھر فرمایا کہ: جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کب قیام کرے گا تو یہ ”وقت“ کی خبر دینا ہے (کہ جس کی ممانعت کی گئی ہے) مجھے میرے والد نے بتایا اور انہیں ان کے آباؤ اجداد نے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”ظہور کی مثال قیامت کی مانند ہے“

”لانا ناسیکم الا بغتۃ“

کلام مصنف: غیبت کے سلسلے میں بعض روایات میں (جیسا کہ گزشتہ صفحات پر گزرا) ملتا ہے کہ: آپؐ شباب ثاقب کی سی سرعت کے ساتھ نمودار ہوئے۔ یا بعض آئمہ صفحات میں ذکر ہونے والی روایت میں ہے کہ خدا

س توقیت: ”وقت“ سے نکلا ہے جسکے معنی ہیں کسی وقت کا تعین کرنا۔

(ظہور) حضرت ممدی کا بندوبست ایک رات میں کر دے گا۔

شاید یہ تمام عبارات ظہور کے اچانک واقع ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اسکے بارے میں صرف اس امر کا خالق ہی جانتا ہے۔

روایات میں جس امر کی بھرپور تاکید کی گئی ہے وہ آپ کے ظہور کا تعین نہ کرنا اور اسکی مدت کا علم خداوند تعالیٰ کو سونپ دینا ہے، یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے۔

”کذب الوقتون یا کذب الموقتون“

”جھوٹ بولتے ہیں (ظہور کے) وقت کا تعین کرنے والے۔“

توقیت کو ترک کرنے اور آپ کے ظہور کے ہر زمانے اور ہر سال تو کیا ہر ماہ ہر جمعہ بلکہ ہر روز واقع ہونے کا امکان دینے میں چند مصلحتیں پوشیدہ ہو سکتی ہیں۔ (۱) مفہوم بداء اپنے اس صحیح معنی کے ساتھ، جسکے ہم شیعہ قائل ہیں، خداوند تعالیٰ کے حق میں ثابت ہے۔ یقیناً مشیت خداوندی تمام مقدرات میں دخل رکھتی ہے جسکے سبب ان میں تقدیم و تاخیر اور تغیر و تبدل واقع ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر ائمہ علیہم السلام آپ کے ظہور کی مدت کو معین کر دیتے اور پھر اس معین وقت میں بداء ظاہر ہو جاتی تو اس صورت میں لوگ غیبت اور ظہور کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو جاتے، بلکہ خبر دینے والا بھی اس شک و شبہ کی زد میں آجاتا۔ لہذا ائمہ علیہم السلام نے فرمایا کہ:

”ہمارا کوئی وقت نہیں اور نہ ہی ہم اس کو معین کریں گے۔“

(۲) توقیت کا ترک کرنا اور اس مسئلے کا خداوند تعالیٰ کو سونپ دینا نیز ہر روز آپ کے ظہور کے واقع ہونے کا امکان دینا یقیناً آتش شوق کو بھڑکانے اور تعجب

ظہور اور آپؐ کے قیام کی دعا میں شدت کا باعث ہو گا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپؐ کا ظہور مومنین کی دعا اور شدت شوق پر موقوف ہو۔

(۳) اگر آپؐ کے ظہور کا وقت معین ہو اور لوگوں کے علم میں بھی ہو (اگرچہ فقط خواص ہی کے علم میں کیوں نہ ہو) لیکن پھر بھی اس معین مدت میں ظہور کے بعد ہر خاص و عام آپؐ کے وجود سے باخبر ہو جائیگا۔ اور بلاشک آپؐ کے دشمن بھی اس معینہ مدت کے انتظار میں آپؐ کی گھمات میں ہوں گے، تاکہ ظہور کے فوراً بعد آپؐ سے جنگ کی جاسکے۔ دوسری طرف یہ امر تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ ظہور کے شروع دن سے ہی آپؐ کی افرادی قوت، آپؐ کے دشمن کی طرح مستحکم اور طاقتور ہو۔

(۴) جیسا کہ واضح ہے کہ ہر نام اپنے زمانے کے امر و نہی کا ذمہ دار اور امت مسلمہ کی معاشرتی زندگی کا محور ہوتا ہے۔ اس کا ٹکا ہوں سے اوجھل اور پس پردہ نہایت میں ہونا بلاشک امت کی معاشرتی زندگی کو بے حس و حرکت اور مضحل کر دیتا ہے۔ لہذا اگر امت یہ بات جان لے کہ ان کا امام عنقریب ان کے درمیان لوٹ آئے گا۔ اور اسی طرح سے محور و مرکز قرار پائے گا تو یقیناً وہ اپنے معاشرے اور معاشرتی زندگی کو بے حس و حرکت نہ ہونے دیں گے اور اس کے لوٹنے کی آرزو میں معاشرے کے نظم و ضبط کو ہاتی رکھیں گے۔

(۵) آپؐ کے ظہور کے کسی بھی لمحے واقع ہونے کا امکان، ان اصلاحی کاموں (کہ جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا) کی سرعت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ انسان اگر یہ بات جانتا ہو کہ اس کا کوئی عزیز یا دوست کسی بھی لمحے سفر سے لوٹ سکتا ہے تو یقیناً وہ اسکی خاطر مدارات اور استقبال سے متعلق امور کو جلد از

جلد انجام دینے کی کوشش کرے گا، تاکہ اس کی آمد پر اسکی خاطر مدارات یا دوسرے متعلقہ کام ادا ہو سکیں نہ رہ جائیں۔

بے شک آپ کی ظہور کے وقت کا کسی بھی عنوان سے تعین نہ کرنا اور ظہور کا صدق دل سے انتظار کرنا، یہ دونوں عوامل معاشرے کی فلاح و مہبود کے نہایت اہم اور مضبوط رکن ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر صاحب تفسیر السار، اس مقام پر اپنے بعض الفاظ و خیالات پر نظر ثانی کرتے۔

### آپ کے ظہور کا آخری زمانے میں واقع ہونا

اسعاف الرانجبین میں مرقوم ہے کہ حاکم نے اپنی کتاب صحیح میں رسول اللہ کی ایک حدیث نقل کی ہے، ”آپ فرماتے ہیں کہ: ”آخری زمانے میں میری امت پر شدید آفات نازل ہو گئی۔۔۔۔۔ پھر فرمایا کہ: میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہو گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔

ابن حجر، کتاب صواعق میں رقمطراز ہیں کہ: امام احمد اور امام مسلم نے رسول اللہ سے حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا: ”آخری زمانے میں ایک ایسا خلیفہ ہو گا جو مال کو بے دریغ تقسیم کرے گا اور اس کو حج کر کے نہ رکھے گا۔

اسعاف الرانجبین صفحہ ۱۳۹ پر بھی اسی طرح کی حدیث نقل ہے۔

کلام مصنف: بعض دوسری روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں خلیفہ سے مراد حضرت مہدی ہیں۔

عقد الدرر کے باب دوم میں عبد اللہ بن عمر سے منقول ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : آخری زمانے میں میری نسل سے ایک شخص خروج کرے گا، جس کا نام میرے نام کی طرح اور کنیت میری کنیت کی سی ہو گی۔ زمین کو عدل سے اس طرح بھرزے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔

ایضا اسی کتاب کے باب سوم میں امام ابو عمرو مدائنی سے اور وہ ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا : آخری زمانے میں میری عمرت سے ایک خورونو جوان قیام کرے گا جسکی ناک ستواں ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھردے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔

یضاً بیئح المودۃ میں مشکوٰۃ المصابیح سے اور اس میں صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل سے اور اس میں جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہو گا جو مال و دولت کو تقسیم کرے گا اور گن کر (جمع) نہ رکھے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ : میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ایسا ہو گا کہ جو مال کو بے دریغ تقسیم کرے گا اور اس کو گن کر (جمع) نہ رکھے گا۔

ایضاً بیئح المودۃ میں فرامد السمعین سے اور اس میں علی بن ہلال سے اور وہ اپنے والد سے اور ان کے والد رسول اللہؐ سے وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپؐ نے حضرت مہدیؑ کو اپنی نسل سے بتایا ہے اور پھر یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ:

”وہ آخری زمانے میں قیام کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس

طرح بھردے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔“

کلام مصنف : ہم فرقہ امامیہ اثنا عشری کی متعدد روایات اور اسی

طرح برادران اہل سنت سے مرویہ روایات میں بھی لفظ ”آخر الزمان“ (آخری زمانہ) موجود ہے۔ نیز روایات میں اس زمانے کے بعض اہم واقعات کا بھی ذکر ہے جن میں سب سے اہم واقعہ حضرت مہدیؑ کا ظہور ہے۔

اس لفظ کے سلسلے میں جو فیصلہ کن بات کسی جا سکتی ہے وہ یہ کہ کبھی لفظ آخر الزمان کے ذریعے اس کے لغوی معنی کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے یعنی قیامت سے پہلے کا زمانہ۔ اور کبھی اس لفظ کے ذکر کا مقصد دو مختلف زمانوں کی نسبت کا موازنہ کرنا ہے کہ جن میں بعد میں آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے کی نسبت آخری زمانہ کہلاتا ہے مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی آخر الزمان ہیں یعنی آپؐ کا زمانہ نبوت و محمد رسالت، نیز آپؐ کی شریعت کا دور، گزشتہ تمام انبیاء کے دور کے بعد اور متاخر ہے۔ لہذا آپؐ تمام انبیاء کی نسبت ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ جسکے معنی یہ ہیں کہ اب آپؐ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، وگرنہ آپؐ کا آخری نبی ہونا ثابت نہ ہو گا۔ اسی طرح درج ذیل حدیث میں لفظ آخر الزمان استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت اور آپؐ کی شریعت کا آخری زمانہ مراد ہے۔

یعنی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت اور آپؐ کی لائی ہوئی شریعت کے عہد کو زمانے کے لحاظ سے مختلف اجزاء اور حصوں میں تقسیم کریں تو ان اجزاء اور حصوں کے آخری جزء کی جانب درج ذیل حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا :

”وہ امت کبھی ہلاک نہ ہوگی کہ جس کی ابتداء میں درمیان میں مہدیؑ

اور عیسیٰؑ آخر میں ہوں گے۔“

اب جبکہ یہ بات روشن اور واضح ہو چکی ہے تو وہ احادیث کہ جن میں حضرت مہدیؑ کو خلیفہ آخر الزمان کہا گیا ہے یا آپ کے ظہور کا وقت آخر الزمان بتایا گیا ہے ان میں لفظ آخر الزمان سے سو خر الذکر معنی ہی مراد ہیں۔ یعنی رسول اللہؐ کے عہد نبوت اور آپؐ کی لائے ہوئی شریعت کے دور کو اگر زمانے اور اوقات کے لحاظ سے اجزاء اور حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان تقسیم شدہ اجزاء اور حصوں کے آخری جزء اور حصے میں آپؐ کا ظہور متوقع ہے۔ (تمام ہوا کلام مصنف کتاب ہذا)

ایضاً عقد الدرر کے باب ہفتم صفحہ ۱۴۴ میں حافظ ابو عبد اللہ سے انکی کتاب مستدرک سے اور وہ ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : میری امت کے آخر میں مہدی شمشیر کے ساتھ خروج کرے گا خدا اس پر باران رحمت نازل کرے گا۔ زمین اپنے اوپر اگنے والی تمام چیزوں کو اگائے گی اور وہ اموال کو مساوی تقسیم کرے گا۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

صاحب عقد الدرر کہتے ہیں کہ حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے لیکن تب بھی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔

روزِ ظہور آپؐ کے اوصاف

عقد الدرر کے باب سوم صفحہ ۳۶ میں حافظ ابو نعیم کی کتاب صفة المہدی سے اور اس میں ابوالامامہ سے وہ حدیث نقل ہے کہ جس میں آپؐ نے



حضرت مہدیؑ کا ذکر کیا ہے نیز آپؑ کے ظہور سے پہلے اور ظہور کے موقع پر رونما ہونے والے واقعات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس حدیث کے درمیان میں عبد القیس کے ایک فرد نے سوال کیا کہ : یا رسول اللہؐ! اس دن لوگوں کا امام کون ہو گا؟

آپؐ نے جواب دیا : مہدیؑ جو میری اولاد میں سے ہے چالیس سالہ شخص کی مانند ہو گا۔

ایضاً باب سوم صفحہ ۳۸ میں حافظ ابو نعیم بن حماد کی کتاب الفتن لوحہ ۱۱ سے اور اس میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالبؑ سے منقول ہے کہ جس میں حضرت مہدیؑ کا ذکر ہے اور پھر آپؑ نے فرمایا کہ : وہ (مہدیؑ) اس حال میں ظاہر ہو گا کہ اس کی عمر تیس سے چالیس برس کے درمیان معلوم ہو گی۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسی باب صفحہ ۳۹ میں ابو عبد اللہ المدائنی اور ابو بکر بیہقی سے اور یہ دونوں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا : میری امید یہی ہے کہ گردش لیل و نهار اس وقت تک قائم و دائم رہیں گے جب تک کہ ہم اہل بیت میں سے ایک جو اس سال شخص ظاہر نہ ہو۔ ایسا جو اس جو نہ تو خود گمراہی کے قریب پھٹکا ہو اور نہ ہی گمراہی اس کے قریب آئی ہو، اس امت کے اسور کو وہی سدھارے، نیز جس طرح ہمارے ہاتھوں خدا نے اس کام کو شروع کروایا، اسی طرح ہمارے ہاتھوں ختم بھی کروائے گا۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے ابن عباس سے کہا: کیا تمہارے سن رسیدہ افراد یہ کام نہیں کر سکتے جو تم اپنے جوانوں سے اس لگائے بیٹھے ہو؟

ابن عباس نے جواب دیا : خدا جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔

ایضا اسی باب صفحہ ۴۲ میں حضرت ابو عبد اللہ الحسین بن علی علیہما السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا : اگر مہدی قیام کرتا تو لوگ اس کو نہ مانتے، کیونکہ وہ ایک ہریار مٹین جواں کی شکل میں ظہور کرتا، اور یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ لوگوں کے خیال میں تو وہ ایک عمر رسیدہ بوڑھے شخص کی مانند ہو، لیکن جب ظہور کرے تو وہ اسکو جواں سال پائیں۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضا اسی کتاب کے باب چہارم صفحہ ۵۸ فصل اول میں حافظ ابو عبد اللہ الحاکم کی کتاب مستدرک سے اور اس میں ثوبان سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : تمہارے خزانوں کے پاس تین افراد مارے جائینگے۔ تینوں کے تینوں ایک خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، اور پھر ایک جواں کا ذکر فرمایا اور کہا کہ جب تم اس جواں کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لینا کیونکہ وہی خدا کا خلیفہ مہدی ہے۔

صاحب عقد الدرر کہتے ہیں کہ حاکم نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ : یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے نزدیک صحیح ہے۔ ایضا اسی کتاب کے باب ہفتم صفحہ ۱۵۴ میں حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حاد کی کتاب الفتن لوحہ ۱۰۰ سے اور اس میں اسحق بن یحییٰ بن طلحہ سے اور وہ طاؤس سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جسکے الفاظ یہ ہیں۔

”حضرت عمر بن خطاب نے بیت المال کا الوداعی جائزہ لیا اور کہا کہ خدا کی قسم! میں بیت المال کے خزانے اور اس میں جمع شدہ اسلحہ اور مال و دولت کو خدا کی راہ میں تقسیم کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔“

تو حضرت علی بن ابی طالبؑ نے اس کے جواب میں کہا کہ : اے امیر المومنین! رہنے دیجئے آپ اس امر کے مالک نہیں۔ اس کا مالک تو صرف قریش کا وہ داؤد اور جو ان ہے جو آخری زمانے میں اس مال و دولت کو خدا کی راہ میں تقسیم کرے گا۔

کلام مصنف : بلاشبک، ان احادیث کے معنی اس قدر روشن ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس بات کی شہادت وہ بعض روایات دیتی ہیں کہ جن کے مطابق ظہور کے دن دیکھنے والا آپؐ کو چالیس یا تیس اور چالیس برس کے درمیان کی عمر کا مالک سمجھے گا، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ آپؐ کی حقیقی عمر بھی اتنی ہی ہے۔

### آپؐ کے ظہور کا مقام

عقد الدردر باب دوم صفحہ ۸۷ میں جابر بن یزید جعفی سے اور وہ امام ابو جعفر محمد بن علی الباقی سے ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپؐ کے ظہور کی بعض علامات اور سفیانی کے لشکر کے دھنسنے کا ذکر ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ :

سفیانی مدینہ منورہ کی جانب ایک لشکر بھیجے گا، مہدیؑ مدینہ سے مکہ معظمہ کی جانب کوچ کرے گا، سفیانی کے لشکر کے امیر جو جب یہ اطلاع ملے گی کہ مہدیؑ کے کارخ کرچکا ہے تو وہ اس کے (مہدی کے) تعاقب میں ایک لشکر بھیجے گا، لیکن وہ لشکر آپؐ تک نہ پہنچ سکے گا، یہاں تک کہ آپؐ موسیٰ بن عمران کی سی خوفزدہ اور اندیشہ ناک حالت میں 'کے میں داخل ہو جائینگے۔' (حدیث ملاحظہ کریں)

اسعاف الرانجبین میں مرقوم ہے کہ : یہ بات صحیح ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ایک خلیفہ کی موت کے وقت پھوٹ پڑ جائے گی، اور پھر ایک شخص مدینے سے مکے کی جانب فرار کرے گا، اسکے پاس مکے کے چند لوگ آئیگیے اور اسکی مرضی کے برخلاف اسکو مکے سے خارج کریں گے، اور پھر رکن و مقام کے درمیان اسکی بیعت کریں گے۔ شام سے ایک لشکر ان کی جانب بھیجا جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیداع پر زمین میں دھنس جائے گا۔

ینابيع المودۃ میں کتاب جواہر العقیدین سے اور اس میں ابن داؤد، امام احمد اور حافظ بیہقی سے اسی طرح کی روایت نقل ہوئی ہے۔

ینابيع المودۃ میں فرائد المصطفین سے اور اس میں حسن بن خالد سے اور وہ ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیہما السلام سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپ کا اور آپ کی نعیت کا ذکر ہے۔ نیز یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ رضی اللہ عنہ کی چوتھی پشت سے ہیں پھر فرمایا کہ : ”وہی ہے کہ جس کے لئے آسمان سے منادی ایسی ندا دے گا کہ جس کو تمام اہل زمین سنیں گے کہ جان لو! حجت خدا بیت اللہ کے قریب ظاہر ہو چکی ہے، پس اس کی اطاعت کرو کیونکہ حق اسی میں مضمر اور اسی کے ساتھ ہے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

### آپ کی بیعت کا مقام

عقد الدرر باب دوم صفحہ ۳۱ میں ابوالحسن مالکی سے اور وہ حذیفہ بن الیمان سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ”اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا ہو تب بھی خداوند عالم میری

نسل سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا کہ جسکا نام میرے نام کی طرح اور کردار میرے کردار کی طرح ہوگا، اسکی کنیت ابو عبد اللہ ہوگی، رکن و مقام کے درمیان لوگ اسکی بیعت کریں گے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضا اسی کتاب کے باب چہارم فصل دوم میں صفحہ ۶۹ پر سنن ابی داؤد سے، جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجہ اور بیہقی کی البعث والشور سے (اسکے علاوہ اور بھی دیگر افراد سے) اور یہ تمام محدثین جناب ام سلمہؓ زوجہ رسول اکرمؐ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: ایک خلیفہ کی موت کے وقت پھوٹ پڑے گی اور اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکے کی جانب کوچ کرے گا، مکے کے لوگ اسکے پاس آئیں گے اور اسکو اسکی مرضی کے برخلاف مکے سے خارج کر دیں گے اور پھر رکن و مقام کے درمیان اسکی بیعت کریں گے۔

کلام مصنف: روایت کا آخری جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس ”ایک شخص“ سے مراد حضرت مہدیؑ ہیں۔

ایضا اسی کتاب کے باب پنجم صفحہ ۱۳۲ میں، ابو عبد اللہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن لوحہ ۹۵ سے اور اس میں عبد اللہ بن مسعود سے ایک طویل روایت نقل ہے جس میں خروج سفیانیؑ مدینے سے مکے کی جانب خروج حضرت مہدیؑ اور آپ کا اپنے اور اپنے آباؤ اجداد کے لئے بیعت طلب کرنا جیسے امور کا ذکر ہے اور پھر یہ الفاظ درج ہیں:

”پس وہ رکن و مقام کے درمیان بیٹھ جائے گا اور اپنا ہاتھ بیعت کے لئے بڑھا دے گا، پھر اسکی بیعت کی جائے گی اور خدا اسکی محبت کو دلوں میں انڈیل دے گا۔“

عقد الدرر کے باب ہفتم صفحہ ۱۵۶ میں نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے اور اس میں ابو ہریرہ سے نقل ہے کہ: ”رکن و مقام کے درمیان ہمدی کی بیعت کی جائے گی نہ کسی خوابیدہ شخص کی تیند خراب ہوگی اور نہ ہی کوئی خون بہایا جائے گا۔“ (یعنی بیعت کے شروع میں : مصنف)

ابن حجر، صواعق میں ابن عساکر سے اور وہ علی علیہ السلام حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس میں حضرت ہمدی کے بغرض پناہ مدینہ سے مکے کی جانب رخ کرنے کا ذکر ہے یہاں تک کہ آپ (صلی) نے فرمایا کہ : پھر مکے کے کچھ لوگ اسکے پاس آئیے اور اسکی مرضی کے برخلاف اسکو مکے سے خارج کردیں گے پھر اسکے بعد رکن و مقام کے درمیان اسکی بیعت کریں گے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

عقد الدرر باب چہارم فصل دوم صفحہ ۸۷ میں جابر بن یزید جعفی سے نقل ہے کہ : امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہما السلام نے حضرت ہمدی کے مدینہ سے مکے کی جانب پناہ کی خاطر خارج ہونے کے بارے میں فرمایا اور پھر کہا کہ : ”لوگ رکن و مقام کے درمیان اسکی بیعت کریں گے۔“

## آپ کے اسباب فح کی تیاری

عقد الدرر باب ششم صفحہ ۱۳۵ میں کچھ حفاظ کرام سے کہ جن میں احمد بن حنبل اپنی مسند میں، ابن ماجہ اپنی سنن میں، بیہقی، ابو عمر المدائنی، نعیم بن حماد، ابو القاسم الطبرانی اور ابو نعیم اصفہانی شامل ہیں، نقل ہے اور یہ سب امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے فرمایا : مہدی ہم اہل بیت سے ہے خدا اس (کے ظہور) کا بندوبست ایک شب میں کرے گا۔

ابن حجر، صواعق میں ابن ماجہ سے نقل کرتے ہیں کہ : مشرق کی جانب سے کچھ لوگ انھیں گئے اور مہدی کی سلطنت کے انتظامات کی تیاری کریں گے۔“

عقد الدرر باب پنجم صفحہ ۱۲۵ میں ابن ماجہ اور بیہقی سے اسی طرح کی حدیث نقل ہے۔

ایضا اسی باب میں صفحہ ۱۳۵ ابو نعیم کی کتاب صفة المہدی سے اور اس میں ثوبان سے نقل ہے کہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جب تم مشرق کی سمت سے سیاہ پرچوں کو نمودار ہوتے دیکھو تو فوراً اس سے بھاگتے ہو جاؤ چاہئے اسکے لئے تمہیں برف پر سے رینگ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ کیونکہ ان کے درمیان خدا کا خلیفہ مہدی موجود ہے۔

صاحب عقد الدرر کہتے ہیں کہ : ابو عبد اللہ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک جلد ۳، صفحہ ۵۰۲ میں، امام ابو عمر نے اپنی کتاب سنن میں اور حافظ نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن لوحہ ۹۳ میں اسی معنی کی حامل ایک حدیث نقل کی ہے، اور حدیث میں موجود یہ جملہ کہ ”کیونکہ ان کے درمیان خدا کا خلیفہ مہدی موجود ہے۔“ شاید اس بات کی جانب اشارہ ہو کہ یہ لوگ حضرت مہدیؑ کی سلطنت اور حکومت کے انتظامات کی تیاری کریں گے، جیسا کہ چند طور قبل ذکر ہوا۔

اسی باب صفحہ ۱۳۶ میں سعید بن حماد المہدی سے نقل ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا : مشرق کی جانب سے بنی عباس کے لئے سیاہ پرچم خروج کریں گے اور

پھر وہی ہو گا جو خدا چاہے گا، پھر چھوٹے چھوٹے سیاہ پرچم نمودار ہوں گے جو آل سفیان کی نسل سے ایک شخص اور اسکے کارندوں کے ساتھ قتال کریں گے اور اطاعت کو مہدیؑ کی طرف لوٹادیں گے۔

کلام مصنف : وہ احادیث جو مشرق کی جانب سے سیاہ پرچموں کے نمودار ہونے تکے بارے میں مروی ہیں ان میں بعض روایات سے بنی عباس کی دعوت اور ابو مسلم خراسانی کی تحریک کا عندیہ ملتا ہے۔

بعض روایات کا اشارہ اس گروہ کی جانب ہے کہ جو آخر میں مشرق کی سمت سے خروج کرے گا اور مہدی منتظر علیہ السلام کی طرف آنے کی دعوت دے گا۔ اور مذکورہ بالا سعید بن المسیب کی نقل کردہ روایت انہی تمام حالات کا خاکہ پیش کرتی ہے۔

یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ کتاب کے شروع میں ہم نے اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ درہم و دینار کی چمک دمک نے لوگوں کو اس سلسلے میں روایات گھڑنے پر اکسایا۔ یہ بات صرف ان روایات کی پہلی قسم پر صادق آتی ہے۔ (یعنی بنی عباس کی دعوت)۔

بیابح الموءودہ میں فرزند السمعین سے اور اس میں حافظ ابو نعیم سے اور وہ امام محمد بن علی الباقر سے نقل کرتے ہیں کہ : باری تعالیٰ ہمارے محبوبوں اور پیروکاروں کے قلوب کو شجاعت اور رعب سے بھر دے گا اور جب ہمارے قائم کا ظہور ہو گا تو ہمارے محبوبوں میں سے ہر شخص کی بہادری شیر سے زیادہ اور دار نیزے کی نوک سے زیادہ کارگر ہو گا۔

کلام مصنف : یہ بات بلاشبک و تردید کہی جاسکتی ہے کہ جب کوئی اپنے



قائد کو گنواوے تو اسکے پائے استقامت میں لغزش آجاتی ہے بلکہ کبھی کبھی تو اسکے اجتماعی اور معاشرتی رشد و کمال کی رفتار بھی یکسر ختم ہو جاتی ہے۔ برخلاف اسکے اگر قوم کا قائد موجود ہو اور پختہ ارادے، عزم و ہمت کا حامل اور نئی تلی سوچ کا مالک ہو تو یہ امر پوری کی پوری قوم پر گہرے اور انٹ نفوذ رقم کرتا ہے۔ اور یہ بات ہر انسان کے مشاہدے میں ہے۔

شاید مذکورہ بالا روایت بھی اسی اہم نکتے کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ نیز یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ رب العزت ان (حضرت مدنی کے محبوب) کے دلوں کو خود انہی لوگوں کی حفاظت کی خاطر ایک رعب و دبدبے سے بھر دے گا۔

### ظہور سے قبل رونما ہونے والے بعض امکانی واقعات

ہمت سے اذہان میں یہ سوال کبھی کبھی ابھرتا ہے بلکہ بعض اوقات تو زبان پر بھی آجاتا ہے کہ اگر حضرت مدنی کی غیبت کا سبب دشمن کا خوف اور اندیشہ ہے تو پھر کس طرح یہ خوف ختم ہو گا؟ جبکہ دوسری طرف ہم دشمن کی قوت اور طاقت کو روز بروز بڑھتا دیکھ رہے ہیں۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ آپ دشمن کی اس طاقت کا کہ جس نے محروبر اور خلاء تک اپنا جال پھیلا رکھا ہے ظہور کے دن مقابلہ کر سکیں؟ جب کہ دشمن کے مقابلے میں آپ کی طاقت ناکافی اور ناقابل موازنہ ہے۔

اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ : یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں عالمی سطح پر کچھ ایسے واقعات پیش آئیں یا حالات کھڑے لیں اور ایسے حوادث رونما ہوں جن کے نتیجے میں غیبت ختم ہو جائے اور یہ واقعات و

حوادث ظہور کا ایک قومی اور مستحکم سبب بن کر ابھریں۔ جسکے نتیجے میں ظہور کے وقت کیت اور کیفیت کے لحاظ سے آپؐ کی طاقت دنیا کے دوسرے حکمرانوں کی نگر پر ہو جسکے بعد آپؐ اسی طاقت کو روز بروز بڑھاتے جائیں۔

ان میں سے چند ممکنہ تبدیلیاں یہ ہیں۔

☆ دنیا میں بسنے والی بعض اقوام کی اخلاقی و اصلاحی حالت بہتر ہو، تہذیب نفس، مادی، روحانی اور دیگر انسانی آداب سے تعلق رکھنے والی تعلیمات پر دان چڑھیں۔ یا ہر قوم میں مذکورہ بالا کسی بھی ایک پہلو سے شعور و آگاہی بڑھ جائے۔ لہذا جب آپؐ ظہور کے وقت لوگوں کو اپنے منشور اور مقاصد اور ان اسلامی تعلیمات جو آپؐ کے ذریعے از سر نو زندہ ہوں گی۔ سے روشناس کروائیں گے اور لوگ آپؐ کے خلوص، سچائی، نیک نیتی، امانتداری، ثابت قدمی اور خیر اندیشی کا مشاہدہ کریں گے تو یقیناً آپؐ کے مقابل سر تسلیم خم کر دیں گے اور آپؐ کی رکاب میں جماد کریں گے۔

پھر لوگوں کی اس حمایت کے بعد رفتہ رفتہ آپؐ کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گا اور مذکورہ صفات کو دیکھتے ہوئے آپؐ کے گرد، افزاوی قوت کی ایک موثر تعداد جمع ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپؐ کے جد امجد حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ جب لوگوں نے آنحضرتؐ کے نیک مقاصد، خلوص اور تمام انسانی تعلیمات کا مشاہدہ کیا تو آپؐ کی رسالت کی تصدیق کی اور آپؐ پر ایمان لائے۔ اس بات کا ثبوت نجاشی کے اسلام لانے سے بھی ملتا ہے۔

☆ یہ بھی ممکن ہے کہ آپؐ کے ظہور سے قبل کچھ ایسی انجمنیں اور جماعتیں

تفصیل پائیں جو آپ کے منشور کی طرف بلاوا دیں نیز روزِ ظہور آپ کی نصرت اور مدد کی خاطر ایک دوسرے سے عہد و پیمانہ باندھیں۔ اسکے علاوہ عام مجالس و محافل میں خطباء اور ذاکرین کا امامِ مہدیؑ کے تعمیری اہداف، دعویٰ اور اخروی اصلاحات نیز آپ کے روحانی، مادی، اجتماعی اور انفرادی مقاصد کا پھیلانا اور تبلیغ کرنا بھی لوگوں میں آپ کے ظہور کے لئے تیار کرنے کا اہم سبب ہے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں بھی قارئین کی نظر سے گزرا کہ انتظارِ ظہور کا اہم ترین مقصد لوگوں میں اس ضروری اور لازمی استعداد اور صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے۔ نیز یہ بات کتنا ہمارے خیال میں ہرگز بعید از قیاس نہیں کہ امامِ مہدیؑ ہر اصلاح طلب مسلح کی طرح ان تمام مذکورہ بالا کوششوں میں لوگوں کی درپردہ اور ماورائی اعانت میں مصروف ہوں۔ اور یہ بات اس سے پیشتر طے ہو چکی ہے کہ اس قسم کی مدد اور اعانت آپ کی غیبت سے ہرگز تضاد و تصادم نہیں رکھتی۔

۶۱۰ یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں موجودہ نظام بگڑ جائے اور دنیا کے بیشتر ممالک چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور راجدھانیوں میں تبدیل ہو کر اپنا اپنا الگ حکمران بن لیں۔ بنا بریں ہر ملک کی افرادی قوت جدا ہو۔ لہذا اس صورت حال میں جب آپؑ ظہور کریں گے تو یقیناً ان تمام ممالک کی قوت تقسیم ہو چکی ہوگی جسکے نتیجے میں آپؑ کی افرادی قوت بھی ظہور کے وقت ان ہی میں سے کسی ایک ملک کی مانند ہوگی پھر آپؑ احکامِ الہی کو بجالاتے ہوئے اس طاقت کو بڑھانے کی کوشش کریں۔

۶۱۱ معاشرے پر حاکم طبقہ طاقت کے بل بوتے پر کمزوروں کا استحصال کرتا رہے۔ جسکے نتیجے میں ہر ملک، ہر قوم بلکہ ہر انسان، حیوان، یہاں تک کہ نباتات، صحیح و شام اپنی اس حالت سے بیزار اور سدھرنے سے مایوس ہو چکے ہوں گے۔

لیکن یہ بیزاری اور مایوسی ان کے دلوں تک ہی محدود رہے اور خود ان کے علاوہ کوئی اور اس حالت سے آگاہ نہ ہو۔ اور یہ شدید کرب کے عالم میں ہوں لیکن کسی کو کاتوں کاں خیر نہ ہو، وہ صرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد کریں اور جب (ظہور کے وقت) آسمان اور زمین کے درمیان منادی نداؤںے گا کہ خداوند تعالیٰ نے تمہیں تمہاری اس حالت سے نجات دینی تمہاری آزادی اور نگو، خلاصی کو نمدی کے ہاتھوں سونپ دیا کہ جو نکلے میں ظہور کر چکا ہے تو یہ تمام افراد حالات کے بستر ہونے کی امید میں آپ کی طرف لپک کر آئیں گے۔ اور شاید روایات میں موجود یہ جملہ کہ ”آپ اس وقت تک ظاہر نہ ہوں گے جب تک کہ زمین ظلم و ستم سے بھرنے جائے“ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ المختصر یہ کہ آپ اسی وقت ظہور کریں گے کہ جب پورا کاپورا انسانی معاشرہ ایک (مادرائی) مصلح کی ضرورت کو درک کر چکا ہو۔

یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ایسی جنگیں چھڑ جائیں کہ جن نتیجے میں تمام ممالک بے آب و گیاہ ویرانے میں بدل جائیں۔ لوگوں میں جنگ کرنے کی ہمت نہ ہو قوتیں اور طاقتیں ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہوں اور ایک تھکاوٹ اور کمزوری لوگوں پر چھا چکی ہو۔

ایسے میں اگر آپ ظہور کریں تو یقیناً آپ کی افزادی قوت بھی کیت اور کیفیت کے لحاظ سے ایسی ہی ہوگی اور ظہور کے بعد آپ بھی فوراً اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوششوں میں لگ جائیں گے نیز جنگ کے بعد آپ کے ہاتھ تلے والا مال غنیمت بھی اس طاقت کو کئی گنا کر دے گا۔

☆ یہ بھی ممکن ہے کہ ظہور کے وقت چند اسلامی ممالک آپ کی دعوت پر

لیکھ کہیں اور اپنی تماثر طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کے انصار و اغوان میں شامل ہو جائیں، آپ کی اطاعت میں سر تسلیم خم کریں اور آپ کی رکاب میں جما کر لیں، اور اپنے تمام امور کی زمام آپ کو سونپ دیں۔ اسکے علاوہ باری تعالیٰ کے فرستادہ ان فرشتوں کی مدد بھی آپ کے شامل حال ہو کہ جس طرح آپ کے جدا امجد حضرت رسول اکرم کے شامل حال تھی۔

نیز وہ تائید اور اعانت کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سبب آپ کو ملے گی بجائے خود ایک قابل ذکر امر ہے۔ اور آئندہ صفحات میں انشاء اللہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔

مذکورہ بالا تبدیلیاں اور حالات کا رونما ہونا ہرگز خارج از امکان نہیں ہے۔ اوہر دوسری طرف تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب اصلاحی تحریکوں کے قائدین نے انہی حالات اور تبدیلیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اصلاحی تحریکوں کا آغاز کیا۔ اگرچہ ان تبدیلیوں اور واقعات کے رونما ہونے کی بطور یقین پیش گوئی نہیں کی جاسکتی لیکن انسان کو آنے والے کل کے بارے میں کچھ علم نہیں۔

مزید برآں چودھویں صدی ہجری اور انیسویں صدی عیسوی میں پیش آنے والے واقعات مذکورہ بالا تبدیلیوں کے امکان پذیر ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا رونما ہو رہا ہے اور کیا پیش آنے والا ہے۔

آپ کے انصار و اغوان

ابن حجر صواعق میں ابن عساکر سے اور وہ علی علیہ السلام سے نقل کرتے

ہیں کہ : جب قائم آل محمد قیام کرے گا تو خداوند تعالیٰ اہل مشرق و مغرب کو ایک مقام پر جمع کر دے گا، اسکے ساتھی کو فہ اور اہل شام سے ہونگے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

عقد الدرر کے باب چہارم، فصل دوم صفحہ ۸۷ میں جابر بن یزید جعفی سے منقول ہے کہ : امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر نے فرمایا (اور پھر ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں ظہور کی بعض علامات، منیانی کا خروج، مدینے سے مکے کی جانب حضرت مہدیؑ کا پناہ کی خاطر آنا اور پھر آخر میں یہ جملہ نقل ہے) پھر خدا مہدیؑ کے لئے اس کے اصحاب کو جمع کر دے گا جن کی تعداد تین سو تیرہ ہے۔ عقد الدرر، باب چہارم فصل اول صفحہ ۵۹ میں ابو عبد اللہ حاکم کی کتاب مستدرک سے اور اس میں محمد بن حنفیہ سے نقل ہے کہ : ہم حضرت علیؑ کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے آپؑ سے مہدیؑ کے بارے میں پوچھا، آپؑ نے سات مرتبہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر کہا کہ دور ہے دور ہے وہ آخری زمانے میں اس وقت خروج کرے گا کہ جب کوئی شخص اللہ اللہ بھی کہے تو قتل کر ڈالا جائے گا۔ خداوند عالم ایک دوسرے سے دور ہادلوں کے نکلنے کی طرح منتشر لوگوں کو جمع کر دے گا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے الفت و محبت ڈال دے گا، ان کو کسی کا خوف نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ میدان چھوڑ کر بھاگیں گے، ان کی تعداد لاکھوں کے برابر ہوگی۔ نہ پچھلے زمانے والوں میں انکی طرح کوئی گزرا ہے اور نہ ہی اگلے زمانے والے ان تک پہنچ سکیں گے۔ وہ طالبوت کے ہمراہ شہر عبور کرنے والے افراد کی تعداد کے برابر ہونگے۔" (حدیث ملاحظہ کریں)

صاحب عقد الدرر نے اس حدیث کے بارے میں حاکم کا یہ قول نقل کیا ہے

کہ : مذکورہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی نظر میں صحیح ہے لیکن تب بھی انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔

ابن ابی اسی کتاب کے باب ہفتم صفحہ ۱۳۹ میں 'ابو عمر عثمان بن سعید المقری کی کتاب سنن لود ۱۰۵ سے اور اس میں حذیفہ بن الیمان سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت مہدیؑ اور آپؐ کے ظہور کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا : پس شام سے ابدال اور ان کے جیسے پیر لوگ خارج ہونگے 'پاکہ امن لوگ مصر سے اور سرکردہ افراد مشرق سے یہاں تک کہ وہ کے آئیں گے اور پھر اسکے (مہدیؑ) ہاتھ پر بیعت کریں گے۔" (حدیث ملاحظہ کریں)

بیانچ المودۃ میں عجمی سے اور وہ ابن اعثم کوفی سے اور وہ حضرت علیؑ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا : کیا کہنے کیا کہنے طالقان کے 'کہو تکہ اس سرزمین میں خدا کے مخفی خزانے ہیں 'وہ نہ تو سونے کے ہیں اور نہ ہی چاندی کے' لیکن ایسے مردان با معرفت ہیں کہ جنہوں نے خدا کی معرفت حاصل کرنے کا حق ادا کر دیا ہے اور وہی آخری زمانے میں مہدیؑ کے انصار ہونگے۔

اسعاف الراغبین میں مرقوم ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت پھوٹ پڑے گی اور پھر حضرت مہدیؑ کا مکہ کی جانب خروج 'وہاں پر آپؐ کی بیعت اور سرزمین پیدا پر سفیانی کے لشکر کے دھنس جانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ : جب لوگ اس امر کا مشاہدہ کریں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے سربر آوردہ لوگ اس کی جانب آئیں گے اور بیعت کریں گے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

## فرشتوں کی نصرت کا شامل حال ہونا

عقد الدرر کے باب پنجم میں ابو عمر عثمان بن سعید مقری سے انکی کتاب سنن سے اور اس میں حذیفہ بن الیمان سے نقل ہے کہ 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی رکن و مقام کے درمیان بیعت اور شام کی جانب کوچ کرنے کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا: "جبرائیل اسکے آگے اور میکائیل دائیں طرف ہونگے۔" (حدیث ملاحظہ کریں)

عقد الدرر کے باب چہارم، فصل اول صفحہ ۶۵ میں امام ابو جعفر سے حضرت مہدیؑ کے ظہور اور رکن و مقام کے درمیان آپ کی بیعت کا تذکرہ ہے اور پھر یہ جملہ ہے کہ: "جبرائیل اسکے دائیں اور میکائیل بائیں جانب ہونگے۔" (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضا اسی کتاب کے باب ہفتم صفحہ ۱۴۹ میں ابو عمر عثمان بن سعید مقری کی کتاب سنن لوحہ ۱۰۵ اور اس میں حذیفہ بن الیمان سے اور وہ رسول اکرمؐ سے حضرت مہدیؑ ان کے ظہور اور مکے میں بیعت کا ذکر نقل کرتے ہیں اور پھر یہ جملہ نقل ہے کہ: "پھر وہ شام کا رخ کرے گا اور جبرائیل آپ کے آگے اور میکائیل دائیں جانب ہونگے۔" (حدیث ملاحظہ کریں)

## نزول حضرت عیسیٰ بن مریمؑ

صحیح بخاری جلد ۴ صفحہ ۱۵۸ میں ابو ہریرہ سے نقل ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: "اس وقت تم لوگوں کی کیا حالت ہوگی کہ عیسیٰ بن مریم ہمارے درمیان



نزول کریں گے اور تہسار امام تم ہی میں سے ہوگا۔

عقد الدرر کے باب دہم میں صحیح مسلم جلد ۱ صفحہ ۱۳ سے ایسی ہی روایت نقل ہوئی ہے۔

عقد الدرر کے باب اول صفحہ ۲۵ میں ابو نعیم کی کتاب مناقب المہدی سے اور اس میں ابوسعید خدری سے اور وہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ :

جس کی امامت میں عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے وہ ہم ہی میں سے ہے۔

ایسا اسی مقام پر نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے اور اس میں عبد اللہ بن عمر سے تقریباً ایسی ہی حدیث نقل ہے۔

کلام مصنف : اس سلسلے میں روایات مستفیضہ ہیں، نیز یہی بات صحیح ہے اور علمائے اعلام کی اکثریت اسی کی قائل ہے۔ اب رہیں وہ روایات کہ جن میں حضرت مہدیؑ کا جناب عیسیٰ بن مریم کی امامت میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے تو یہ روایات بہت ہی کم ہیں اور علمائے کرام نے انکو قبول بھی نہیں کیا ہے۔

اسعاف الراغبین میں شیخ محی الدین عربی کی کتاب فتوحات مکیہ سے نقل ہے کہ : باری تعالیٰ عیسیٰ بن مریمؑ کو دمشق کے مشرق میں منارہ بیضاء کے پاس نازل کرے گا، آپ دو فرشتوں کا سہارا لے ہوئے ہوں گے، ایک فرشتہ داہنی جانب اور دوسرا بائیں جانب، اس وقت لوگ نماز عصر میں مشغول ہوں گے۔ امام جماعت اپنی جگہ آپ کے لئے خالی کر دے گا پھر آگے بڑھ جائیں گے اور لوگ آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔

مندرجہ بالا اقتباس کو نقل کرنے کے بعد صاحب عقد الدرر کہتے ہیں کہ :

جناب محی الدین کا یہ کہنا کہ یہ حضرت عیسیٰؑ ہی ہیں کہ جنگل نزول کے بعد

لوگ انکی امامت میں نماز ادا کریں گے، اس روایت سے متضاد اور متضاد ہے جسکے مطابق حضرت مہدیؑ کی امامت میں لوگ نماز پڑھیں گے، اور گزشتہ صفحات میں یہ بات موجود ہے۔ پھر اسکے بعد یہ کہنا کہ جناب عیسیٰؑ جب نزول کریں گے تو لوگ عصر کی نماز میں مشغول ہوں گے تو یہ بات کتاب السیرۃ الحلہ میں موجود اس بات سے متضاد ہے جس کے مطابق آپؑ (عیسیٰؑ) نماز فجر کی ادائیگی کے دوران نزول کریں گے۔ (تمام ہوا کلام عقد الدرر)

ابن حجر، صواعق میں لکھتے ہیں کہ : جس بات کی جانب دلائل واضح تر انداز سے اشارہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت مہدیؑ کا خروج، حضرت عیسیٰؑ کے نزول سے پہلے ہو گا، اگرچہ بعد میں ہونے کی جانب بھی ایک قول اشارہ کرتا ہے۔

ابوالحسن ابراہیمی کا کہنا ہے کہ : رسول اکرمؐ سے آپؑ کے خروج، اہل بیت میں سے ہونے، سلطنت کے سات برس پر محیط ہونے، زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے، حضرت عیسیٰؑ کے ہمراہ خروج، پھر حضرت عیسیٰؑ کا فلسطین میں باب لد کے مقام پر دجال کے قتل میں آپؑ کی مدد کرنا آپؑ کی اقتداء میں نماز ادا کرنا اور امت کی قیادت اور امامت کرنا جیسے امور پر نقل شدہ روایات کے راویوں کی تعداد بے شمار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ روایات اس سلسلے میں ہر شک و شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے، استفاضہ و تواتر کی حدود کو پہنچ گئی ہیں۔ (تمام ہوا کلام ابوالحسن ابراہیمی)

اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰؑ امام مہدیؑ کے پیچھے نماز ادا کریں گے تو اس امر کی (جیسا کہ نظر سے گزرا ہے) احادیث نشانہ ہی کرتی ہیں۔ لیکن سعد الدین تفتازانی نے جس چیز کو صحیح جانا ہے اور کہا ہے کہ حضرت

مہدیؑ حضرت عیسیٰؑ کی امامت اور اقتداء میں نماز پڑھیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰؑ حضرت مہدیؑ سے افضل ہیں۔ بنا براین حضرت عیسیٰؑ کی امامت اولیٰ ہے۔ تو جناب تفتازانی کا حضرت عیسیٰؑ کی امامت کی اولویت کے لئے مذکورہ دلیل لانا صحیح نہیں۔ کیونکہ نماز میں حضرت مہدیؑ کا حضرت عیسیٰؑ کے لئے امام بننے کا مقصد، بجز اسکے کچھ نہیں کہ آپؑ (عیسیٰ) ہمارے نبی اکرمؐ کی شریعت کے تابع، آنحضورؐ کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کا حکم دینے والے بن کر نازل ہوئے ہیں۔ نیز آپؑ (عیسیٰ) اپنی شریعت پر عمل کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اس امر کی نشاندہی کے لئے آپؑ (عیسیٰ) شریعت محمدیؐ پر عمل پیرا شخص (یعنی حضرت مہدی) کی اقتداء کریں گے، باوجود اسکے کہ آپؑ اس امام جماعت (مہدی) سے افضل ہیں۔

اب حضرت عیسیٰؑ کا افضل ہونا اسکے باوجود آپؑ کا امام مہدیؑ کی امامت میں نماز ادا کرنا، یہ دو تصادم باتیں ہیں جن کے تصادم کو اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ پہلے حضرت عیسیٰؑ امام مہدیؑ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے تاکہ اس امر کی وضاحت ہو جائے کہ آپؑ (عیسیٰ) شریعت محمدیؑ کے تابع ہیں پھر اسکے بعد حضرت مہدیؑ مفصول کو فاضل کی اقتداء کرنے، کے قانون کے تحت حضرت عیسیٰؑ کی اقتداء کریں گے، اور اس توجیہ کے بعد دونوں قول صحیح اور ان کا تصادم ختم ہو جائے گا۔ (تمام ہوا کلام)

**کلام مصنف :** مذکورہ بالا کلام میں چاہے وہ سعد الدین کا اعتراض ہو۔

۱۔ اگر قانون اقتداء مفصول بالفاضل، یعنی اولیٰ کا غیر اولیٰ کی امامت کرنا، طے شدہ امر اور عقلی قوانین کے تحت ثابت شدہ ہے، تو پھر عقلی قوانین میں (بقیہ اگلے صفحے پر)

یا ان کے تحریر کردہ اعتراض کا جواب (جو انہوں نے دیا ہے اور تصادم کو ختم کیا ہے) دونوں میں ہمیں کلام اور اعتراض ہے۔ جیسا کہ قارئین کرام پر بھی مخفی نہیں۔

أسعاف الراغبین اور کتاب الکشف مولفہ حافظ سیوطی میں

(گزشتہ صفحے سے پیوستہ) تھیں کی گنجائش نہیں پس حضرت مہدی کی امامت چہ معنی وارو

مزید برآں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ نبی ہیں لیکن رسول اکرمؐ سے بلند ہرگز نہیں اور اسی طرح رسول اکرمؐ کے خلیفہ اور آپؐ کے نائب حضرت مہدی سے بھی اولیٰ و افضل نہیں۔ کیونکہ نائب اور منوب عنہ میں ماتحت اور مماثلت کا پایا جاتا، جس لحاظ سے وہ نائب اور منوب عنہ ہیں لازمی اور ضروری ہے۔

اسکے علاوہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اول و افضل ہیں تو رسول اکرمؐ، صحابہ کرامؓ و اہل بیتؑ اور ائمہ اطہارؑ نیز اہل بیت کرامؑ سے عروسی روایات میں تمام کا مرکز و محور حضرت مہدیؑ کی ذات کیوں ہے؟ اس صورت میں تو روایات کا محور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو ہونا چاہئے تھا۔ جبکہ ایسا ہرگز نہیں اور تمام مشکلات پریشانیوں، مصائب اور کلام کا اختتام ”ظہور مہدیؑ“ کو تھلایا گیا ہے۔

نیز صواعق محرقة، أسعاف الراغبین اور دیگر کتب میں جس حکومت کے فضائل اور برکات کی نشاندہی کی گئی ہے وہ حضرت مہدیؑ (روحی لہ اقدس) کی حکومت ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔

مذکورہ بالا نکات کی روشنی میں (البتہ ہمارے پاس اور بھی بہت سے دلائل ہیں لیکن مقام ہذا، اختصار کی اقتضاء کرتا ہے) محد الدین قناتزانی کا یہ ثابت کرنا کہ درحقیقت امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہونا چاہئے اور افضل حضرت عیسیٰؑ ہیں غلط ثابت ہو جاتا ہے۔

راویوں کے مختلف سلسلوں سے منقول ہے کہ : حضرت عیسیٰؑ اپنے نزول کے چالیس برس بعد تک ٹھہرے رہیں گے۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ صرف ہمارے نبی یعنی ختمی مرتبت کی شریعت پر عمل کروائیں گے۔ اس بات کا علماء نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور احادیث کے علاوہ اس مسئلہ پر اجماع بھی قائم ہے۔“ (تمام ہوا کلام اسعاف المر اغیبین)

کلام مصنف : اس موضوع پر احادیث بے شمار بلکہ مستفیضہ ہیں۔ نیز کتاب بڑا کی فصل سوم میں اسی موضوع کی مناسبت سے جناب محدث حنفی کا کلام نقل کیا گیا ہے۔

### ظہور کی برکات

عقد الدرر باب ششم صفحہ ۷۳ میں حاکم ابو عبد اللہ کی کتاب مستدرک سے اور اس میں عبد اللہ بن عباس سے حضرت ممدیؒ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا:

”چوپائے اور وحشی درندے تک امن و امان کی زندگی بسر کرنے لگیں گے اور زمین اپنے جگر پارے اگل دے گی۔“

راوی کتا ہے میں نے پوچھا : زمین کے جگر پاروں سے کیا مراد ہے؟  
ابن عباس نے جواب دیا : ستونوں کی مانند سونے اور چاندی کے ٹکڑے۔

صاحب عقد الدرر اس حدیث کے بارے میں حاکم کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ : یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی نظر میں صحیح ہے لیکن تب بھی انہوں

نے اسے نقل نہیں کیا ہے۔

کلام مصنف : بظاہر زمین کے جگر پاروں سے مراد معدنیات ہیں۔  
 ایضاً اسی کتاب کے باب ہفتم صفحہ ۱۲۵ میں ابو عمر عثمان بن سعید مقری سے  
 خود انکی کتاب سنن سے اور اس میں حذیفہ بن الیمان سے اور وہ رسول اکرمؐ سے  
 حضرت ہدیٰؑ اور انکے ظہور کا قصہ نقل کرتے ہیں اور پھر آنحضرتؐ کا یہ جملہ  
 نقل ہے کہ : اہل آسمان و زمین، درندگان، پرندگان اور سمندر کی مچھلیاں تک  
 اس کے وجود کے سبب شاد و خوشحال ہوئے، اسکی سلطنت کے ایام میں پانی  
 فراوانی سے ہوگا، سرس طویل اور زمین پر اگنے والی نعمتیں دو چند ہوں گی نیز تمام  
 معدنی خزانے دریافت ہو جائیں گے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً باب ہفتم صفحہ ۱۳۱ میں حاکم، سی مستدرک سے اور اس میں ابو سعید  
 خدری سے نقل ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ : میری امت پر ایسی آفات  
 نازل ہوگی کی اس سے شدید کبھی نہ سنی گئی ہوں گی یہاں تک کہ یہ زمین اپنے  
 پھیلاؤ کے باوجود ان پر تنگ اور ظلم و ستم سے بھر جائے گی، مومن کو ظلم سے بچنے  
 کے لئے پناہ گاہ تک نہ ملے گی۔ اس وقت خدا میرے اہل بیت میں سے ایک  
 شخص کو ظاہر کرے گا، اہل آسمان و زمین اس سے راضی و منشور ہوں گے، زمین  
 اپنے اندر رہنے والے ہر بیچ کو اگا کر دم لے گی اور آسمان باران رحمت کا کوئی قطرہ  
 برسائے بغیر نہ رکھے گا۔ وہ لوگوں کے درمیان سات، آٹھ یا نو برس زندگی  
 گزارے گا، اہل زمین کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے ایسی خیر و برکات پہنچیں گی کہ  
 مردہ لوگ زندہ ہونے کی تمنا کریں گے۔

صاحب عقد الدرر کہتے ہیں کہ : حاکم (المستدرک - ج ۳ - ص ۳۶۵) نے

کہا ہے کہ : یہ حدیث صحیح السند ہے لیکن تب بھی امام بخاری اور امام مسلم نے اسکو نقل نہیں کیا ہے۔

ایضاً اسی باب صفحہ ۳۹ میں ابو نعیم کی مناقب المہدی سے اور طبرانی کی معجم سے اور یہ دونوں ابو سعید خدری سے اور وہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ : مہدی کے ایام میں میری امت کو ایسی نعمتیں نصیب ہوں گی جو اس سے پہلے ہرگز نہ نصیب ہوئی ہوں گی، آسمان بارانِ رحمت کو موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی اگنے والی چیزوں کو اگایا کرے گی۔

ایضاً اسی باب صفحہ ۱۶۸ میں ابو سعید خدری سے نقل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا : مہدی میری امت کے درمیان خروج کرے گا۔ خدا اس کو بارانِ رحمت کی مانند قرار دے گا جس میں لوگ نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ چوپائے اور حیوانات تک اسی کے سائے میں جنیں گے، زمین تمام نباتات کو اگادیا کرے گی اور وہ اموال و دولت کو لوگوں کے درمیان مساوات سے تقسیم کرے گا۔

ایضاً اسی کتاب کے باب ہشتم صفحہ ۷۱ میں طبرانی سے انکی کتاب معجم اور نعیم بن حماد سے انکی کتاب الفتن سے اور یہ دونوں ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں کہ : میری امت کو مہدی کے دور میں ایسی نعمتیں نصیب ہوں گی جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی ہوں گی۔ آسمان بارانِ رحمت موسلا دھار برسائے گا، زمین اپنی اگنے والی تمام اشیاء کو اگائے گی۔ اموال و دولت اس دن ایک حقیر اور بے حیثیت شخصے ہوگی یہاں تک کہ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر کہے گا کہ اے مہدی! مجھے کچھ مال عطا کرو۔ تو وہ فوراً کہے گا کہ : یہ لو۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً اسی کتاب عقد الدرر صفحہ ۱۵۶ میں ابو نعیم اصمغانی کی کتاب صفة

المہدی سے اور اس میں ابو سعید خدری سے نقل ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا : ایک شخص میرے اہل بیت سے تخریج کرے گا جو میری سنت پر عمل پیرا ہوگا، آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی اور زمین اسکی برکت سے اپنے خزانوں کو خارج کرے گی اور اس کے وجود کی بنا پر اسی طرح عدل سے بھر جائیگی جس طرح ظلم سے بھر چکی ہوگی۔

ابن حجر صواعق میں حاکم کی کتاب صحیح سے اور وہ رسول اللہؐ سے حضرت مہدی کے بارے میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ : اہل آسمان و زمین اس سے محبت کریں گے آسمان ہار ان رحمت کا ایک ایک قطرہ برسائے گا اور زمین اپنی اگنے والی تمام چیزیں اگانے لگی اور زمین اپنے اندر چھپی ہوئی کسی بھی نعمت کو روک کر نہ رکھے گی۔ باری تعالیٰ اہل زمین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا کہ مردے زندہ ہونے کی تمنا کیا کریں گے۔ حاکم کہتے ہیں کہ طبرانی اور برزازی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

### آپؐ کی دعوت کس چیز کی جانب ہوگی

عقد الدرر کے باب ہفتم صفحہ ۱۳۶ میں نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے اور اس میں ابو جعفر محمد بن علیؑ سے نقل ہے کہ : جب بے وئی پھیل چکی ہوگی تو اس وقت مہدیؑ کے میں ظہور کرے گا، اس کے پاس رسول اللہؐ کا پرچم، انکی تلوار، کرتا، نیز انکی نشانیاں نور اور بیان ہوں گی، نماز عشاء کو بجالانے کے بعد با آواز بلند کہے گا۔

”اے لوگو! تمہیں خداوند عزوجل کی بارگاہ میں تمہاری حیثیت سے نگاہ



کر رہا ہوں۔ یقیناً حجت تمام ہو چکی، انبیاء مبعوث ہوئے اور کتب آسمانی نازل کی جا چکی ہیں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خدا کے ساتھ کسی کو اسکا شریک نہ بناؤ۔ خدا اور اسکے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو، جس چیز کو قرآن نے زندہ کیا تم بھی اسکو زندہ کرو اور جس کو قرآن نے صلح ہستی سے مٹا دیا تم بھی اسکو مٹا دو۔ پرہیزگاری، ہدایت اور تقویٰ میں (مہدی کے) اعمان و انصار بنو، کیونکہ دنیا کی بربادی قریب ہے اور اس نے اپنی رخصت کا اعلان کر دیا ہے۔ میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا اور اسکے رسول کی طرف آؤ۔ اسکی کتاب پر عمل کرنے کو، نصب العین قرار دو۔ باطل کو مٹا دو اور سنت رسول کو زندہ کرو۔“

پھر امام ابو جعفر نے فرمایا کہ : وہ اصحاب بدر کی طرح تین سو تیرہ افراد کے درمیان اچانک ظہور کرے گا وہ لوگ موسم بہار کے باولوں کی طرح گلزیوں میں بٹے ہوں گے۔ راتوں کو محراب عبادت میں خدا کے عبادت گزار بتدے اور دن کو شیرغراں ہوں گے۔ پس خدا مہدی کے ہاتھوں سرزمین حجاز کو فتح کرائے گا اور بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے قیدیوں کو رہائی دلوائے گا۔ اور سیاہ پرچم کو نئے میں اتریں گے اور بیعت کے ہمراہ مہدی کی طرف روانہ کئے جائیں گے، مہدی اپنے لشکروں کو تمام دور دراز مقامات کی جانب بھیجے گا۔ اہل ظلم ستم کا نام و نشان مٹ جائے گا اور تمام شہر اس کے زیر پرچم آجائیں گے۔

ایسا اسی باب صفحہ ۱۵۶ میں ابو نعیم سے انکی کتاب صفة الاحمدی سے اور اس میں ابو سعید خدری سے نقل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا : میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خروج کرے گا جو میری سنت کے مطابق عمل کرے گا۔

آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی۔ زمین اپنی برکتیں اگل دے گی، آپ ہی کے وجود کی بدولت زمین عدل سے اس طرح بھر جائے گی جس طرح ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔

ایضاً اسی فصل صفحہ ۲۲۶ میں عبداللہ بن عطار سے منقول ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے قائم کے بارے میں کچھ بتائیے؟ انہوں نے فرمایا: وہ میں نہیں ہوں نہ وہ ادگ کہ جن کو تم سمجھتے ہو۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے طور اطوار کیسے ہوں گے۔ فرمایا: رسول اللہؐ جیسے۔

ایضاً اسی باب میں نعیم بن حماد سے اور وہ جناب عائشہ سے اور وہ رسول اکرمؐ سے نقل کرتی ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: مہدی میری عترت میں سے ایک شخص ہے۔ میری سنت (کے دفاع) میں اسی طرح قتال کرے گا جس طرح میں نے وحی (کے دفاع) میں قتال کیا۔

ابن حجر نے صواعق کے صفحہ ۹۸ پر اور بیہق کے صفحہ ۴۳۳ پر اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک حدیث نقل کی ہے۔

صاحب اسعاف الراغبین کہتے ہیں کہ فتوحات مکہ میں ایک اور مقام پر مرقوم ہے کہ: حضرت مہدیؑ تمام مقدمات کے فیصلے اور احکامات کا صدور ان قوانین شرعیہ کی روشنی میں کریں گے جو ان پر ایک فرشتہ الہام کی صورت میں لائے گا۔ کیونکہ شریعت محمدیؐ آپؑ (مہدی) کو الہام کی صورت میں موصول ہوگی لہذا آپؑ اسی الہام کی روشنی میں احکامات صادر کریں گے، جیسا کہ اس بات کی جانب حدیث مہدی میں اشارہ ملتا ہے کہ آنحضرتؐ نے

فرمایا:

”وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور اس سے ہرگز غلطی سرزد نہ ہوگی۔“

میں اس حدیث کے ذریعے آنحضرتؐ نے ہم کو بتا دیا کہ حضرت مدیؑ، آنحضرتؐ کی شریعت کے تابع ہیں، کسی نئی شریعت کے بانی نہیں۔ نیز آپؐ اپنے تمام فیصلوں اور احکامات میں لغزش و خطا سے پاک ہیں۔ اب کیونکہ فرشتہ الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت مدیؑ کو تمام احکامات واضح انداز سے بتا دیئے ہیں لہذا امام مدیؑ پر اجتہاد حرام ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو تمام اہل اللہ کے لئے اجتہاد کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کیونکہ ان اہل اللہ کے سامنے رسول اکرمؐ مشہود ہیں، جب بھی یہ لوگ کسی حکم یا حدیث کی صحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، رسول اللہؐ سے رجوع کرتے ہیں اور آنحضرتؐ ان کو یقین دہانہ اور مشافہہ کے عالم میں حقیقت امر سے آگاہ کرتے ہیں۔

لہذا اس طرح کے مشہود کا حامل اور مالک سوائے رسول اکرمؐ کی تہذیب کے کسی اور امام کی پیروی کا ہرگز محتاج نہیں۔

## آپؐ کی سیرت مبارکہ

عقد الدرر کے باب پنجم ص ۱۴۹ میں ابو عمر عثمان بن سعید مرقی سے انکی کتاب سنن سے اور اس میں حذیفہ بن الیمان سے اور وہ رسول اللہؐ سے حضرت مدیؑ کے بارے میں نقل کرتے ہیں جس میں آپؐ نے فرمایا کہ : اہل آسمان و زمین پرندے، درندے حتیٰ سمندر کی مچھلیاں تک اس کے وجود سے خوشحال ہوگی۔

عقد الدرر کے باب ہفتم صفحہ ۱۵۵ میں ابو نعیم کی کتاب صفۃ الممہدی سے اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اور یہ دونوں ابو سعید بن خدری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا : میں تمہیں مہدیؑ کی بشارت دیتا ہوں۔۔۔۔۔ پھر فرمایا کہ : اس سے آسمان و زمین کے باسی خوش ہوں گے۔

عقد الدرر کے باب سوم صفحہ ۳۹ میں نعیم بن حنا کی کتاب الفتن سے اور وہ اس میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص امام ابو جعفر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ :

”آپ مجھ سے یہ پانچ سو درہم میرے مال کی زکوٰۃ کے بابت قبول کیجئے۔“

آپؑ نے جواب دیا : یہ تم خود رکھو اور اپنے مسلمان پڑوسیوں تیز تاوار مسلم بھائیوں کو دے دینا۔

پھر فرمایا : جب ہمارا مہدیؑ قیام کرے گا تو مال کو مساوات سے تقسیم کرے گا اور رعایا سے عدل برتے گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضا اسی کتاب کے اسی باب میں ابو عمر مرقی کی کتاب سنن اور حافظ نعیم بن حنا سے اور یہ دونوں کعب الاحبار سے نقل کرتے ہیں کہ : میں نے گزشتہ انبیاء کی بعض کتابوں میں یہ موجود پایا ہے کہ مہدیؑ کے فیصلوں اور صادر شدہ احکامات میں نہ تو ظلم ہوگا اور نہ ہی سختی۔

ابن جریر صواعق صفحہ ۹۸ میں رویانی طبرانی اور چند دوسرے لوگوں سے نقل کرتے ہیں کہ : مہدیؑ میری اولاد سے ہے (یعنی رسول اکرمؐ)۔۔۔۔۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ :

”اس کی خلافت پر اہل آسمان و زمین اور پرندے تک راضی و خوشنود ہوں

گے۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

اسکے علاوہ صفحہ ۹۹ (صواعق کے) احمد اور ماوردی سے اس حدیث کے ملتی جلتی حدیث نقل ہے۔

## آپ کا حسن اخلاق

کتاب عقد الدرر کے باب سوم میں حرث بن مغیرہ النذری سے منقول ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ بن علیؑ سے پوچھا:

”ہم مہدی کو کس طرح پہچانیں؟“

جواب دیا : وقار اور اطمینان خاطر کے ذریعے۔ (حدیث ملاحظہ کریں)

ایضا اسی کتاب صفحہ ۳۸ میں حافظ ابو محمد الحسین کی کتاب المصائب سے اور

اس میں کعب الاحبار سے منقول ہے کہ:

”المہدی ینخسع للہ خشوع النسر بجناحیہ“

ایضا باب ہشتم صفحہ ۱۶۸ میں نعیم بن حماد کی کتاب الفتن لوحہ ۹۶ سے اور

اس میں طاؤس سے منقول ہے کہ : ”حضرت مہدیؑ کی نشانی یہ ہے آپ اپنے

کارندوں کے کاموں پر کڑی نظر رکھیں گے۔ مال کو سخاوت سے تقسیم کریں گے

اور ناداروں سے ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں گے۔

ایضا باب نہم کی فصل سوم صفحہ ۲۲ میں نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے

اور اس میں ابورویہ سے نقل ہے کہ حضرت مہدیؑ اپنے ہاتھ سے مسکین کو مکھن

چنائیں گے۔

ایضا باب نہم فصل سوم صفحہ ۲۲۸ میں حضرت ابو عبد اللہ الحسین بن علی

طیحا السلام سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ:

”جب مہدیؑ خروج کرے گا تو اسکے اور عرب و قریش کے درمیان صرف تلوار ہوگی۔ وہ لوگ (بنائیں) مہدیؑ کے خروج کے سلسلے میں عجلت کیوں کریں گے؟ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس کا لباس سخت اور کھردرا ہوگا غذا صرف جو کے آٹے سے تیار کی گئی ہوگی اور وہ جہاں بھی ہوگا موت اسکی تلوار کے سائے میں ہوگی۔“

### دین کا آپؐ کے ہاتھوں اختتام تک پہنچنا

عقد الدرر کے باب اول صفحہ ۱۳۲ میں حفاظ کرام کی ایک جماعت سے جن میں ابو القاسم طبرانی، ابو نعیم اصفہانی، ابو عبد الرحمن بن ابی حاتم، ابو عبد اللہ نعیم بن حماد اور دوسرے شامل ہیں منقول ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ نے رسول اللہؐ سے روایت کی کہ میں نے رسول اکرمؐ سے پوچھا: یا رسول اللہؐ آیا مہدیؑ ہم میں سے ہے یا کسی اور سے؟

رسول اللہؐ نے جواب دیا: یقیناً ہم ہی سے ہے خدا اس کے ہاتھوں اسی طرح دین کو آخر تک پہنچائے گا جس طرح ہمارے ہاتھوں اس کی بنیاد رکھوائی۔“

ایسا باب ہفتم میں مذکورہ بالا حفاظ کرام ہی سے اور وہ سب علی بن ابی طالبؑ سے روایت کرتے ہیں کہ:

میں نے رسول اللہؐ سے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ! آیا مہدیؑ ہم آل محمدؐ سے ہے یا کسی اور سے؟

آپؐ نے جواب دیا : یقیناً ہم ہی سے۔ خداوند تعالیٰ دین کو اس کے ہاتھوں  
 اسی طرح اختتام تک پہنچائے گا جس طرح ہمارے ہاتھوں ابتداء کروائی۔"  
 ایضاً اسی باب صفحہ ۱۲۵ میں حافظ ابو بکر بیہقی سے اور وہ امیر المؤمنین علی بن  
 ابی طالبؑ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: مہدیؑ ہم ہی سے ہے  
 دین اسی کے ہاتھوں اختتام تک پہنچے گا جس طرح ہمارے ہاتھوں شروع ہوا۔  
 ابن حجر صواعق صفحہ ۷۹ میں ابو القاسم طبرانی سے روایت کرتے ہیں کہ  
 رسول اللہؐ نے فرمایا : مہدیؑ ہم ہی سے ہے۔ جس طرح ہمارے ہاتھوں دین  
 شروع ہوا اس طرح اس کے ہاتھوں اختتام تک پہنچے گا۔"

اسعاف الراغبین صفحہ ۱۳۶ میں مرقوم ہے کہ طبرانی نے یہ روایت نقل  
 کی ہے کہ : مہدیؑ ہم الہی بیت سے ہے۔ جس طرح دین ہمارے ہاتھوں شروع  
 ہوا اسی طرح اسکے ہاتھوں اختتام تک پہنچے گا۔"

### یسود اور نصاریٰ

عقد الدرر کے باب ہفتم صفحہ ۱۳۷ میں نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے اور  
 اس میں سلیمان بن عیسیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا : مجھ تک یہ بات  
 پہنچی ہے کہ تابوت سیکڑہ بجمیرہ طبریہ سے مہدی کے ہاتھوں ہی خارج ہو گا اور پھر  
 وہاں سے ان کے سامنے بیت المقدس میں رکھا جائے گا جس کو دیکھ کر یسودی  
 اسلام لے آئیں گے۔

ایضاً عقد الدرر کے باب سوم صفحہ ۱۳۰ میں مرقوم ہے کہ : بعض روایات  
 کے مطابق حضرت مہدیؑ کو اس لئے مہدیؑ کہا گیا ہے کیونکہ آپؑ کو تورات کے

بعض سپاروں کی طرف ہدایات دے کر لے جایا جائے گا تاکہ آپ ان گمشدہ سپاروں کو شام کی پہاڑیوں سے نکال سکیں اور پھر یہودیوں کو اسکی جانب دعوت دے سکیں جس کے نتیجے میں ایک کثیر تعداد اسلام لے آئے گی۔

صاحب عقد الدرر کہتے ہیں کہ ابو عمرو المدائنی نے اپنی کتاب سنن میں تحریر کیا ہے کہ : ہمدی کو اس لئے ہمدی کہا گیا ہے کیونکہ ان کو شام کی پہاڑیوں کے راستے کی ہدایت کی جائے گی جس میں سے وہ توریت کے سپارے نکالیں گے اور اسی کے ذریعے یہودیوں سے محابہ کریں گے جسکے نتیجے میں یہودیوں کی ایک تعداد آپ کے ہاتھوں پر اسلام لے آئے گی۔

اسعاف الراغبین میں مرقوم ہے کہ : امام ہمدی "تہوت سیکنہ کو انطاکیہ کے غار سے اور توریت کے سپاروں کو شام کی پہاڑیوں سے نکالیں گے پھر اسی کے ذریعے یہودیوں سے محابہ کریں گے جسکے نتیجے میں امت سے یہودی اسلام لے آئیں گے۔" (تمام ہوا کلام اسعاف الراغبین)

بیانج المودۃ میں مشکوٰۃ المصابیح سے اور اس میں ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا : خدا کی قسم! ابن مریم ایک عادل قاضی اور حاکم کی صورت میں ضرور نازل ہونگے۔ پس صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو ختم اور جزیئے کو اٹھادیں گے (زکوٰۃ کے مال کی) اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیں گے لیکن تب بھی کوئی اس کو مال کو (مال و دولت کی فراوانی و بہتات کے سبب) ہاتھ نہ لگائے گا، کینہ آپس کا بغض اور ایک دوسرے سے حسد سبھی کچھ ختم ہو جائیگا۔

کلام مصنف : یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں جزیہ اٹھائے جانے سے مراد تمام لوگوں کا اسلام لے آنا ہے۔ جیسا کہ تمام صلیبوں کے



توڑے جانے سے تمام لوگوں کے اسلام کی طرف تکیا یہ اشارہ ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ آپس کی دشمنی بغض اور اور حسد کے ختم ہو جانے سے مراد حضرت عیسیٰ کا نزول اور انکی برکت سے یہود و نصاریٰ کے درمیان سے ان صفات کا اٹھ جانا ہے۔

### دین اسلام کا غلبہ

عقد الدرر کے باب دوم صفحہ ۳۲ میں ابوالحسن ربیع مالکی سے اور وہ حذیفہ بن الیمان سے اور وہ رسول اللہ سے وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے حضرت مہدی کی سیرت، کنیت اور بیعت کا مقام بتایا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ”خدا اسکے ذریعے دین کی حاکمیت کو لوٹائے گا، عظیم الشان فتوحات اس کا مقدر ہوگی اور زمین پر بجز ”لا الہ الا اللہ“ کہنے والے کے کوئی باقی نہ بچے گا۔“ (حدیث ملاحظہ کریں)

بیانج المدودہ میں شیخ محی الدین عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کے تین سو ترسیٹھویں (۳۶۳) باب سے ایک طویل عبارت حضرت مہدی اور ان کے وزراء کے بارے میں نقل ہے۔ اس سے اقتباس پیش خدمت ہے:

”وہ اس وقت ظاہر ہو گا کہ جب دین معاشرے میں ضعیف اور ناتواں ہو چکا ہو گا۔ جو اس کا انکار کرے گا موت کے گھاٹ اتارا جائے گا اور جو اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گا ذلیل و خوار ہو گا، دین کے حقیقی اور اصلی چہرے کو اس طرح روشناس کرائے گا کہ اگر رسول اللہ بھی اس زمانے میں ہوں تو اسی طرح دین کو روشناس کرائیں زمین سے تمام (من

گھڑت) ادیان کا قلع قمع کر دے گا اور زمین پر بجز دینِ خالص کے کوئی  
 دین باقی نہ رہے گا۔“ (تمام ہوا کلام شیخ محمد بن عبدین عربی)

## آپؐ کے اصلاحی کام

بیابانِ المودۃ میں المناقب سے اور اس میں امام علی بن موسیٰ الرضاؑ سے اور  
 وہ اپنے آباؤ اجداد سے اور وہ رسول اللہؐ سے ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں  
 جس میں ائمہؑ کی فضیلت اور واقعہ معراج کا بھی کچھ ذکر ہے۔ حدیث کا اقتباس  
 پیش خدمت ہے: رسول اللہؐ فرماتے ہیں کہ:

”میں نے کہا: اے میرے پروردگار! میرے اوصیاء کون ہیں؟

تو مجھے ایک آواز آئی کہ اے محمدؐ! تمہارے اوصیاء کے نام میرے عرش  
 کے سنگیوں پر لکھے ہیں۔

اب جو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو بارہ نور تھے اور ہر نور میں ایک سبز پردہ  
 تھا جس پر میرے وصی کا نام لکھا تھا۔ ان میں کے پہلے علیؑ اور آخری  
 مدیؑ تھے۔

میں نے عرض کی:

اے میرے پروردگار! یہ میرے بعد میرے اوصیاء ہیں؟

آواز آئی: اے محمدؐ! یہ میرے اولیاءؑ مجھے چاہنے والے، میرے  
 برگزیدہ بندے اور تمہارے بعد میری مخلوق پر میری حجت ہیں۔ اور یہی  
 تمہارے اوصیاء ہیں۔ قسم ہے میری عزت اور میرے جلال کی میں زمین  
 کو ان میں سے آخری یعنی مدیؑ کے ذریعے ظلم سے پاک کر کے

رہوگا۔ اسکو زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا کر دم لوں گا۔ ہواؤں کو اس کے لئے ضرور مسخر کروں گا۔ نیز مشکلات کو اسکے سامنے آسان و خاضع اور یقیناً تمام اسباب کو اسکے لئے مہیا کروں گا۔ اپنے لشکر سے اسکی نصرت کروں گا۔ اپنے فرشتوں کو اسکی مدد کے لئے روانہ کروں گا، یہاں تک کہ میری حکومت کا پرچم لہرانے لگے اور جس کے نتیجے میں تمام مخلوق میری توحید پر جمع ہو جائے۔ اسکی سلطنت کو قائم و دائم رکھوں گا اور ایام حکمرانی کو اپنے اولیاء کے درمیان قیامت تک گردش دیتا رہوں گا۔“

ایضاً صحیح المودۃ میں ابوالموید موفق بن احمد الخوارزمی اپنی سند کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہؐ کے خادم ابو سلیمان سے نقل کرتے ہیں کہ : ابو سلیمان نے کہا کہ میں نے رسول اللہؐ کو یہ کہتے سنا کہ جس رات مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور پھر رسول اللہؐ آپکے اہل بیت اور بارہ اوصیاءؑ کی فضیلت کا بیان ہے۔ اور پھر رسول اللہؐ کے یہ جملے نقل ہیں :

مجھے پکارا گیا کہ اے محمد! کیا تم اپنے اولیاء کو رکھنا چاہتے ہو؟

میں نے جواب دیا : یقیناً اے میرے پروردگار۔

میرے پروردگار نے مجھے مخاطب کیا اور کہا:

عرش کے واہنی جانب دیکھو۔

میں نے نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ، علی بن حسینؑ، محمد بن علیؑ، جعفر بن محمدؑ، موسیٰ بن موسیٰؑ، محمد بن علیؑ، علی بن محمدؑ، حسن بن علیؑ اور محمد المہدی بن الحسنؑ ہیں اور مہدی ان سب کے درمیان ایک روشن ستارے کی مانند جگمگا رہا ہے۔

پھر رب العزت نے فرمایا : اے محمد! یہ میرے بندوں پر میری رحمت  
ہیں اور یہی تمہارے اوصیاء ہیں۔ ان میں سے صدی تمہاری عزت کو  
قتل کرنے والوں سے انتقام لے گا۔ قسم ہے میری عزت اور میرے  
جلال کی کہ یہی میرے دشمنوں سے انتقام لے گا اور میرے اولیاء کا  
مددگار ہو گا۔“

عقد الدرر کے باب چہارم فصل اول صفحہ ۶۳ میں ابو نعیم اصفہانی کی صفة  
المہدی سے اور اس میں حذیفہ بن الیمان سے منقول ہے کہ رسول اکرمؐ نے  
فرمایا : ”خدا رحم کرے اور اس امت کو ان ظالم و جابر حکمرانوں سے بچائے جو  
کس طرح قتل عام کا بازار گرم کریں گے اور اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں  
کے علاوہ سب کو ذرا نہیں دھمکائیں گے، پاکباز مومن اپنی زبان سے ان کے ساتھ  
بنا کر رکھے گا لیکن دل میں نفرت بھری ہوگی۔ اور جب خداوند تعالیٰ اسلام کی  
عزت کو لوٹانے کا ارادہ کرے گا تو ہر ظالم و جابر کی کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ اور وہ ہر  
چیز پر قادر ہے۔ نیز اس پر بھی قادر ہے کہ امت کی تباہی کے بعد اسکی اصلاح  
کرے۔“

پھر فرمایا : اے حذیفہ! اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو  
تب بھی خداوند تعالیٰ اس دن کو اس قدر طویل کرے گا یہاں تک کہ میرے اہل  
بیت میں سے ایک شخص کی مملکت قائم ہوگی اور وہی ایک گھسان کی جنگ کرے  
گا۔ اسلام کا بول بالا ہو گا۔ اور خدا اپنے وعدے سے ہرگز نہیں پھرتا اور وہ بہت  
سریع حساب لینے والا ہے۔“

ایضاً باب نہم کی فصل سوم صفحہ ۲۲۳ میں امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ سے

حضرت مہدیؑ اور ان کے اصلاحی افعال کے بارے میں مزویٰ ہے کہ : کوئی بدعت ایسی نہ ہوگی کہ جس کو جڑ سے اکھاڑ نہ پھینکے گا اور کوئی سنت ایسی نہ ہوگی جس کو وہ مرسوم نہ کرے۔

ایضاً باب ہفتم صفحہ ۱۳۲ میں حفاظ کرام کی ایک جماعت سے جن میں ابو نعیم، ابو القاسم طبرانی، ابو عبد الرحمن بن ابی حاتم، ابو عبد اللہ نعیم بن حماد شامل ہیں، منقول ہے کہ حضرت علی بن ابی طالبؑ نے رسول اللہؐ سے وہ حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت مہدیؑ کا آل محمدؑ سے ہونا اور خداوند تعالیٰ کا آپؐ ہی کے ہاتھوں دین کو اختتام تک پہنچانے کا ذکر ہے، اسی حدیث میں آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ :

”اور لوگوں نے جس طرح ہماری بدولت شرک سے نجات پائی اسی طرح مہدیؑ کی بدولت فتنوں سے نجات پائیں گے، نیز جس طرح دلوں میں کفر سے پیدا ہونے والی عداوت کو ہماری بدولت باری تعالیٰ نے الفت و محبت میں بدل دیا اسی طرح فتنوں سے پیدا ہونے والی عداوت کو مٹا کر مہدیؑ کی برکت سے الفت و محبت میں بدل دے گا۔“

ایضاً باب نہم کی فصل سوم صفحہ ۲۲ میں عبد اللہ بن عطا سے منقول ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علیؑ کو آپؑ (مہدیؑ) کے بارے میں کچھ کہتے سنا تو پوچھا کہ :

”جب (امام) مہدیؑ ظہور کریں گے تو کون سے کام انجام دیں گے؟“

جواب دیا : جس طرح سے رسول اللہؐ نے اپنے دور سے پہلے کی تمام غلط رسومات منائیں اسی طرح سے وہ بھی تمام غلط رسومات کو نیست و نابود کرے گا اور اسلام کو از سر نو زندہ کرے گا۔“

ایضاً باب نہم کی فصل سوم صفحہ ۲۲۳ میں علی بن ابی طالبؑ سے حضرت

ممدی کے بارے میں ایک حدیث منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں : کوئی بدعت ایسی نہ ہوگی کہ جس کو وہ نسبت و ناپودنہ کرے اور کوئی سنت ایسی نہ ہوگی کہ جس کو وہ قائم نہ کرے۔

ایضاً باب سوم صفحہ ۱۵۶ میں منقول ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی کتاب البعث و الشور میں اور احمد بن حنبل اپنی مسند میں اور ابو نعیم اپنی کتاب صفة المہدی میں اور یہ تمام لوگ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

”میں تم لوگوں کو ممدی کی بشارت دیتا ہوں، وہ اس وقت ظاہر ہو گا کہ جب میری امت کا ایمان ڈگمگا رہا ہو گا اور ان میں پھوٹ پڑ چکی ہوگی۔ اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم ستم سے بھر چکی ہوگی۔“

پھر فرمایا کہ : امت محمدی کے قلوب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے گا اور اس کے عدل کا سایہ سب پر پڑے گا۔“ (ملاحظہ کریں حدیث)

اسی کتاب کے باب ہفتم صفحہ ۱۵۹ میں امیر المؤمنین علیؑ سے حضرت ممدی کے بارے میں نقل ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ : ممدی دیگر شہروں میں اپنے مقرر کردہ والیوں کو لوگوں کے درمیان عدل سے کام لینے کا حکم دے گا۔ پھر شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیئیں گے۔ نو عمر بچے ساتیوں اور بچھوؤں سے کھیلا کریں گے لیکن ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا، شر ختم اور خیر باقی رہ جائیگا۔ ایک مٹھی اگر کوئی بوٹی جائے گی تو سات سو مٹھیوں کے برابر فصل پیدا ہوگی۔ جیسا کہ

قرآن میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا 'زنا' شراب خوری اور سود کا نام نشان تک مٹ جائے گا۔ لوگ عبادات، شریعت کی پیروی اور دینداری کی طرف آئیں گے۔ اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے لگیں گے۔ عرس طولانی ہو گئی، امانتیں ادا کی جائیں گی، درخت پھلوں سے لدے پھندے ہونگے، برکتیں دوچند ہوں گی، بد کردار لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے، پرہیزگار باقی رہیں گے اور اہل بیت سے بغض رکھنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔

اسی کتاب کے باب سوم صفحہ ۳۶ میں نعیم بن حماد کی کتاب الفتن اوجہ ۹۸ سے اور اس میں جعفر بن بشار الشامی سے منقول ہے کہ: حضرت صدیق کے ذریعے مظالم اور حق تلفیوں کا احتساب اس (کڑی) حد تک پہنچ جائے گا کہ اگر کسی انسان کے ایک دانت کے نیچے بھی کسی کی کوئی چیز (ماحق) دبی ہوئی ہوگی تو وہ اس کو بھی کھینچ کر اسکے اصلی مالک کو لوٹا دیں گے۔"

### آپ کی فتوحات اور مملکت کی وسعت

عقد الدرر کے باب دوم صفحہ ۳۱ میں ابوالحسن ماکھی سے اور وہ حذیفہ بن ایمان سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تب بھی خدا میری نسل سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا کہ جس کا نام میرے نام کی طرح اور کردار میرے کردار کی طرح ہو گا۔۔۔۔۔۔ پھر فرمایا: خدا دین (کی عزت) کو اسی کے ذریعے لوٹائے گا اور عظیم الشان فتوحات اسکو عطا کرے گا پس زمین پر کوئی باقی نہ بچے گا۔ بجز "لا الہ الا اللہ" کہنے والے کے۔"

(حدیث ملاحظہ کریں)

ایضاً باب اول صفحہ ۲۰ میں ابو عبد اللہ بن الجوزی کی کتاب تاریخ سے اور اس میں عبد الدین عباس سے منقول ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا : چار لوگ زمین کے مالک بنے دو مومن اور دو کافر مومنوں میں سے ایک ذوالقرنین اور دوسرے سلیمان اور کافروں میں سے ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود اور بہت جلد میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مالک بنے گا۔

اسما فی الرغیبین صفحہ ۳۹ میں درج ہے کہ : روایات میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ آپؐ زمین کے مشرق و مغرب کے مالک بنیں گے۔

یہ بیابان المورۃ میں فرات المسلمین سے اور اس میں سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا : میرے بعد بارہ خلیفہ اور اوصیاء لوگوں پر خدا کی حجت ہیں ان میں کا پہلا علیؑ اور آخری میرا فرزند مہدیؑ ہے روح اللہ عیسیٰ بن مریمؑ نازل ہونگے اور مہدیؑ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اسکی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔

ایضاً اسی صفحہ پر ابو امامہ باہلی سے اور وہ نبی اکرمؐ سے حضرت مہدیؑ کے بارے میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کا ایک جملہ پیش خدمت ہے :

”تمام خزانوں کو دریافت کرے گا اور سارے کے سارے بلاد شرک کو فتح کرے گا۔“

یہ بیابان المورۃ میں فرات المسلمین سے اور اس میں سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا : اگر دنیا کی عمر میں ایک دن ہی باقی رہ گیا ہو تب بھی خدا اس دن کو اس قدر طویل کر دے گا یہاں تک کہ اس



میں میرا فرزند مہدیؑ خروج کرے۔۔۔۔۔ پھر فرمایا : زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اسکی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔

## آپؑ کی خلافت اور سلطنت

آپؑ کی مدت خلافت، سلطنت اور پابرت عمر کے بارے میں مروی روایات مختلف ہیں۔ خصوصاً وہ روایات کہ جو ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کے یہاں منقول ہیں۔

امام ابو داؤد سے آپؑ کی مدت سلطنت سات برس مروی ہے۔

امام ترمذی کے مطابق پانچ سات یا نو برس ہے۔

ابن ماجہ کی رائے بھی امام ترمذی کی طرح ہے۔

ادھر حاکم سے جیسا کہ اسعاف الراغبین میں نقل ہے۔ سلطنت کی مدت سات یا نو برس منقول ہے، لیکن ابن حجر نے حاکم سے صرف سات برس کو نقل کیا ہے، نو برس کو نہیں۔

طبرانی اور بزاز کہتے ہیں کہ آپؑ سات یا آٹھ برس حکومت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ نو برس۔

احمد اور ماوردی کا کہنا ہے آپؑ پانچ سات، آٹھ یا نو برس تک حکومت کریں گے اور پھر آپؑ کے بعد زندگی میں کوئی خیر بہتری باقی نہ رہے گی۔ بعض روایات میں ہیں برس بھی ملتا ہے، جیسا کہ عقد الدرر میں ابو نعیم اور طبرانی سے منقول ہے۔

ایضا عقد الدرر میں ہی نعیم بن حماد سے مروی ہے کہ حضرت مہدیؑ چالیس

سال تک زندہ رہیں گے۔

اسکے علاوہ، اسی موضوع پر اور بھی بہت سے احادیث نقل ہوئی ہیں، لیکن احادیث کی اکثریت مدت سلطنت کو سات برس بتاتی ہیں۔

بعض روایات کے مطابق آپؐ سات برس تک حکومت کریں گے اور ہر برس کی مدت ہمارے بیس برسوں کے مساوی ہوگی، یعنی آپؐ جن اصلاحی کاموں اور اسلامی تعلیمات سکھانے کا بیڑہ اٹھائیں گے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، دیگر اصلاحی تحریکوں کے قائد ہیں برسوں میں وہ کام انجام دیں گے۔

اور بعض روایات سے دس برس کی مدت کا پتہ چلتا ہے۔

اسی بنا پر ان احادیث کی توجیہ، تاویل اور معانی کے تضاد کو ختم کرنے کے سلسلے میں علماء کے اقوال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کے مطابق روایات میں مدت کا حتمی طور سے بیان نہ کرنا خود راوی کی طرف سے ہے۔ اور راوی خود تردد کا شکار تھا۔ اس کی گواہی کے طور پر امام ترمذی کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ ”شک کرنے والوں کی تعداد بہت ہے۔“

اسماعیل بن ابی عمیر نے صفحہ ۱۳۲ میں یہ مرقوم ہے کہ : اکثر روایات کے مضمون سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ آپؐ کی مملکت سات برس کے عرصے پر محیط ہوگی، اسکے علاوہ نو اور چھ برس (جیسا کہ چند سطور پہلے گزرا) پر کوئی یقینی اور حتمی دلیل نہیں۔

ابن حجر کا کہنا ہے کہ احادیث کے مضامین متفق علیہ انداز سے بلاشک و شبہ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ آپؐ کی مملکت سات برس کے عرصے پر محیط ہوگی۔

ایضاً ابوالحسن اہری سے بھی منقول ہے کہ : آپ کی حکمرانی کا عرصہ سات برس بتانے والی روایات استفاضہ اور تواتر کی حدود کو پہنچ چکی ہیں۔

کلام مصنف : مذکورہ بالا قول (سات برس) ہی روایات کی رو سے واضح تر اور علماء کے درمیان مشہور تر ہے۔ نیز یہ قول اس عظیم الشان فضیلت کی جانب اشارہ بھی ہے۔ یعنی جس طرح آپ کے جد امجد حضرت خاتم الانبیاء والہرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے برس سے اپنے وصال تک 'آٹھ برس کے اس مختصر عرصے میں وہ تمام اصلاحات انجام دیں' اسی طرح حضرت مدی بھی سات برس کی مختصر مدت میں ان تمام متوقع دنیاوی اور اخروی اصلاحات اور فلاحی کاموں کو انجام دیں گے۔

أسعاف الرغیبین صفحہ ۱۳۳ میں درج ہے کہ : ایک اور روایت کے مطابق آپ کی حکمرانی کی مدت مذکورہ مدت سے زیادہ ہے۔ اس روایت کے مطابق یہ مدت چالیس برس کے عرصے پر مشتمل ہوگی جبکہ ایک اور روایت کے مطابق اکیس اور ایک دوسری روایت کے مطابق چودہ برس پر محیط ہوگی۔ اسکے علاوہ اور بھی چند مدتیں مذکور ہوئی ہیں۔

ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ : حضرت مدی منظر کی علامات کے بارے میں منقول روایات میں 'سب سے زیادہ سات برس کا ہی تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہی علماء کے درمیان مشہور ہے۔ اور اگر ان مختلف مدتوں کی نشاندہی کرنے والی تمام روایات کو صحیح مان لیا جائے تو ان روایات کا تضاد اور ٹکراؤ اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی سلطنت طاقت، اقتدار اور غلبہ پانے کے لحاظ سے مختلف ہو گی۔ چالیس سال کا عدد 'بطور مثال' آپ کی سلطنت کے قیام کے پہلے دن سے

لے کر آخری دن تک کی جانب اشارہ ہے۔۔۔ سات 'آٹھ یا اسی طرح کے دوسرے عدد آپ کی سلطنت کے اعلیٰ ترین اقتدار اور سونی صد تسلط کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور بیس سال یا اس سے نزدیک مدتیں آپ کی سلطنت کی اوسط اور درمیانی طاقت کے ایام ہیں۔

کلام مصنف : مدت کے بارے میں روایات میں موجود اختلاف کو ختم کرنے کے لئے یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ اس سے حقیقت کا چھپانا اور حضرت مہدی کی حکمرانی اور سلطنت کی مدت کا مخفی رکھنا مقصود ہے۔ جس طرح آپ کے ظہور کے وقت کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ سامع کا ذہن کسی ایک طرف نہ جاسکے اور وہ اسی طرح فتح کی امید رکھتے ہوئے، حضرت مہدی کے لئے طویل سے طویل تر عمر کی دعا کرتا رہے، اگرچہ ان روایات میں (جیسا کہ چند سطور پہلے مذکور ہوا) سات برس کا پلڑا بھاری ہے اور یہ قول مشکوک تر ہے۔



## اختتام

نہایت مستحسن اور پسندیدہ بلکہ ضروری اور لازم امور میں سے ہے کہ جن کتب اور تصانیف کا ہم نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے ان کا ذکر مع مصنف کے نام کے کریں۔ تاکہ ان علماء کا حق ادا ہونے کے ساتھ ساتھ محترم قارئین کو اطمینان اور سکون خاطر حاصل ہو سکے۔

لہذا پیش خدمت ہیں

اسعاف الراغبین فی سیرة المصطفیٰ و فضائل اہل  
بیتہ الطاہرین۔

مؤلف : استاد گرامی قدر جناب شیخ محمد الصبان۔ متوفی ۱۳۰۶ھ

طبع شدہ : ۱۳۲۶ھ ق۔ مطبعہ ازہریہ۔ مصر۔

الجامع اللطیف فی فضل مکة و اہلنا و بناء المسجد  
الشریف۔

مؤلف : علمی مباحثوں کے ماہر جناب علامہ شیخ جمال الدین محمد جار اللہ  
بن محمد نور الدین بن ابوبکر بن علی بن ظمیرة القرشی الخزومی۔ آپ نے یہ کتاب

۱۹۵۰ء میں تحریر کی اور مطبعہ دار احیاء الکتب العربیہ نے اسے ۱۹۷۶ء میں چھاپا۔

شرح نہج البلاغہ

شارح : امام الادب الفتو و تازن شیخ عزالدین ابو حامد عبد الحمید بن جبہ

اللہ الذی اتى الشتر ابن ابی الحدید۔

متوفی ۷۶۵ھ : طبع شدہ : مطبعہ دار الکتب العربیہ مصر۔ جلد ۳

صحیح بخاری

تالیف امام المحدثین ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مقیرہ۔

متوفی : ۲۵۶ھ۔ طبع شدہ : مطبعہ بیروت ۱۳۳۲ھ

صحیح سنن المصطفیٰ

تالیف : الامام المحدث ابو داؤد سلیمان بن اشعر سہستانی۔

متوفی : ۲۵۴ھ۔ طبع شدہ : امام زرقاتی کی شرح صحیح موطا کے حاشیہ

پر۔ مطبعہ خیریہ مصر ۱۳۱۰ھ

صحیح ترمذی

تالیف : الامام المحقق ابو نعیم محمد بن سعید۔

متوفی : ۲۷۸ھ۔ طبع شدہ : مطبعہ غول کشور لکھنؤ۔ ۱۳۱۰ھ

الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدو والنزاعہ

تالیف : الشیخ العالم الفاضل شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی۔ مقيم مکہ

المطبعة۔

متوفی : ۹۷۳ھ۔ طبع شدہ : مطبعہ یمنیہ مصر۔ ۱۳۱۲ھ

عقد الدرر فی اخبار الامام المنتظر۔

اس کتاب کو عقد الدرر فی الاخبار الممدی یا اخبار المختصر بھی کہا جاتا ہے۔  
 تالیف : العالم القاضی المحقق ابو بدر شیخ جمال الدین یوسف بن یحییٰ بن  
 علی بن عبد العزیز بن علی المقدسی الشافعی دمشقی۔ آپ اس کتاب کی تالیف سے  
 ۶۵۸ھ میں فارغ ہوئے۔ ہم نے براور ان اہل سنت کی اس موضوع میں جتنی  
 کتب کا مطالعہ کیا ان میں سب سے بہتر اسی کو پایا۔ اسکا طبع شدہ نسخہ تو ہمیں نہ  
 مل سکا، شاید یہ ابھی تک چھپی نہ ہو۔ لیکن اس کے دو نسخے کتابخانہ حضرت امام  
 رضا میں موجود ہیں جن میں سے ایک پر ۹۵۳ھ کی تاریخ درج ہے۔ دوسرا نسخہ  
 ہمارے محترم امام ائمہ حدیث میرزا محمد حسین نورانی طبری طالب ثراہ (متوفی  
 ۱۳۴۰ھ) کے کتابخانے میں ہے۔ جیسا کہ ان کی کتاب کشف الاستار میں مذکور  
 ہے۔

ایک اور نسخہ ہمارے محترم اور حوزہ علمیہ قم کے استاد جناب سید شہاب  
 الدین مرعشی الحلیفی کے کتابخانہ میں ہے، جیسا کہ انہوں نے مجھے خود بتایا  
 ہے۔

ایک اور نسخہ ہمارے محترم علامہ ابو الجہد محمد رضا اصفہانی کے کتابخانے میں  
 ہے اگرچہ یہ بھی اغلاط سے خالی نہ ہو لیکن تب بھی کتاب ہذا میں ہم نے جتنے  
 حوالے دیئے ہیں اسی نسخے کے تحت ہیں۔

کتاب عقد الدرر کو کتاب اندر الموسویہ میں سید علی بن شہاب بہدانی کی  
 کاوش قلم بتایا گیا ہے۔ بظاہر سوا یہ کام ہوا ہے کیونکہ ہم نے کہیں بھی سید علی  
 بن شہاب کے لئے اس نام کی کسی کتاب کا تذکرہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ہاں انکی ایک  
 کتاب ”مودۃ القرینی“ نام کی ضرور ہے۔

مترجم : کتاب عقد الدرر کے جس نسخے کا ہم نے ترجمے میں حوالہ دیا وہ ہے : طبع شدہ ۱۹۷۹ء۔ مطبع خانہ : مکتبہ دارالافتاء قاہرہ مصر۔  
تحقیق : ڈاکٹر عبدالفتاح محمد الخلدی

کتاب ینایع المودۃ کے اواخر اور کتاب غایۃ المرام سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان اور کفایۃ الطالب فی فضائل علی بن ابی طالب یعنی ابو عبد اللہ سنی الامام المحدث نے اپنی بعض کتب میں عقد الدرر سے روایات نقل کی ہیں۔

آنہوں میں چھاپ۔ استنبول : ۱۳۰۲ھ ق

الفتوحات الاسلامیۃ ببعض مضی الفتوحات النبویہ  
تالیف : الاستاذ الامام والمحقق سید احمد بن زینی دحلان مفتی مکہ مکرمہ۔  
متولی ۱۳۰۳ھ۔

طبع شدہ : مکتبہ تجاری کبریٰ کے مالک معظفی محمد کے چھاپ خانے میں۔  
۱۳۱۲ھ۔

الفتوحات المکیہ

تالیف : العالم العارف والمحقق الشیخ ابو عبد اللہ محی الدین محمد بن علی معروف بابن عربی حاتم طائی۔

سچ تو یہ ہے کہ یہ اپنے موضوع پر بڑی سوومند کتاب ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ تصانیف کی دنیا میں اس جیسی کوئی دوسری کتاب موجود ہو۔

طبع شدہ : مطبعہ دارالکتب العربیہ الکبریٰ۔ مصر۔

کشف لظنون عن اسامی الکتب والفتون۔



اپنے موضوع میں بڑی زبردست کتاب ہے۔ خود اس کا نام اسکے موضوع کا  
 بیانگر ہے۔

تالیف : العالم المحقق ملا کاتب طہلی۔ متوفی ۱۰۶۷ھ

طبع شدہ : دارالسعادۃ : ۲ جلد ۱۳۱۰ھ

صفات یخ الغیب

یہ وہی مشہور زمانہ تفسیر ہے جس کا شمار سارے عالم میں ہے۔

تالیف : الامام المحقق محمد فخر الدین رازی۔ متوفی ۶۰۶ھ۔ ۸ جلد

طبع شدہ : مطبعہ عامرہ۔ آستانہ علیا ۱۳۰۸ھ۔ اسکے حاشیہ پر الامام

الفاضل ابو مسعود کی تفسیر بھی ہے۔

مفردات قرآن

مؤلف : الشیخ الامام الحدیث، لغت کے زبردست ماہر ابو القاسم حسین

بن محمد الفضل معروف بہ راغب اصفہانی۔ متوفی ۵۰۲ھ

طبع شدہ : مصر۔ اسی کے حاشیہ پر ابن اثیر کی تفسیر بھی ہے۔

نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار

مؤلف : العالم الفاضل سید موسیٰ بن حسن شبلنجی۔

طبع شدہ : مطبعہ عثمانیہ۔ مصر ۱۳۰۳ھ

النهاية فی غریب الحدیث و القرآن

تالیف : جناب محترم محدث، ماہر لغت و ادب، ابو سعادت مبارک بن

محمد بن محمد بن الخیرری (ابن اثیر)۔ متوفی ۶۰۶ھ

طبع شدہ : مطبعہ خیریہ مصر۔ ۳ جلدی

### فہرست البلاغہ

اسکو جمع کیا ہے۔ قبلہ و کعبہ ذوی الاحترام جناب شریف رضی محمد بن ابو احمد موسوی - بغداد میں آل ابوطالب کے نقیب۔ آپ نے اس کتاب میں امیرالمومنین علیؑ کے منتخب خطبات اور کلمات قصار کو جمع کیا ہے۔

طبع شدہ : مطبعہ استقامہ مصر۔ ۱۳۰۳ھ۔ جلد

اسی پر امام شیخ محمد عبدہ مفتی اعظم مصر اور جامع ازہر کے استاد جناب عالم فاضل شیخ محی الدین محمد عبدالحمید کی شرح بھی ہے۔

### رسالہ ہدی الاسلام

مصر کا یہ رسالہ ہفتے وار ہے۔ اسے مالک اور مدبر محمد احمد صیرفی ہیں۔ اس رسالے میں مصر کے فاضل علماء کرام کی تحریریں چھپتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے یہ دینی اور اصلاحی رسالہ اپنی مثال آپ ہے۔

۱۳۵۳ھ (۱۹۳۳ء) میں چھپنا شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ (۱۹۳۸ء)

### ینابیع السودة فی مودة نوى القربى

تالیف : شیخ عالم فاضل عارفہ جناب سلیمان بن خواجہ کان الحسینی بلخی

قدوزی نقشبندی۔ - جنوری ۱۳۹۳ھ

طبع شدہ : مطبعہ اختر۔ آستانہ علیا

بمجد اللہ (تبارک تعالیٰ) تمام ہونے وہ تمام امور جن کو ہم نے یاد ہویں امام حضرت ابوالقاسم محمد بن الحسن البغدادی المنتظر کے بارے میں بردوان اہل سنت کی مروی احادیث اور ان کے علماء کرام کے اقوال سے جمع کیا اور اسکی تالیف و تشریح کا ارادہ کیا۔

قارئین کرام سے میری استدعا یہ ہے کہ اپنی اصلاحی تجاویز سے مجھ کو ضرور نوازیں تاکہ میں دوسری طباعت میں ان کو کتاب میں شامل کر سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے اور قارئین کرام کے لئے توفیق اور خطاؤں سے دوری کی دعا کرتا ہوں۔ آمین

یہ سطور کلکتہ گئیں بروز شنبہ ۲۳ ستمبر ۱۹۵۸ء ق۔ برطانیق : ۱۹۳۸ء۔ تم

المقدس

استدعا

قارئین کرام سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کا ثواب حضرت آیت اللہ العظمیٰ العلاء۔ المشہد سید سید الدین سید زکی روح کو پہنچائیں۔

❦❦❦

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ..... المہدی (عج)  
 تالیف ..... آیت اللہ العظمیٰ السید صدر الدین الصدر  
 ترجمہ ..... مجلس مترجمین  
 ناشر ..... مجمع العلماء الاسلامی  
 تاریخ اشاعت اول ..... ربیع الاول ۱۴۱۹ھ، جولائی ۱۹۹۸ء  
 تعداد .....  
 نیشنل کورڈینیشننگ ..... العصر پبلشر، ناظم آباد، کراچی فون : ۶۸۴۳۰۷

مرکزی دفتر:

قم - بلوار محمد امین (عس) - کوچہ ۱۹ - پلاک ۷۴

جمہوری اسلامی ایران

فون : ۸۴۳۱۷۷، ۹۳۳۳۵۷-۲۵۱-۰۰۹۸

فیکس : ۹۳۳۳۵۷-۲۵۱-۰۰۹۸